

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسِرِّكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِوَهَّاجِ بِسْمِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بوسیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو روشن چراغ ہے اور بوسیدہ "بسم اللہ

اللَّهُمَّ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِرَهَّاجِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

الرحمن الرحیم کے جو نورانی جوہر ہے۔ اور بوسیدہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کی برسات کے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُلْكِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ تَعْبُدُو

کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک۔ اے ان صفات کمال والے تم میری ہی

اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں راہ راست پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تونے

عَلَيْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ اٰمِیْنٌ وَكَآئِنُ مِنْ دَآئِبَةِ

انعام فرمایا نہ غضب کئے ہوؤں اور بھٹکے ہوؤں کی۔ آمین۔ اور کتنے جاندار ہیں کہ

لَا تَحِیْلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ یَرْزُقُهَا وَاِیَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اپنی روزی نہیں اٹھاتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہی سننے والا ہے۔ اے اللہ

اَسْأَلُكَ بِدَقَائِقِ مَعَانِی الْقُرْآنِ الْعَظِیْمِ الْمِتَلَاطِمَةِ اَمْوَاجِهَا فِی بَحْرِ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل قرآن عظیم کے باریک و لطیف معانی کے جن کی موجیں باہم تلاطم خیر ہیں

بِاطْنِ خَزَائِنِ عَلَیْكَ الْمَخْزُوْنِ وَبِآیَاتِهِ الْبَیِّنَاتِ الزَّاهِرَاتِ عَلٰی

تیرے مخفی علم کے خزانے باطنیہ کے سمندر میں اور بطفیل اس کی آیات بینہ کے جو رونق افزا ہیں تیرے

مُظْهِرِ اَنْسَانِ عَیْنِ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ اَنْ تَذْهَبَ عَنَّا ظِلَامُ الْفَقْدِ بِنُورِ

مفوض راز کی آنکھ کی پتلی کے مظہر و منظر پر کہ تو دور فرمائے ہم سے تاریخی و ظلمت نیستی و

اَنْسِ الْمُحَمَّدِ وَاَنْ تَكْسُوْنَا مِنْ حُلِّی صِفَاتِ كَمَالِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی

علم کی بطفیل محمد کریم علیہ السلام کے نور انس و الفت کے اور ہمیں پہنائے سیدنا محمد صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورُ الْجَلَالَةِ وَأَنْ تُسْقِينَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ يَا حَسْبُكَ

عليه وسلم کے صفات کمال کی خلعتوں سے۔ نور جلالت کی خلعت اور ہمیں پلانے ان کی معرفت کے کَوْثَرِ سے رسالت

تَسْلِيمٍ تَسْنِيمٍ شَرَابٍ الرِّسَالَةِ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ط هُوَ الَّذِي

کا شراب تسنیم اور شراب تسلیم ساتھ آیات اور ذکر حکیم کے وہی الشرب ہے جو

يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ

نازل فرماتا ہے اپنے خاص عبد پر آیات بینات تاکہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے نور کی طرف اور بے شک

اللَّهُ بِكُمْ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْهَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

عليه وسلم کے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي

آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا کہ " اے کفار اگر تم

رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تردد میں ہو اس کتاب سے) جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل فرمائی تو لے آؤ ایک سورت اس کی مانند۔ اے اللہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

فَاتَّه نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پس تحقیق اسی نے نازل فرمایا قرآن مجید کو آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے جبکہ وہ تصدیق کرنا والا ہے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ

پہلی کتابوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور البتہ تحقیق نازل ہیں ہم نے آپ کی طرف آیات بینات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ

اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا اور جبکہ آئے ان کے پاس عظیم رسول

عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والے ہیں ان تمام احکام کی جو ان رسولوں کے ساتھ تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "وہائے خلیل کی حکایت کرتے" اے ہمارے رب ان میں مبعوث فرما انہیں میں سے عظیم رسول

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا

کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا "جیسے کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول

مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تمہیں سے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا۔ وہ عظیم انسان آیات اللہ کی طرف سے

تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور بیشک آپ برحق رسولوں میں سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں

فِي حَقِّهِ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تو نے فرمایا۔ اللہ نے آپ پر نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ جبکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا "اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیات

مُحْكَمَاتٌ ۖ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

واضح مراد والی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ ۖ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

پر جس محبوب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۖ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ أَطِيعُوا

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا "فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ

اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

کی اور رسول اللہ کی پس اگر وہ پیٹھ پھیریں تو بیشک اللہ نہیں پسند فرماتا کافروں کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

حق میں اللہ نے فرمایا۔ پھر آئے تمہارے پاس تمہاری تصدیق کرنے والا رسول تو ضرور ایمان لاؤ گے

بِهِ وَلَتُنصِرُنَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان کے ساتھ اور ان کی امداد کرو گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

پر جس محبوب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی تاکہ

تُرْحَمُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تم پر رحم کیا جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ

جس محبوب کے متعلق اللہ نے فرمایا "اور نہیں محمد علیہ السلام مگر رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے

الرُّسُلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہت رسول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرِكُمْ اللَّهُمَّ

جس محبوب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اور رسول گرامی تمہیں پکارتے تھے آخری صفوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے

اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَبَارِحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرمایا "پس آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم خو ہو گئے ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

"جبکہ بھیجا ہم نے ان میں رسول انہیں میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا۔ جن مجاہدین نے دعوت

لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رسول کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...

جن کے حق میں اللہ نے فرمایا "جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے داخل فرمایا گا

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَجُنَّاتِكَ عَلَىٰ

اور آپ کی آل پر جن کے متعلق اللہ نے فرمایا " اور لائیں گے ہم آپ کو

هَؤُلَاءِ شَرِيحًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ان پر گواہ بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُمَّ

پر کہ جس محبوب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ نے ان کے حق میں فرمایا

فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو وہ ان کے ساتھ ہو گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

اللہ نے فرمایا اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں

اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ نے فرمایا " اور جس نے رسول مکرم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

فرمایا سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

” بیشک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ متصف ہے تاکہ تم لوگوں میں فیصلے فرماؤ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں اللہ

حَقِّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ

نے فرمایا ” اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور تمہیں بتلادیا جو کچھ نہیں جانتے تھے (غیب و احکام شرعی)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

حق میں فرمایا اور جو مخالفت کرے رسول اللہ کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد (تو اسے جہنم و اس کی آگ)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

متعلق فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور کتاب پر

الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو اس کے رسول اللہ پر نازل فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ

آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا ” لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے

إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو آپ پر نازل کیا۔ اسے نازل فرمایا اپنے علم کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قَدْ جَاءَكُمْ الرِّسَالُ

کی آل پر جس محبوب کے متعلق فرمایا "تحقیق آئے تمہارے پاس رسول اللہ

بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حق کے ساتھ موصوف ہو کر تمہارے رب کی طرف سے لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ

پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "تحقیق آئے تمہارے پاس مجسم برہان و دلیل تمہارے رب کے پاس سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے متعلق تو نے فرمایا " اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف واضح نور مجسم کو لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَا تَزَالُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا اور آپ ہمیشہ

تُظَلَعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ

مطلع ہوتے رہو گے (منافقین) کی طرف سے خیانت پر ماسوائے قلیل افراد کے پس ان سے درگزر فرماؤ۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق

حَقِّهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ

تو نے فرمایا " لے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آگئے جو تمہارے لیے وضاحت فرماتے ہیں لے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق

فِي حَقِّهِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

تو نے فرمایا " تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مجسم نور اور واضح کتاب لے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا اللہ تعالیٰ

حَقِّهِ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰی فِتْرَةٍ

نے اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے ہمارے رسول جو راہ حق واضح کرتے ہیں تم پر رسول کرام

مِّنَ الرَّسُلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

کے زمانہ فرست میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ فَاِنْ جَاءُوكَ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ

پر جس محبوب کے متعلق فرمایا "پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ

عَنْهُمْ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

موڑ لو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا "اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب جو حقانیت والی ہے تصدیق کرنوالی

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہے اس سے اگلی کتابوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ اِنَّهَا وَلِيَكُمْ اللهُ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "دوست تمہارا اللہ ہی ہے اور

رَسُولُهُ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کے رسول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولَهُ اللّٰهُمَّ صَلِّ

جن کے متعلق فرمایا "اور جس نے دوستی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے" اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا

فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ **اللَّهُمَّ صَلِّ**

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

حَقِّهِ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ **اللَّهُمَّ صَلِّ**

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

حَقِّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَاحذروا **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا**

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَوْحَى إِلَى

هَذَا الْقُرْآنِ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا**

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ هَذَا كِتَابٌ

أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ

حَوْلَهَا **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا**

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ **الْمَنْصُورِ** كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ **وَاللَّا**

جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا " **الْمَنْصُورِ** - یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے لہذا

يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کے دل اقدس میں اس سے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق فرمایا۔ اے لوگو بے شک میں

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق فرمایا اور اطاعت کرو اللہ کی اور

رَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کے رسول کی اگر تم اہل ایمان ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق فرمایا اور نہیں مارا آپ نے جبکہ

رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَأَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ نے مارا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی مارا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا۔ اے ایمان

أَمْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا۔ اے ایمان والو

أَمْنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

قبول کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے (احکام کو) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اللَّهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي أَيْدَاكَ بِنَصْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا

النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ ثُمَّ

أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

حَقِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَكَ

اللَّهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَكَ

عَلَى الدَّيْنِ كُلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام ادیان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ

آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو تحقیق

نَصْرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں اللہ نے مدد دی جبکہ نکالا انہیں کفار نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا "پس نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت

عَلَيْهِ وَأَيَّدَاهُ بِجُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان پر اور ان کو تقویت دی ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول معظم کی

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا "اے نبی مکرم جہاد کرو کفار

وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

و منافقین کے ساتھ اور ان پر سختی کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا "البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول

مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

تم میں سے، گراں ہے ان پر جو تمہیں مشقت میں ڈالے۔ حریص ہیں تمہاری ہدایت پر مومنین کے ساتھ

رَحِيمَهُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زم خوار بہت مہربان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا " بیشک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہم آپ پر سب سے حسین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ هَذِهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " فرما دیجئے یہ ہے

سَبِيلِي ۗ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

میرا راستہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَفَكُنَّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا " کیا وہ جو

يَعْلَمُونَ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف رب تعالیٰ سے نازل کیا گیا ہے حق ہے وہ مانند اندھوں کے ہے، اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق اللہ نے فرمایا

حَقِّهِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ صَلِّ وَسَلِّمْ

ایسے ہی بھیجا ہم نے آپ کو امت میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں (امتیں) اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا۔ اگر یہ کتاب

أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کو نکال دے ظلمات سے نور کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں سات آیات تکرار کی جانے والی اور قرآن عظیم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

لَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ تنگ دل ہوتے ہیں ان کے اقوال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور ہم نے آپ پر سراسر ذکر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور نہیں نازل کی ہم نے

إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ

آپ کی طرف کتاب مگر اس لیے کہ تم بیان کرو انہیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب جو ہر شے کا مدلل بیان اور سراسر ہدایت و رحمت اور بشارت ہے

لِلسُّبِّينِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل اسلام کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعْمَةِ

جن کے حق میں تو نے فرمایا " بلاؤ اپنے رب کی طرف ساتھ حکمت اور خوبصورت

الْحُسْنَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لصیحت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

حق میں فرمایا " پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عید خاص کورات میں مسجد حرام سے

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ عَسَىٰ أَنْ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ اللَّهُمَّ

پر جس محبوب کے حق میں فرمایا۔ قریب ہے کہ کھڑا کرے تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق فرمایا

حَقِّهِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا

اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا

وَنَذِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ڈرانے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

حق میں اللہ نے فرمایا، تمام ثنا میں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عید خاص پر کتاب نازل فرمائی اور نہ بنائی

لَا عِوَجًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس میں کوئی جی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَآتَى مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حق میں اللہ نے فرمایا۔ اور تلاوت کے لیے اپنی طرف وحی کی ہوئی رب کی کتاب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِنَّمَا

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا تو ہم نے ہی

يَسْرِنَا ۝ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اس کو آسان بنایا آپ کی زبان میں تاکہ اس کے ساتھ بشارت دو متقین کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا۔ ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر

الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرًا ۝ لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

قرآن تاکہ مشقت میں پڑو لیکن وہ سامان نصیحت ہے اہل خشیت کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ كَذَلِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق فرمایا ایسے ہی

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہم بیان کرتے ہیں آپ پر گزری باتیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے دیا آپ

لَدُنَّا ذِكْرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو اپنی طرف سے ذکر (قرآن)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ

جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب قبل اور

قَبْلَ غُرُوبِهِ يَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

غروب سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس محبوب کے حق میں فرمایا " اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فرما دو اے لوگو میں یقیناً تمہارے لیے واضح ڈور سننے والا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَادْعُ إِلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور بلاؤ اپنے
رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

رب کی طرف بیشک آپ البتہ درست ہدایت پر ہوں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ

آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا اور بیشک تم البتہ انہیں بلا تے ہو راہ راست
مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق
قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ

میں تو نے فرمایا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس سے خوف و خشیت رکھے تو وہی لوگ
هُمُ الْفَائِزُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کامیاب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل
مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُمَّ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا، فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا

حَقِّهِ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اگر ان کی اطاعت کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّهَا لَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ بے شک مومن وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

حق میں تو نے فرمایا " وہی لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ نے ان کے

فِي حَقِّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حق میں فرمایا " اور انہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور توکل کرو

الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حی قیوم پر جو نہیں مر سکتا اور اس کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا "بے شک وہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس کو اتارا روح الامین نے آپ کے دل پر تاکہ تم بن جاؤ ڈرانے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور

إِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

بیشک آپ البتہ قرآن دے جاتے ہو حکیم و عظیم کے پاس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا۔ پس اللہ پر توکل کرو

إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْبَيِّنِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بیشک آپ واضح حق پر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَنْتُمْ

آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل تسلیم سے بنوں اور قرآن کی تلاوت

الْقُرْآنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کروں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ

تو نے فرمایا " بین اللہ کی طرف سے رحمت کی خاطر تاکہ آپ ڈراؤ انہیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے

مِّنْ قَبْلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والا نہیں آیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا

جس محبوب کے متعلق فرمایا " اور وہ نہ باز رکھے آپ کو آیات اللہ سے بعد اس کے کہ آپ پر نازل کی گئیں

إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَتْلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا "تلاوت کرو جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے

وَاقِمِ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور نماز قائم کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

پر جن کے متعلق تو نے فرمایا "کیا انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی

الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں ہی خوب ترین

حَسَنَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پیروی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ

حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "نہیں ہیں محمد علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے باپ لیکن اللہ کے

اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا

آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے

وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا " بے شک اللہ اور اس کے فرشتے

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔ اے ایمان والو ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا۔ اور جس نے

تُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اطاعت کی اللہ اور رسول کی تو یقیناً وہ فائز ہوا عظیم کامیابی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا اور یقین رکھتے ہیں ارباب

الْعِلْمِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

علم کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے رب تعالیٰ سے وہ برحق ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر کی حیثیت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا " بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بشیر و نذیر بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

پر جن کے متعلق فرمایا " جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ برحق ہے

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تصدیق کرنے والی ہے کتب سابقہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَيْسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "اے سید کائنات۔ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ بے شک تو برحق

الرُّسُلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رسولوں میں سے ہے سیدھی راہ پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا

اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا "یہ کتاب ہم نے اسے آپ پر نازل کیا ہے بابرکت ہے

لِيَذَّبَ رُوحًا وَإِيَّتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور ارباب عقل نصیحت پکڑیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ يُوْحَىٰ إِلَى الْإِنَّمَاءِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق فرمایا "میری طرف صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ

أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

جن کے حق میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

اور ایسے ہی وحی کیا ہم نے آپ کو عربی قرآن تاکہ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈراؤ۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُورِثُ

اللہ نے فرمایا۔ فرمادو میں ایمان لایا اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اور مجھے حکم دیا گیا ہے

لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمہارے درمیان عدل کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور ایسے ہی وحی کی تمہاری طرف سراسر روح (قرآن مجید) کی اپنے

أَمْرِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

امر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

تو نے فرمایا اور تم یقیناً رہنمائی کرتے ہو صراط مستقیم کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یقیناً تم راہ راست پر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِنَّمَا يَسْرُنَهُ بِلِسَانِكَ

آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا۔ پس البتہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے تمہاری زبان میں

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت

الرَّسُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل تمہارے پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ

جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا

آپ سے پہلوں کے گناہ اور پچھلوں کے اور کمال کر دے تم پر اپنی نعمت کو اور تمہیں سراط مستقیم

مُسْتَقِيمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ عَلَيَّ صَغِيرَةً

پر گامزن کرے۔ اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر گناہ سے جس کا صغیرہ لازم کرے مجھ پر

أَلِيمَةً عَذَابِكَ وَيُجَلِّبِي كَبِيرَةً شَدِيدًا عِقَابِكَ وَفِي آتِيَانِهِ تَعْجِيلُ

عذاب الیم کو اور حلال کرے اس کا کبیرہ میرے لیے عذاب شدید کو اور جس کے فعل میں تیرے فوری

نِقْمَتِكَ وَفِي الْإِصْرَارِ عَلَيْهِ زَوَالٌ نِعْمَتِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ لَمْ يُطْلَعْ عَلَيْهِ

انتقام درپیش ہو اور اس پر اصرار میں تیری نعمت کا مجھ سے زوال ہو اور ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں جس پر سوائے تیرے

أَحَدٍ سِوَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُكَ مِمَّا لَا يَنْجِيْنِي مِنْهُ إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا

کوئی مطلع نہیں ہوا اور نہ کسی کو علم ہوا جس سے مجھے نجات نہیں دے گی مگر تیری عفو اور نہسب

يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَحِلْمُكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يُزِيلُ النِّعَمَ وَيُجَلِّبُ

اس کا احاطہ کرتی مگر تیری مغفرت اور بردباری۔ اور ہر اس گناہ کے لیے جو نعمتوں کو زائل کرے اور

النِّقْمَ وَيَهْتِكُ الْحُرْمَ وَيُطِيلُ السَّقَمَ وَيُعَجِّلُ الْأَلَمَ وَيُورِثُ

انتقام کا نشانہ بنائے اور عزتوں میں ہتک کا موجب ہو اور بیماریوں کی طوالت کا اور فوری رنج و الم کا

النَّدَامَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يَمْحُقُ الْحَسَنَاتِ وَيُضَاعِفُ السَّيِّئَاتِ وَيُجَلِّبُ

اور موجب ندامت ہو اور ہر گناہ کے لیے جو حسنات کو برباد کرے اور گناہوں میں اضافہ کرے اور جلال

النَّقْمَاتِ وَيُغْضِبُكَ يَا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ أَنْتَ

نظرائے انتقاموں کو اور تجھے غضبناک کرے اے رب السموات اور ہر گناہ کے لیے کہ تو

أَحَقُّ بِمَغْفِرَتِهِ إِذْ كُنْتَ أَوْلَى بِسِتْرِهِ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ

اس کی مغفرت کا زیادہ حقدار ہے جبکہ تو ہی اس کی پردہ پوشی کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ تو ہی لائق ہے تقویٰ اور لائق

الْمَغْفِرَةَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ ظَلَمْتُ بِسَبِيهِ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِكَ مُسَاهِدًا

بخشش فرمانے کے اور ہر گناہ کے لیے کہ میں نے اس کی وجہ سے تیرے کسی ولی پر ظلم کیا تیرے اعداء کی امداد

لَا عُدَاةَ لَكَ وَمِيلاً مَعَ أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ

کرتے ہوئے اور تیرے عاصیوں کے ساتھ میلان کرتے ہوئے برخلاف تیرے اہل طاعت کے۔ اے اللہ

يَاهَادِي الضَّالِّينَ لَاهَادِي لَنَا غَيْرَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا

اے اہل ضلال کو ہدایت بخشنے والے سوائے تیرے ہمارا کوئی ہادی نہیں اے رب العالمین۔ اے

الْهَادِي بَعِيدُكَ الضَّالِّينَ قَرِيبًا إِلَيْكَ أَمِنَّا مِنَ الْخَوْفِ مِنْكَ

ہدایت دینے والے اپنے گمراہ بندوں کو ہمیں اپنے قریب فرما اور اپنے خوف سے امن دے

يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ تُنْعِمَ عَلَيْنَا بِرِضَاكَ يَا

اے خوفزدگان کی امان۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر اپنی رضا کا انعام فرمائے۔ اے

مَالِكِ رِقَابِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْعَالَمِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ

اولین و آخرین کی گردنوں کے اور تمام جہان والوں کے مالک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں اللہ

اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ لَتُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ

نے فرمایا ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا شاہد اور مبشر و نذیر کی شان میں تاکہ ایمان لاؤ اللہ اور

وَرَسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ

پر جن کے متعلق فرمایا " بیشک جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ

اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور

رَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

رسول کی تو اسے داخل فرمائے گا جنات میں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اللَّهُمَّ

البتہ راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا

حَقِّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

پس نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے سکینت اپنے رسول اور اہل ایمان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

البتہ سچا کر دیا اللہ نے اپنے رسول کا برحق خواب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَرِيحًا مُحَمَّدًا رَسُولًا

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " کافی ہے اللہ بطور گواہ کے۔ محمد اللہ کے رسول

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " کافی ہے اللہ بطور گواہ کے۔ محمد اللہ کے رسول

اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر بہت سخت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا ہے "بیشک جو لوگ پست رکھتے ہیں

أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ

آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "بے شک جو تمہیں پکارتے ہیں (بیاکانہ)

وَرَاءَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ تَطِيعُوا اللَّهَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "اگر اطاعت کرو اللہ کی اور

رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رسول اللہ کی تو نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں ذرہ بھر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "مومن صرف وہی ہیں جو

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "تسبیح کہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے قبل اور

قَبْلَ الْغُرُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

غروب سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کے حق میں فرمایا پس نصیحت کرو قرآن مجید کے ساتھ انہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ الذِّكْرَى

فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا پس بے شک نصیحت

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نفع دیتی ہے اہل ایمان کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ

حق میں تو نے فرمایا اور تسبیح کہو اپنے رب کی بوقت قیام اور رات کو تسبیح کہو اور

النُّجُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

ستاروں کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں

اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تو نے فرمایا "نہیں گمراہ ہوئے تمہارے صاحب (رسول) اور نہ بھٹکے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تیرا فرمان ہے" اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش نفس کے

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تحت، نہیں ہے وہ مگر وحی جو نازل کی جاتی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہوستینا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ شَدِيدُ الْقُوَى اللَّهُمَّ صَلِّ

آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "سکھلایا انہیں سخت قوتوں والے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا

ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پھر قریب ہوئے پس مزید قریب ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کے حق میں فرمایا۔ پس ہو گئے بمقدار کی دو جانبوں کے بلکہ زیادہ قریب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا " پس وحی فرمائی

عِبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا " نہیں جھٹلایا ان کے دل نے جو دیکھا ان کی آنکھ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

نہیں ترہچی ہوئی ان کی نگاہ اور نہ حد سے بڑھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا " البتہ دیکھی انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی

الْكُبْرَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آیات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے حق

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

میں تو نے فرمایا " ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا وہی ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے

عَلَىٰ عِبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

عبد خاص پر واضح آیات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَاٰمَنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور ایمان لے آؤ اللہ کے رسول کے ساتھ تو اللہ تمہیں دیکھا دوتے

مِنْ رَّحْمَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی رحمت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ فَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ

جن کے حق میں تو نے فرمایا پس قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ اور

وَرَسُوْلَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رسول اللہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَحٰدُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ

جن کے حق میں تو نے فرمایا "بے شک جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسول اللہ کی وہ

فِي الْاٰذِلٰٓئِنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ذیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّآتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اُسْمُهُ

پر جن کے حق میں تو نے (عیسیٰ علیہ السلام سے بطور حکایت) فرمایا اور بشارت دیتے ہوئے عظیم رسول کی جو میرے بعد آئے

اَحْمَدُ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہیں نام ان کا احمد ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے حق

قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

میں تو نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کو

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

غالب کرے ہر دین پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاَرْبَعِيْنَ رَسُوْلًا لِّمَنْ صَلَّ

کہ جن کے حق میں تو نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اسی لوگوں میں عظیم رسول انہیں مبعوث فرمایا۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قَامُوا يَا اللَّهُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا پس ایمان لاؤ اللہ اور

رَسُولِهِ وَالتُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رسول کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی۔ اے اللہ درود

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا

و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ اے

أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میرے نبی جہاد کرو کفار و منافقین کے ساتھ اور ان پر سختی کرو۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا

سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "تحقیق نازل کیا

اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۚ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف مجسم ذکر رسول معظم کو جو تم پر آیات الہیہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِذَا حَلَّكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا جب آئیں تمہارے پاس

الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

منافقین تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ تم البتہ رسول خدا ہو اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ

اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جن کے حق میں تو نے

حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ قُمْ اللَّيْلَ الْأَقْلِيلَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فرمایا۔ اے کبیل اور صبح والے قیام کرو ساری رات مگر تھوڑا سا حصہ۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "قرآن کو ترتیل سے پڑھو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں

اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تو نے فرمایا اے چادر پوش۔ اٹھئے پس لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَثِيَابِكَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور اپنے کپڑے

فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پاک رکھئے اور پلیدی سے دور رکھیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا اللَّهُمَّ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "بے شک ہم نے ہی آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

فَذَكَرْنَاكَ أَنْتَ مُذَكَّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پس نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت گر ہی ہیں نہ کہ ان پر مسلط داروغے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَالصُّحَى وَاللَّيْلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا "قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی

إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جب چھا جائے۔ نہیں چھوڑا تمہیں تمہارے رب نے اور نہ ناراض ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَا خَيْرَ لَكَ خَيْرَكَ مِنْ آلِهِ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے حق میں اللہ نے فرمایا۔ اور البتہ ہر پھیل ساعت آپ کے لیے بہتر ہے کسی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے

فِي حَقِّهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

فرمایا اور ضرور دے گا تمہیں تمہارا رب اتنا کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا کیا نہیں پایا تجھے یتیم

فَأَوَىٰ اللَّهُ صُفْرًا وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پس ٹھکانا دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

حق میں فرمایا اور پایا تجھے حالت جذب و سر میں پس استقامت بخش۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَوَجَدَكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اٹھارہ پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور پایا تمہیں

عَائِلًا فَاعْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محتاج پس غنی کر دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ

پر جن کے حق میں فرمایا لیکن یتیم پر سختی نہ کرو یکن سوالی کو

فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نہ جھڑکو اور اپنے رب کی ہر نعمت کو بیان کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَلَمْ نُشْرَحْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا کیا ہم نے کشادہ نہیں کیا۔

لَكَ صَدْرَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کے سینہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر۔

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

جن کے حق میں تو نے فرمایا اور اتار دیا ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ جو تم پر گرانبار تھا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے

اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حق میں تو نے فرمایا اور بلند کیا ہم نے آپ کیلئے آپ کا ذکر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ پس تحقیق ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَىٰ

آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا پس جب فارغ ہو جاؤ (نماز سے) تو ہاتھ اٹھاؤ دُعا میں اور

رَبِّكَ فَارْعَبْ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اپنے رب کی طرف متوجہ رہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے ہیں

فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جن میں باسدار احکام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ الْكَوْثَرَ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا بیشک ہم نے آپ کو کثیر عطا کیا ہے پس اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی دیکھئے

إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْإِبْتَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

بیشک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ أَوْصَافُهُ فِي الزَّبُورِ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي التَّوْرَةِ

اوصاف کے حق میں تو نے زبور میں داؤد علیہ السلام کو اور تورات میں حضرت

لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي الْإِنْجِيلِ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي كُلِّ صُحُفٍ

موسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اور ہر صحیفہ میں بھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

أَنَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ مَوْضِعُ أَغْلِيَةِ إِلَّا وَفِيهَا مَلِكٌ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ اللَّهُمَّ

آسمانوں میں انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ نہیں جس میں فرشتے سجدہ اور رکوع میں نہ ہوں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي خَيْرِ الصَّادِقِ أَنَّ حَوْلَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سچی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ عرش کے گرد

الْعَرْشِ ثَمَانِينَ أَلْفَ سُرَادِقٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسی ہزار سراپردہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ خُلِقَ مِنْ جَوْهَرَةٍ خَضْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنہوں نے بتلایا کہ عرش سبز جوہر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ بَعْدَ الْقَائِمَتَيْنِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ خَفَقَانٌ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ عرش کے دو پایوں کی درمیانی مسافت تیز پرواز

الطَّائِرِ الْمَسْرِعِ أَلْفَ عَامٍ بِلَا امْتِرَاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پرندے کی ہزار سالہ پرواز کی مانند سے بلاٹک و شبہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَانَ حَوْلَ الْعَرْشِ مَلَائِكَةٌ عَلَى خِيُولٍ مِنْ رِيحٍ بِأَيْدِيهِمْ

جنہوں نے بتلایا کہ عرش کے گرد ملائکہ ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں

حَرَابٌ مِنْ نُورٍ يَحْتَوُونَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نورانی نیزے ہیں جو ملائکہ کو تسبیح پر برائیگنہ کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ عرش اعظم تمام اقسام کی بولیوں اور انداز بیان میں اللہ

وَالْبَيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَبْرَهُ

کی تسبیح کتنا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر

الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَرْشَ يُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَلْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ

صحیح میں بتلایا کہ عرش اعظم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کتنا ہے ہزار انواع تسبیح کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْعَرْشَ يَكْسِي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش کو ہر دن پہنایا جاتا ہے ہزار

لَوْنٍ مِنْ نُورٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

رنگ نور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ عَلَى الرِّيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

عرش اعظم پانی پر ہے اور پانی ہوا پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَبْرَهُ الْإِبْرَانَ حَوْلَ الْعَرْشِ مَدِينَةٌ مِنْ

محمد پر جنہوں نے اپنی سچی خبر میں فرمایا کہ عرش کے گرد خاص

الْبُسْكَ الْأَذْفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

کستوری کا شہر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ سِتْمِائَةَ أَلْفِ عَالِمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ عرش کے گرد چھ لاکھ جہان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرَ خَبْرٍ الصَّحِيحِ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ

محمد پر جنوں نے خبر صحیح میں بتلایا کہ عرش کے گرد ساٹھ ہزار

عَالِمٌ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُحِبِّي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَوِ وَيَلْعَنُونَ لِمُحِبِّي أُمِّ بَكْرٍ

جہاں ہے جو استغفار کرتے ہیں ابو بکر و عمر کے مجبین کے لیے اور لعنت کرتے ہیں ان سے

وَعُمَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا كُلَّ مَلَكٍ

بعض رکھنے والوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش اعظم کے

حَمَلَةَ الْعَرْشِ الْكِرَامِ بَيْنَ كَعْبِيهِ إِلَى قَدَمَيْهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَامًا

حامل ملائکہ کرام میں سے ہر ایک کے ٹخنوں سے قدموں تک سات سو سات کی مسافت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرَ خَبْرٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے اپنی خبر مشہور میں فرمایا

بَيْنَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَحَمَلَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعِينَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ

کہ حاملین عرش اور حاملین کرسی کے درمیان ستر حجاب نور کے ہیں اور ستر

حِجَابًا مِّنْ ظُلْمَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

حجاب ظلمت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

لَوْلَا الْحِجَابُ لَأُحْتَرِقَ حَمَلَةُ الْكُرْسِيِّ مِنْ نُورِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ

اگر حجابات موجود نہ ہوتے تو البتہ جل جالتے حاملین کرسی حاملین عرش کے نور سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ الْعَرْشَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش کو

قَبْلَ الْكُرْسِيِّ بِأَلْفِي عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرسی سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَنَا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي جَوْفِ الْكُرْسِيِّ كَحَلْقَةِ

بتلایا کہ تمام آسمان اور زمینیں کرسی کے اندریوں میں جیسے انگوٹھی کا حلقہ

قَدْرَةَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْكُرْسِيَّ

چیل میدان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ کرسی کو

يُحْمَلُهُ أَرْبَعَةٌ أَمْلَاكٌ لِكُلِّ مَلِكٍ أَرْبَعَةٌ وَجَوْهٌ نُورُهُمْ يَتَلَاؤُا

چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک کے چار منہ ہیں جن کا نور چمکتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ بعض ملائکہ نے

سَأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُرِيَهُمْ مِقْدَارَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَخَلِقَ لَهُمْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ

اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں عرش عظیم کی وسعت دکھلائے تو اس نے ان کے لیے تیس ہزار

جَنَاحٍ فَطَارَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَلَمْ يَقْطَعُوا قَائِمَةً مِّنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ

پر پیدا فرمائے پس وہ تیس ہزار سال اڑے مگر عرش کے پایوں میں سے ایک کی مسافت بھی

الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ نُورَ الْعَرْشِ

طے نہ کر سکے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اگر عرش کا نور

لَوْ ظَهَرَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَاسْتَهْلَّ لَضَعُفَ نُورُ الشَّمْسِ مَعَهُ كَمَا يَضَعُ ضَوْؤُ

اہل دنیا کے لیے ظاہر اور نمودار ہو تو اس کے سامنے نور آفتاب یوں ماند پڑ جائے گا جیسے کہ چراغ

السِّرَاجِ مَعَهَا وَأَقْلَّ اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

کہ نور آفتاب کے سامنے بلکہ اس سے بھی کمتر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّهُ خَفِقَ لَهُ الْعَرْشُ بِكِبَالِهِ وَعَظِيمِهِ لَهَا وَطَأَتْهُ بِأَقْدَامِهِ اللَّهُمَّ صَلَّى

کہ جھومنے لگا ان کے لیے عرش اپنے کمال عظمت کے باوجود جب اسے اپنے قدموں سے پا مال کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَلَكًا مِّنْهُمْ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ ان میں سے ایک فرشتہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہے

هُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ وَالْمَطْرَ مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ

اور وہ مخلوق کے لیے رزق اور بارش طلب کرتا ہے سال کی ابتداء سے انتہاء تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَلَكًا مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ درندہ

السَّبْعِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِلْوَحْشِ وَالْهَوَامِّ

کی شکل پر ہے جو سال بھر رزق طلب کرتا ہے جگی جانوروں اور زیریے حشرات الارض کے لیے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَلَكًا مِنْهُمْ

اے اللہ صلوة و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ

عَلَى صُورَةِ النَّسْرِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِلطَّيْرِ

گدھ کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے ایک سال سے دوسرے تک

عَلَى الدَّوَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

پرندوں کے لیے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

الرُّوحَ لَوْ سَمِعَ تَسْبِيحَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَأَصْغَرُ إِلَيْهِ لَخَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ

اگر روح امین کی تسبیح کو اہل ارض سن لیں اور کان لگائیں تو ان کی روہیں نکل جائیں

وَلَوْ شَاءَ لَا بَتَلَعَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ أَحَدٍ شَدَّقِيهِ اللَّهُ صَلِّ

اور اگر وہ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں کو نکل جائے متہ کی ایک جانب سے۔ اے اللہ صلوة

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الرُّوحَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَرَجَ مِنْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ روح جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو برآمد ہوتے

فِيهِ قِطْعٌ مِّنْ نُورٍ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الْعِظَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہیں اس کے منہ سے عظیم پہاڑوں کی مانند نور کے قطعات۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ مَسِيرَةُ سَبْعَةِ أَلْفِ عَامٍ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ روح کے قدموں کی جگہ سات ہزار سال کی مسافت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ أَلْفَ جَنَّةٍ

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اس کے ہزار پر ہیں

الْوَفَاءِ لِلَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهْ يَقُومُ

عمل طور پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ کھڑا ہو گا

الرُّوحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفًّا وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ صَفًّا لِلَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

روح اعظم قیامت کے دن ایک صف میں اور دیگر تمام ملائکہ ایک صف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي صَرِيحٍ خَيْرٌ أَنْ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ لَوْ أَنَّ وَاحِدًا

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی صریح انداز میں کہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی

مَنْهُمْ نَزَلَ إِلَى الدُّنْيَا لَمَا وَسِعَتْهُ مِنْ عَظِيمِهِ وَكِبَرِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

نازل ہو زمین کی طرف تو اس میں سمانہ کے اپنی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِلَّهِ مَلَكَ تَحْتَ الْعَرْشِ مُكْرَمًا لِدَائِهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ عرش کے نیچے ہے جو اس کے بال مکرم ہے

ذَوَائِبُهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْعَرْشِ وَتَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهَا مَكْتُوبٌ لِرَّالهِ

اس کے سر کے بال عرش کو محیط ہیں اور اس کے ہر بال کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ لا الہ

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُ لِلْبَصَلِيِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ استغفار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے

وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِإِسْرَافِيلَ

والوں کے لیے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اسرافیل علیہ السلام کے

إِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ جَنَاحٍ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ مُكَلِّدِينَ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا يَسُدُّ

بارہ ہزار پر ہیں جو موتیوں اور یاقوت سے مرصع ہیں کہ جن میں سے ہر پر شرق و مغرب کے

مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي

درمیانی حصہ کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے اپنی واقعی اخبار

بَعْضِ أَخْبَارَاتِهِ الْوَاقِعَةِ أَنَّ لِإِسْرَافِيلَ جَنَاحًا بِالمَشْرِقِ وَجَنَاحًا

میں بتلایا کہ اسرافیل علیہ السلام کا ایک شرق میں ہے اور دوسرا

بِالْمَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مغرب میں اور اس کے قدم ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ مَقَامَ جِبْرِائِيلَ فِي وَسْطِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ جبرائیل کی قیامگاہ اور سدرۃ المنتہیٰ کے درمیان میں ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا لِجِبْرِائِيلَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ

جَلَّ جَلٌّ لِكُلِّ جُلْجُلٍ مِنْهَا صَوْتٌ لَا يَشْبَهُهُ إِلَّا خَرُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گھنگریاں ہیں جن میں سے ہر ایک کی آواز دوسری مختلف ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ كُلَّ جُلْجُلٍ مِنْهَا مَحْشُورٌ بِالْبَسِيطِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ان میں سے ہر گھنگری عنبر اور کتوری سے بھری

الْعَنْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا فِي خَبَرِهِ

بولی ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے اپنی حدیث شریف میں

الشَّرِيفِ أَيْضًا أَنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ مِنْ دُرِّ سِدْرَةِ بَيْضَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بتلایا کہ لوح محفوظ سفید موتی سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ الْقَلَمَ الْمُبِينِ مِنْ جَوْهَرٍ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ قلم قدرت نورانی جوہر سے ہے اور نیر سے ہے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ دَفْقَ اللَّوْحِ مِنْ يَافُوتِ

اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ لوح محفوظ کی دونوں جانبیں سرخ

أَخْبَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ مَقَامَ

یا قوت سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ جو قلم مخلوق کے اعمال لکھتی ہے

الَّذِي يَكْتُبُ أَعْمَالَ الْإِنَامِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس کی مقدار پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْمِعْرَاجَ الَّذِي أُرْسِلَ مِنَ الْجَنَّةِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ جو سیڑھی شبِ اسراءِ جنت الفردوس سے بھیجی گئی تھی

الفردوس مَنْضُودٌ بِاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اس پر لؤلؤ اور یاقوت جڑے تھے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ أَرَبُ عَيْنٍ عَالِمًا الدُّنْيَا مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ بِأَرَبٍ

محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے چالیس جہان ہیں جن میں سے ساری دنیا بلا ریب

وَأَرْتِيَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ

ایک جہان ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ

عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثِينَ عَالِمٍ حَفَاةً عُرَاةً لَا يَدْرُونَ مَنْ خَلَقَهُمْ وَسِتُّونَ

کے لیے تین سو جہان ہیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن والوں کے جو اپنے ماسوا کو نہیں جانتے اور ساٹھ

عَالَمٌ يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

جہان لباس پوش ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

فِي خَيْرِهِ لِلْوَرَى مَا الْعِمَارَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْخَرَابِ إِلَّا كَفُسْطَاطٍ فِي أَرْضِ

مخلوق کو خبر دی کہ آباد جہان ویران کے مقابلہ میں ایسے ہے کہ جیسے صحراء

الضَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ فِي

میں خیمہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر تو نے اپنی

كِتَابِكَ الْمُنِيرِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کتاب منیر میں نازل فرمایا کیا نہیں جانتا جس نے پیدا کیا جبکہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي بَعْضَ أَخْبَارِ آتِهِ الْوَاقِعَةِ أَنَّ لِإِسْرَافِيلَ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے اپنی واقعی خبروں میں بتلایا کہ اسرافیل کا ایک

جَنَاحًا بِالشَّرْقِ وَجَنَاحًا بِالمَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ تَحْتَ الأَرْضِ السَّابِعَةِ

پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں اور اس کے دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي حَدِيثَهُ لِيُعْطَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جن کی حدیث میں وارد ہے بعض اہل بیت کو

أَهْلَ بَيْتِهِ أَنْ إِسْرَافِيلَ إِذَا سَبَّحَ عَظَّلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ تَسْبِيحَهُمْ بِحَسَنِ

اطلاع دیتے ہوئے کہ اسرافیل جب تسبیح کے تو دیگر تمام ملائکہ پر اپنے حسن صوت کی وجہ سے

صَوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ مَقَامَ

تسبیح کو معطل کر دیتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ مقام

جِبْرَائِيلَ فِي وَسْطِ سُدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبریل سدرة المنتہی کے وسط میں ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ تَحْتَ كُلِّ وَرْقَةٍ مِّنْهَا أُمَّةٌ تَسْبِيحُهُمْ سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ

جنہوں نے فرمایا کہ سدرة کے ہر پتے کے نیچے امت ہے جن کی تسبیح یہ ہے "یاک ہے عزت

وَالْبَهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا لِيَجِبْرَائِيلَ

اور نور والا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جب جبرائیل کے لیے

جَلَّ جَلٌّ لِكُلِّ جُلُجٍ مِّنْهَا صَوْتُ لَا يَشْبَهُهُ الْآخِرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گھنگریاں ہیں جن میں سے ہر ایک کی آواز دوسری سے جدا گانہ ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ كُلَّ جُلُجٍ مِّنْهَا مَحْشُورَةٌ بِالْمَسَاكِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک گھنگری بھری ہے کستوری اور

وَالْعَنْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرُهُ

عنبر کے ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا اپنی حدیث

الشَّرِيفِ أَيْضًا إِنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

شریف میں کہ لوح محفوظ سفید موتی سے ہے۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ الْقَلَمَ الْمُبِيرَ مِنْ جَوْهَرِ الْأَلَمِ

و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ قلم قدرت نورانی جوہر سے ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ دُفَّتِي اللَّوْحِ مِنْ يَأْقُوتِ

درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ لوح کے دونوں پہلو سرخ یا قوت

أَحْمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْقَلَمَ الَّذِي

سے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ وہ قلم جو مخلوق کے

يَكْتُبُ أَعْمَالَ الْإِنَامِ مَسِيرَةٌ خَمْسِيَاةٌ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اعمال لکھتا ہے پانچصد سالہ مسافت کی مقدار ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعُونَ عَالِمًا دُنْيَا مِثْلًا عَالَمٍ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے چالیس جہان ہیں جن میں سے بلاشبہ ساری دنیا

وَاحِدٌ بِلَا أَرْتِيَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

ایک جہان ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثِينَ عَالِمًا حُفَاةً عُرَاةً لَا يَدُرُونَ مَنْ خَلْفَهُمْ وَسِتُونَ

اللہ تعالیٰ کے تین سو جہان برہنہ پا اور برہنہ بدن ہیں۔ اپنے ماسوا کو نہیں جانتے اور ساٹھ

عَالَمٌ يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى

جہان لباس پوشش ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے

عَجَائِبَ الْغَرَائِبِ وَغَرَائِبَ الْعَجَائِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مشاہدہ فرمایا عجیب انوکھی اشیاء اور انوکھے عجائب کا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِعَلَامَةِ أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ

محمد پر جنہوں نے بعض صحابہ اور اہل قرابت کو خیر دی اویس قرنی کی علامت اور

وَشَفَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ السَّيِّدِينَ

شفاعت سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے خیر دی سیدین کو

أَنْهَبَا أَشْهَلَ الْعَيْنِينَ وَيَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ اویس قرنی موٹی فراخ آنکھوں والے اور چوڑے کندھوں والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي خَيْرِهِ لِلْوَرَى مَا الْعِمَارَةُ فِي مَكَانٍ

سیدنا محمد پر جنہوں نے مخلوق کو خیر دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاں کا آباد حصہ ویران کے بالمقابل

إِلَّا كَفَسَاطٍ فِي أَرْضِ الصَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صحراء میں خیمہ کی مانند ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَنَا أَنَّ مَلَكًا مَتَّهُمْ عَلَى صُورَتِ الثَّوْبِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنْ السَّمَاءِ

بتلایا کہ ایک فرشتہ بیل کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے ایک سال سے

إِلَى السَّنَةِ لِلْإِنْعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سُوْرِ الْقُرْآنِ

دوسرے تک چار پاپوں کے لیے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر قرآن کریم کی سورتوں کی

الْكَرِيمِ وَعَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْبَحِيْدِ وَعَدَدَ حُرُوفِ الْفُرْقَانِ الْحَمِيْدِ

مقدار اور اس کی آیات کی مقدار اور فرقان حمید کے حروف کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنَاسِكِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر تمام نمازیوں اور

صَلَّى وَصَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روزہ داروں کی مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَدَ مَنْ قَعَدَ وَقَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

برنشست و برخاست والے کی مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر بمقدار اس

أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ دَحْوَتِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کے جو اگائے زمین نے پردے اپنے پھیلاؤ کے وقت سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر آسمانوں کے ستاروں کی مقدار کیونکہ تو نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر بمقدار انقاس ارواح کے جسے تو نے انہیں پیدا کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق ان کے جو تو پیدا فرمایا

وَمَا تَخْلُقُ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور جو پیدا فرمائے گا اپنی مخلوق سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنے احاطہ علم میں موجود اشیاء کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ كِتَابُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر بمقدار ان افراد کے جنہیں تیری کتاب میں نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ وَمَا خَصَّصْتَهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر بمقدار ان اشیاء کے جن میں تیری قدرت نافذ ہوئی اور جنہیں تیرے ارادہ نے

إِرَادَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

تخصیص و ترجیح دی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر بمقدار ان

مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَمْرٌ وَنَهَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان اشیاء کے کہ متوجہ ہوا ان کی طرف تیرا امر اور نہی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسِعَتْ سَمْعُكَ وَمَا أَحَاطَ بِهِ بَصْرُكَ اللَّهُمَّ

آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کو تیری سمع اور تیری نگاہ محیط ہوئی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ان کے ذکر

الذَّاكِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرنے والوں کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد

عَدَدَ مَا عَفَلَ عَنْ ذِكْرِهَا الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان لوگوں کے جو غافل ہوئے آپ کے ذکر سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَأُورَاقِ الْأَشْجَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر بارشوں کے قطرات اور درختوں کے پتوں کی مقدار۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ دَوَابِّ الْقَفَارِ وَدَوَابِّ

وسلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر خشکیوں کے جانوروں اور تریوں کے جانوروں

الْبَحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ بِيَاهِ

کی مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر سمندروں کے پانیوں کی

الْبَحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ

مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر بمقدار

مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ النَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان اشیاء کے جن پر رات سایہ نکلن ہوئی اور دن ضوء نکلن ہو۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ الرِّمَالِ وَالنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد و آل محمد پر ریت کے ذرات اور عورتوں مردوں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَخْلُوقَاتِكَ الَّتِي

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر بمقدار تیری تمام مخلوق کے جو تو نے

خَلَقْتَ مِنْ بَدَأِ الدُّنْيَا إِلَىٰ انْقِضَائِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پیدا فرمائی روز آفرینش سے اختتام دنیا تک۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ أُرَاقِ الزَّيْتُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد اور آل محمد پر بمقدار زیتون کے پتوں کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ

سیدنا محمد اور آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو موجود ہو چکی اور جو موجود ہونگی

الْحَشْرِ وَالْقَرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روز حشر و قرار تک۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

عَدَد مَا فِي عِلْمِكَ كَأَنَّ اللَّهَ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بمطابق تعداد ان اشیا کے جو موجود ہیں تیرے علم میں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

محمد پر بمقدار ان کی اُمت کے انفاس کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْيَتِكَ وَعِلْمِكَ وَكَلِمَتِكَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ

آل محمد پر مطابق اپنے علم اور علم اور کلمات کے۔ اے اللہ درود و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَصْفِكَ وَأَوْصَافِكَ اللَّهُ

بھیج سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد اپنے وصف و اوصاف کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّافِي لِمَرْضَانَا اللَّهُمَّ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو شفا دینے والے ہیں ہمارے مریضوں کو۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَافِي لِعَرْضَانَا اللَّهُمَّ

اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو کفایت فرما ہیں ہمارے عرض کیلئے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُزِيلِ الشَّدَةِ وَالْكُرْبَةِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو زائل کرنے والے ہیں شدت و کربت کے

اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ اللَّهُمَّ بِحُدُوكَ انصرفت و بذنبی

اے اللہ دور فرما مجھ سے اندوہ اور حزن کو۔ اے اللہ تیری حمد کے طفیل میں باز رہا اور اپنے

اعترفتُ اللَّهُمَّ إِلَهِي وَإِلَهَ إِبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِلَهَ

گناہوں کا معترف ہوں۔ اے اللہ۔ اے میرے الہ اور ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے الہ

جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيبَ دَعْوَتِي فَأَنَا

اور جبریل و میکائیل و اسرافیل کے الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دعا قبول کرنے کا کیونکہ

مُضْطَرٌّ وَتَعْصَمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلَى وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي

میں مجبور ہوں۔ اور دن میں عصمت کا کیونکہ میں آفت زدہ ہوں اور رحمت کے حصول کا کیوں کہ میں

مَذُنِبٌ وَتَنْفِي عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسِكٌ بِاللَّهِمَّ اهْدِنِي مِنْ بَرَكَاتِكَ

گنہگار ہوں۔ اور فقر کے دور کرنے کا کیونکہ میں مسکین ہوں۔ اے اللہ مجھے ہدایت اپنے پاس سے

وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسِغْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ

اور اپنے فضل کا فیضان فرما مجھ پر اور اپنی رحمت کامل فرما مجھ پر۔ اور اپنی برکات

بَرَكَاتِكَ اللَّهُمَّ لَا تَهْلِكْنَا فُجَاءَةً وَلَا تَأْخُذْنَا بَعْتَةً وَلَا تَغْلِبْنَا عَن

نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اچانک ہلاک نہ فرماتا اور اچانک گرفت میں نہ لینا۔ اور نہ غافل کرنا ہمیں

حَقٍّ وَلَا وَصِيَّةِ اللَّهِمَّ اِنْسُ وَحُشِيَّتِي فِي قَبْرِى اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ

حق اور وصیت سے۔ اے اللہ میری وحشت کو انس میں بدلتا قبر میں۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں

بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَجِيِّكَ وَعِيسَى رُوحِكَ

تجھ سے بطفیل تیرے نبی محمد اور تیرے قلیل ابراہیم اور تیرے کلیم موسیٰ اور عیسیٰ روح اللہ

وَكَلِمَتِكَ وَبِتُورَةِ مُوسَى وَإِنْجِيلِ عِيسَى وَتُرَابِ يُوْرَادِ اَوْدُ وَفِرْقَانَ

و کلمتہ اللہ کے اور بطفیل تورات موسیٰ۔ انجیل عیسیٰ۔ زبور داؤد اور فرقان

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحِيْتَهُ اَوْ قَضَاءِ قَضِيَّتِهِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بطفیل ہر وحی کے جو تو نے بھیجی اور قضاء کے جس کے

اَوْ سَائِلٍ اَعْطَيْتَهُ اَوْ فَقِيْرٍ اَعْطَيْتَهُ اَوْ غَنِيٍّ اَفْقَرْتَهُ اَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهُ

سائل کو جسے عطا کیا اور ہر سائل کے جسے عطا کیا اور ہر فقیر کے جسے غنی کیا اور ہر غنی کے جسے فقیر کیا اور گمراہ کے جسے

اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَهُ عَلَيَّ مُوسَى وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي

ہدایت دی۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اس اسم کے جو موسیٰ پر نازل فرمایا۔ اور سوال کرتا ہوں بطفیل اس اسم کے جسے

وَضَعْتَهُ عَلَيَّ اَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى

زمین پر رکھا تو قرار پذیر ہو گئی اور آسمانوں پر رکھا تو قائم ہو گئے اور پہاڑوں

الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اِسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ وَاَسْأَلُكَ

پر رکھا تو گڑ گئے۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اس اسم کے جس سے عرش قرار پذیر ہوا اور سوال کرتا

بِاسْمِكَ الظَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ وَبِاسْمِكَ

ہوں بظیفیل تیرے ظاہر و مطہر اسم کے جو تیری ہی کتاب میں تیرے پاس سے نازل کیا گیا۔ اور بظیفیل اس اسم کے

الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَأَسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَبِعُظْمَتِكَ

جسے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو تاریک ہو گئی اور بظیفیل تیری عظمت و

وَكِبْرِيَاةِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَرُنُّرُقْتِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَتَخْلُطَهُ

کبریائی اور نور ذات کے کہ مجھے قرآن عظیم نصیب فرما اور اسے ملا دے

بِلُحْيِي وَدِرْمِي وَسَبْعِي وَبِصَرِي وَتَسْتَعْمِلْ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

میرے گوشت اور خون اور کانوں۔ آنکھوں کے ساتھ اور عامل بنائے اس پر میرے جسم کو اپنی قوت و طاقت

فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ بِسْمِ اللَّهِ ذِي الشَّانِ عَظِيمِ الْبَرَّهَانَ شَدِيدِ

سے کیونکہ نہیں ہے طاقت و قوت مگر ساتھ تیرے۔ ساتھ نام اللہ کے جو عظیم شان والا عظیم برہان اور شدید

السُّلْطَانَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَأَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا

غلیبہ و تسلط والا ہے۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما بوسیدہ قرآن عظیم کے۔ اسے میرا امام اور نور بنا دی

وَهْدَى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا

اور موجب رحمت بنا دے۔ اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس سے جو بھولا ہوں اور معلوم کرا دے جس سے

جَهَلْتُ وَأَمُرُقْتِي تِلَاوَتَهُ أُنَاءَ اللَّيْلِ وَأُنَاءَ النَّهَارِ وَأَجْعَلْهُ لِي

بیخبر ہوں اور مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما شب و روز کے تمام اوقات میں اور اسے میرے لیے

حُجَّةً يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا عَبْدُكَ وَإِبْنُ عَبْدِكَ وَإِبْنُ أُمَّتِكَ

حجت بنا دے اے رب العالمین۔ اے اللہ میں تیرا عبد اور تیرے عبد کا بیٹا اور تیری باندی کا بیٹا ہوں

نَاصِيَتِي بِيَدِكَ أَتَقَلَّبُ بِلِقَائِكَ وَأُؤْمِنُ بِوَعْدِكَ وَأَمْرَتِي

میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے میری جنبش تیری تقاضا سے ہے اور تیرے وعدہ پر ایمان ہے

فَعَصَيْتُ وَنَهَيْتَنِي فَأَبَيْتُ وَهَذَا مَكَانُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ

تو نے حکم دیا مگر میں نے نافرمانی کی اور منع کیا پس میں نے باز رہنے سے انکار کیا اور یہ مکان ہے آتش سے پناہ طلب کرنے والوں کا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ

محمد پر جن پر اللہ نے کتاب و حکمت نازل فرمائی اور انہیں بتلایا جو کچھ بھی نہیں جانتا

يَعْلَمُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَمْرِهِ

تھا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہیں اللہ نے حکم دیا

اللَّهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلوں کا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ

اور آل سیدنا محمد پر جن پر اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجَلِ الْمَوْجُودَاتِ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو جلیل ترین ہیں تمام موجودات سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْمَوْجُودَاتِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو مکرم ترین ہیں تمام موجودات سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْسَنِ الْمَوْجُودَاتِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو حسین ترین ہیں تمام موجودات سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد اور آل محمد پر جو انبیاء کی زینت ہیں

وَأَصْفَى الْأَصْفِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور سب اصفیاء سے زیادہ صاف باطن ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَصْطَفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آل اطہار پر جو سب چنے ہوؤں سے بہتر ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا حَى الدُّنُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ

آل محمد پر جو محبوب گناہوں کو محو کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر

ذَنْبٍ يَدَانِسُ مِنِّي مَا ظَهَرَتْهُ وَيَكْشِفُ عَنِّي مَا سَتَرْتَهُ أَوْ لَقِيْتَهُ فِي

گناہ سے کہ جو میلا کرے جس کو میں نے ظاہر کیا اور کھول دے جسے میں نے چھپایا یا بد صورت کرے
مَا زَيْنْتُهُ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ لَا يُنَالُ بِهِ عَهْدُكَ وَلَا يُؤْمِنُ مَعَهُ إِلَّا تَفَاهُ

جسے میں نے مزین کیا اور ہر گناہ سے کہ نہیں حاصل ہو سکتا اس سے تیرا عہد اور نہیں اطمینان ہوتا اس کی موجودگی میں
غَضَبِكَ وَلَا تَنْزِلُ بِهِ رَحْمَتَكَ وَلَا تَدُومُ مَعِيَ نِعْمَتَكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

تیرے غضب کی دوری کا اور نہ تیری رحمت کے نزول اور نہ تیری نعمت کے دوام کا اور واسطے ہر گناہ کے
اسْتُخْفِيْتُ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ عَنْ عِبَادِكَ وَبَادَرْتُ بِهِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ

کہ چھپالیں اس کے ساتھ دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے۔ اور علانیہ کیا اسے رات کی تاریکی
جُرْعَةٌ مِّنِّي عَلَيْكَ عَلَيَّ أُنِي أَعْلَمُ أَنَّ السَّرَّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ مِّنْكَ

میں تجھ پر بیباکی کرتے ہوئے باوجود جاننے کہ خفیہ بھی تیرے نزدیک علانیہ ہے بغیر
مَانِعٍ وَلَا يَنْفَعُنِي عِنْدَكَ نَافِعٌ مِّنْ مَّالٍ وَلَا بَيْنٌ إِلَّا أَنْ أَتِيَنَّكَ

رکاوٹ کے اور نہیں نفع دیتا تیرے ہاں کوئی نافع امر مال ہو یا اولاد مگر جبکہ حاضری دون تیری بارگاہ میں
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللَّهُمَّ اعْطِنِي قَلْبًا سَلِيمًا وَفِي قَلْبٍ سَلِيمٍ عَلَيَّ

قلب سلیم کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا کر اور اس میں وسیع علم عطا کر جو
وَإِسْعَاءً مِّنْ أَرْتِ سِرِّ عُلُومِ الدِّنِيِّ النَّبَوِيِّ الْبَاقِيَةِ وَغَيْرِهَا لِحَبِيبِي

تیرے محبوب کے نبوی لدنی دائمی علوم مخفیہ کی وراثت سے ہو
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وَّرَاثَةِ الظَّاهِرِيِّ وَالْبَاطِنِيِّ لِمُحِبُّوِي

صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے محبوب باطنی اور ظاہری کے
أَحْمَدَ الْمُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مجتبے صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ظاہرہ اور باطنہ سے ہو۔ اے اللہ درود و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَالِي الْكَرُوبِ وَخَيْرِ الْقُلُوبِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ

محمد اور آل محمد پر جو غم و اندوہ کو دور کرنے والے ہیں اور بہترین قلب والے ہیں تمام قلوب کے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِمَ الْهُدَاةَ وَحَسَنَ الصِّفَاتِ

درود و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہادیوں کے علم ہدایت ہیں اور حسین صفات والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْبَيْنَاتِ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو واضح آیات والے ہیں اور

ذُرِّ الْعَصَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گناہگاروں کیلئے ذخیرہ (معفرت) ہیں۔ اے اللہ درود و سلام بھیج سیدنا محمد و آل محمد پر

أَسْتَى الْبِلَاحِ وَرَبِّ السَّمَاكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو سب میگوں (حسینوں) سے خوبصورت ہیں اور سخاوت کے مالک ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الصَّبَاحِ وَرُكْنِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر جو صبح درخشاں کا نور اور صلاح و بہتری کا دار و مدار ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِيَ الْفَلَاحِ وَمَدْعُو الْفَرَاخِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو کامیابی کی طرف دعوت دینے والے اور خوشیوں کی طرف بلانے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنَامِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو خیر انام ہیں

وَمَا حَى الْأَثَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور گناہ مٹانے والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

بَدْرِ الظَّلَامِ وَكُلِّ الْمَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو تاریکیوں کے دور کرنے والے ماہ کامل اور عین مقصود ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَسَنِ الشَّائِلِ وَتَرْكِي الْخَصَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو حسین عادات والے اور پاکیزہ خصال ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسَبِّحِ الْأَنَامِ وَأَعْلَى الْوَسَائِلِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو انگلیوں کے پوروں سے بھی تسبیح خواں ہیں اور تمام وسائل سے اعلیٰ ترین ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو تمام مخلوق کے سردار اور

و خَيْرِ الْعَطَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہترین عطیہ قدرت ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

مَجْرَى الْعَطَايَا وَسَائِرِ الْخَطَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو عطاؤں کے جاری کرنے والے اور خطا پرش ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَوِيثِ الْلَّهِيفِ وَعَوْنِ الضَّعِيفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو فریاد رس ہیں مصیبت زدگان کے اور مددگار ہیں ضعیفوں کے۔ اے اللہ درود و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَشْرَى الضُّيُوفِ وَنُورِ الرَّؤُوفِ

سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراپا بشارت ہیں مہمانوں کے لیے اور نور ہیں رؤوف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَخْيَارِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو بہترین ہیں تمام بہترین لوگوں سے

وَعَالِي الْمَفَاخِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اعلیٰ اوصاف والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

فَخِرِ الْمَنَابِرِ وَضَوْءِ الْبَصَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو منبروں کے فخر اور بصیرتوں کی ضیاء ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَبَشِّرِ السَّلَامَةِ وَخَلَّاصَةِ مَنْ تَهَامَتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جو سلامتی کی بشارت دینے والے اور تمامہ کا جوہر خالص ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِتَوَلِّ بَطُولِ أَصْلِ الْأَصُولِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو دنیا سے قطع تعلق والے جو امر و کامل اور اصول

إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَصْلِ أَصُولِ وَصُولِ حُصُولِ آيَاتِنَا خَادِمِ

وارکان کی اصل و بنیاد ہیں اے میرے الہ البظیف حرمت ان وصول و حصول کے اصل الاصول کے یعنی آیاتنا ح خ و

رَا زَا سَ شَ صَ ضَ طَا ظَا عَا غَا فَا قَا كَا لَا مَنَا وَ هَا لَا عَا يَا اَللّٰهُمَّ

رازاسش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ل ا ع ی ا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّسَبِّحًا بِرَسُوْلِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو رسول اللہ کے اسم و لقب والے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَابِقِ

اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو متقدمین پر سبقت

اَلْمُتَقَدِّمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے جانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَابِقِ الْمُبْتَاحِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

جو پیچھے رہ جانے والوں کے چلانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ مِّنْ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

آل پر جن پر تو نے قرآن نازل فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ ذِكْرِهِ اللهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ

آپ کی آل پر جس محبوب کا ذکر تو نے تورات و انجیل اور زبور و فرقان میں کیا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ نَّصْرَةِ اللهِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے مدد دی

فِي الْعُدُوْا وَاِنْ وَالْغَسَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اہل عدوان اور غسان پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ فَتْحِ اللهِ لِهٖ الْبُلْدَانِ مَعَ الْوُلْدَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جن کو اللہ تعالیٰ نے شہروں اور اہالیان پر فتح عطا فرمائی۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ بَشْرَةِ اللهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے مغفرت اور رضا مندی کا مژدہ دیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِمَّنْ يَكُونُ اللَّهُ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن پر اللہ تعالیٰ نے وعظ آسان

التَّذْكَرَةَ وَبَصْرَةَ اللَّهِ بِالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

فرمایا اور آخرت کی بصیرت عطا کی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِمَّنْ زَكَّى نَفْسَهُ مِنْ مَّحَبَّةِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ

آپ کی آل پر جنہوں نے اپنے آپ کو محبت دنیا سے پاک کر دیا۔ لے اللہ بنا دے اپنی محبت کو

أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي اللَّهُمَّ إِذَا

میری طرف محبوب ترین تمام اشیاء سے۔ اپنے خوف کو سب سے زائد بنا دے۔ لے اللہ جب

أَقْرَبَتْ عَيْنُونَ أَهْلِ الدُّنْيَا بِدُنْيَاهُمْ فَأَقْرِبْ عَيْنِي بِكَ وَبِعِبَادَتِكَ وَ

تو ٹھنڈی کرے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا کے ساتھ تو ٹھنڈی کر میری آنکھ اپنی ذات اور اپنی عبادت کیساتھ

أَقْطَعْ عَنِّي لَذَائِزَ الدُّنْيَا بِأَنْسِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ

اور قطع فرما مجھ سے دنیاوی لذتوں کو اپنے انس اور شوق لقاء کے ساتھ اور بنا دے میرے

فِي كُلِّ شَيْءٍ بِرَمِيَّتِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ ارْتُقِنِي حُبَّكَ وَحُبَّ

ہر عضو اور جزو کو اپنی طاعت میں لے جلال و اکرام والے۔ لے اللہ مجھے عطا فرما اپنی محبت اور

مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ

اپنے محبوب کی محبت اور محبت کرنے والوں کی محبت اور محبت اس عمل کی جو تیرے قریب کر دے اور اپنی

حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ

محبت کو تمام اشیاء سے زیادہ محبوب بنا دے مانند ٹھنڈے پانی کے واسطے پیاسے کے۔ لے جلال و

الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُكْبَةٍ

اکرام والے۔ لے اللہ مجھے پیلا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جام سے ساتھ اپنی رحمت کے

لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ بِيْرُكَةِ

ایسا شربت کہ میں اس کے بعد کبھی پیسا نہ ہو سکوں۔ لے ارحم الراحمین۔ لے اللہ بطفیل اپنے

بِأَنَّكَ وَأَوْلِيَاءِكَ وَكُلِّ مَا كَانَ عِنْدَكَ حَقٌّ صَبَّ عَلَى قُلُوبِنَا

انبیاء و اولیاء کی برکت کے اور ہر اس شئی کے جو تیرے نزدیک برحق ہے ہمارے دلوں پر پلٹ

أَسْ شَرَابٍ مَحَبَّتِكَ كَمَا صَبَبْتَ عَلَى قَلْبِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اپنے شراب محبت کا جام جیسے اپنے نبی محمد کے قلب پر پلٹا صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَعَلَى سَائِرِ قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَكَمَا صَبَبْتَ عَلَى سَائِرِ

وسلم اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین کے قلوب پر اور جیسے تو نے پلٹا اسے تمام

قُلُوبِ مَشَائِخِ الطَّرِيقَةِ أَجْمَعِينَ فَاطْمِئِنَّ اللَّهُمَّ مِنْ قُلُوبِنَا حُبَّ

مشائخ طریقت کے قلوب پر پس اے اللہ ہمارے قلوب سے محو فرما دے غیر کی محبت

عِيْرِكَ وَأَسْقِنَا بِكَ شَرَابَ مَحَبَّتِكَ وَاجْعَلْنَا سُكَّارِي مِنْهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اور ہمیں پلا دے اپنی محبت کا جام شراب اور اسی سے ہمیں سست و بیخود بنا دے اے رب العالمین

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ صَفَى قَلْبَهُ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کا دل اقدس مصفی ہے

مِنَ السُّبُلِ إِلَى الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دنوی میلان سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنْ عَطَّرَ سُرَّةَ بِمُشَاهَدَةِ الْمَوْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جنہوں نے اپنے اندرون کو مشاہدہ مولیٰ سے معطر فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هِدَاةَ اللَّهِ إِلَيْهِ وَدَعَاةَ اللَّهِ وَأَسْرَاهُ اللَّهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے اپنی طرف راہ بخشتی اور اپنی طرف شب اسراء

إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَرَاغ

چلایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہ مائل ہوئی

بَصْرَةَ بِالسَّيْرِ إِلَى الْغَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کی نگاہ دوران سیر غیر کی طرف۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ كَلَّمَ مَعَ رَبِّهِ وَسَمِعَ مِنْهُ الْكَلَامَ اللَّهُمَّ مِنَ الْأَكْبَارِ

آل پر جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کلام کیا اور اس کا کلام سنا۔ اے اللہ آلاستوں سے مجھے

وَاحْفَظْنِي حَتَّى لَا أَسْكُنَ إِلَى شَيْءٍ عِزًّا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصُّطَفِيِّينَ

محفوظ فرما حتیٰ کہ کسی شئی کی طرف مجھے سکون نہ ہو جیسے کہ تو نے محفوظ فرمایا اپنے برگزیدہ بزرگ

الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْنِي اللَّهُ بِمَا ذَكَرْتَ بِهِ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَابِ

بندوں کو اور مجھے یاد فرما جیسے تو نے یاد فرمایا دو میں سے دوسرے کو جبکہ وہ دونوں غار میں تھے

وَإَيِّدْنِي اللَّهُ عِنْدَ شُهُودِ الْوَارِدَاتِ بِالْإِسْتِعْدَادِ وَالْإِسْتِبْصَارِ وَأَفْضُ

اور میری تائید فرما۔ اے اللہ واردات کے مشاہدہ کے وقت استعداد کامل اور بصیرت بخش کر

عَلَى مَنْ بِحَارِ الْعِنَايَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ الصِّدِّيقِيَّةِ مَا أَنْدَرَجَّ بِهِ

اور مجھ پر فیضان فرما عنایت محمدیہ اور محبت صدیقیہ کے سمندروں سے کہ داخل ہو جاؤں اسکے ذریعے

فِي ظُلْمِ غِيَاهِبِ عِيُونِ الْأَنْوَارِ وَاجْمَعْنِي بِي وَاجْعَلْ بِي بَيْنَ سِرِّكَ

انوار کے چشموں کی اتقا گہرائیوں میں اور مجھے میری حقیقت کے ساتھ جمع فرما اور بنا میرے لیے درمیان

الْمَكْنُونِ الْخَفِيِّ وَالْإِسْطِظْهَارِ وَاكْشِفْ لِي عَنْ سِرِّ أَسْرَارِ أَفْلَاكِ التَّدْوِيرِ

حالت خفا و ظہور میں اپنے سرمکنون کے درمیان اور کشف فرما مجھ پر افلاک تدویر کے سرالاسرار کو

فِي حَوَاشِي التَّصْوِيرِ لِأَدْبَرِ كُلِّ فَلَكَ بِمَا أَقَمْتَهُ مِنَ الْأَسْرَارِ وَاجْعَلْ

تصاویر و اشکال کے اطراف میں تاکہ میں تدبیر کروں ہر فلک کی ان اسرار کے ساتھ جو اس سے قائم فرمائے اور بنا

لِي الْحِطَّ الْخَطِيرِ الْمُدُودِ الْقَائِمِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْحُرُوفِ وَالْإِسْمِ

میرے لیے عظیم اور وسیع حصہ جو عدل کو قائم رکھنے والا ہو درمیان حروف و اسم کے

فَاحِيطٌ وَلَا أَحَاطُ بِأَحَاطَةٍ لِمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ بِسْمِ

تاکہ میں احاطہ کروں اور میرا احاطہ نہ کیا جاسکے بطفیل اس احاطہ کے کس کیلئے ہے ملک آج ہر طرف اللہ واحد

اللَّهُ كَهَيْعِصٍ كُنَيْتٌ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

فما کیلئے ہی ہے بسم اللہ کہنعص میری کفایت کر دی گئی پس عنقریب تجھے اللہ ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا وہی سمیع علیم ہے بسم اللہ

عَسَقَ حِمِيَّتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

عَسَقَ میری حمایت کی گئی ہے۔ اور نہیں کچھ طاقت اور قوت مگر اللہ بزرگ عظیم کی توفیق سے بسم اللہ

الغِيَّ غَيْبٌ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا

الغی بطفیل اللہ غنی کے اسم کے مجھے غنی کر دیا گیا اور اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے جنہیں وہی جانتا ہے اور وہ

فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ

جانتا ہے بحر و بر کی ہر شئی کو اور جو پتہ گرتا ہے اسے جانتا ہے اور نہیں کوئی دانہ زمین کی

الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيمِ عَلِيَّتُ

تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور خشک شئی مگر لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ علیم کے اسم کی برکت سے مجھے علم

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الْقَوِيَّ قَوِيَّتُ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

ویا گیا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ قوی کے اسم کی برکت سے میں نے قوت پائی اور لوٹا یا اللہ نے

كَفَرُوا وَابْغَضْتَهُمْ لَمْ يَنْالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ

کفار کو ان کے غیظ سمیت نہ پائی انہوں نے کچھ خیر اور کفایت فرمائی اللہ نے مومنین کو جنگ سے۔ اور اللہ

قَوِيًّا عَزِيزًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قوی عزیز ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَى فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

جو اس مقام والے ہیں "میرا اللہ کے ساتھ مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں میری گنجائش نہیں رکھتا کوئی اللہ کا بندہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ فَاوْحِي

درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اس مقام والے "توحی کی اللہ نے

إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی کی" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو اس مقام والے ہیں البتہ دیکھا انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَمْدِ الَّذِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو حمد والے ہیں جو کہ عطیات اللہ کے

مِفْتَاحُ أَقْفَالِ الْعَطِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا

تاوں کی چابی ہیں حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا موت (نیند) دینے کے بعد

وَالِيَهُ الْبُعْثُ وَالنُّشُورُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ

اور اسی کی طرف ہے ہمارا بعث اور شر۔ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے آسمانوں کی مقدار۔ زمینوں کی مقدار

وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ وَاهِلِ الثَّنَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ

اور ان کے مابین کی مقدار اور جو تو نے پیدا فرمانے کا ارادہ کر رکھا ہے اس کی مقدار تو مقدار ہے ثناء و کبریا

وَالْمَجْدِ وَأَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عِبِيدًا لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

اور بزرگی کا اور زیادہ لائق ہے اپنے عبد متخص کے اس قول کے اگرچہ ہم بھی تیرے عبد ہیں "نہیں مانع تیری عطا

وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا سَاءَ مَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ

کے لیے اور نہیں معطی تیری رو کی ہوئی شئی کا اور نہیں کوئی ٹانے والا تیری قضا کا اور نہیں نفع دیتا کسی نسب والے کو

الْحَمْدُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ عَلَيَّ مَا خَصَّصْتَنِي بِهِ

اس کا نسب۔ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں جبکہ تو حمد کے لائق ہے ان پسندیدہ عطیات پر جن سے مجھے متخص

مِنْ مَوَاهِبِ الرَّغَائِبِ وَأَوْصَلْتَ إِلَيَّ مِنْ فَضَائِلِ الصَّنَائِعِ وَالْإِحْسَانِ

ٹھہرایا۔ اور بزرگتر نیکیوں پر جو مجھ تک پہنچا ہیں اور مالک بنایا اپنے احسان

بِهِ مِنْ إِحْسَانِكَ بَوَّأْتَنِي بِهِ مِنْ مَقْضِيَةِ الصَّدَقِ عِنْدَكَ وَأَنْتَ

کا۔ ٹھکانہ دیا اپنے ہاں مقام صدق میں۔ اور عطا کے

مِنْ مَنِّكَ الْوَاصِلَةَ إِلَيَّ وَأَحْسَنْتَ بِهِ إِلَيَّ مِنْ إِنْدِقَاءِ الْبَرَكَاتِ عَلَى

اپنے انعامات جو واصل ہیں مجھ تک اور احسان کیا مجھ سے بلیات کے دور کرنے کا اور

التَّوْفِيقِ لِي وَالْإِجَابَةَ لِدُعَائِي حِينَ أُنَادِيكَ دَاعِيًا أَلِيمًا

توفیق بخشنے کا اور میری دعا کی قبولیت کے ساتھ جب کہ میں تجھے پکاروں دعا کرتے ہوئے اور سرگوشی کروں رغبت سے

وَادْعُوكَ مُضَارِعًا مُصَافِيًا وَحِينَ أَرْجُوكَ رَاجِيًا فَاجِدْكَ اللَّهُمَّ

اور دعا کروں زاری کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اور جبکہ تجھ سے امید رکھوں تیری پس تجھے پا لوں۔ اے اللہ

لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ

تیری حمد ہے تو برپا رکھنے والا ہے سموات و الارض اور ان کے مابین کا۔ اور تیری حمد کرتا ہوں

حَمْدَ الَّذِي لَيْسَ الْحَمْدُ وَتَكْرِمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا

مانند حمد اس شخص کے جس نے حمد کا لباس اوڑھا اور کرامت پائی ساتھ اس کے پاک ہے وہ کہ تسبیح صرف اسی کے

لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ ذِي

شایاں ہے۔ نہیں معبود برحق مگر وہی پاک ہے جس نے ہر شئی کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہے۔ پاک ہے

الْفَضْلِ وَالْمِنَّةِ سُبْحَانَ ذِي الطُّوْلِ وَالْحِكْمِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ

فضل و احسان والا۔ پاک ہے توانائی اور حکمتوں اور نعمتوں والا۔ پاک ہے عزت اور کامل

وَالتَّكْرُمِ سُبْحَانَ ذِي الْبَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بزرگی والا۔ پاک ہے بزرگی اور کرم والا۔ پاک ہے جلال و اکرام والا۔

أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کے عزت والے بیوندوں کے طفیل اور تیری کتاب کے منتہائے

بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجِدِّكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا

رحمت اور تیری عظیم تر اور کامل بزرگی کے طفیل۔ اور بطفیل اللہ کے کلمات تمامہ کاملہ کے جن سے

يُجَاوِزُ هُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کر سکتا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَمْرَهُ اللَّهُ تَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا اس کی طرف مکمل رجوع اور رغبت کا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَمْرَهُ اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا

بِالْإِسْتِقَامَةِ تَعْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

استقامت کا ازروئے تعلیم (امت) کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنُ اعَدَّ اللَّهُ إِطَاعَتَهُ طَاعَةَ اللَّهِ تَعْظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ اللہ نے جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت شمار کیا ازروئے تعظیم کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَالِبِ الْهُدَى لِمَنْ جَفَا عَلَيْهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جفا کاروں کے لئے بھی ہدایت کے طلبگار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنُ عَفَا

لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے اپنے

عَنْ أَصْحَابِهِ الرِّزْلَةَ اللَّهُمَّ أَحِينَا وَأَمْتِنَا عَلَى حُبِّهِمْ وَأَحْفَظْنَا مِنْ

اصحاب کی لغزش سے درگزر فرما۔ لے اللہ ہمیں زندہ رکھنا اور مارنا ان کی محبت پر اور بچانا ان کے

بَغْضِهِمْ وَسَبِّهِمْ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيُنِنَا

بغض اور سب و شتم سے۔ اور نہ بنانا ان میں سے کسی کا اور نہ اہل اسلام میں سے کسی کا ہماری گردنوں

ظَلَامَةً وَأَجْعَلْهُمْ شُفَعَاءَنَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ ارْضُ عَنِ

میں بدلہ جفا اور انہیں قیامت میں ہمارے شفیق بنانا۔ لے اللہ راضی ہو

قُطْبِ الْأَقْطَابِ وَقَرِّدِ الْأَحْبَابِ وَالْعَامِلِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

قطب الاقطاب اور یکتائے احباب سے اور کتاب و سنت پر عامل سے

وَالْقَائِلِ عَلَى رِءُوسِ الْأَشْهَادِ قَدِمِي هَذَا عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَرِيٍّ اللَّهُ

اور علانیہ یہ قول کرنے والے سے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔

الْغَوْثِ الْفَرْدِ الْأَوْحِدِ أَبِي الْمَكَارِمِ وَالْمَحَاسِنِ أَعْنِي بِهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ

غوث۔ یکتا۔ یگانہ مکارم و محاسن کے مالک سے میری مراد ہے شیخ

وَمُرْشِدُنَا مُحَمَّدِي السُّنَّةِ وَالِدَيْنِ سَيِّدِنَا عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي قَدَسَ اللَّهُ

و مرشد منی السنۃ والدین سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی اللہ ان کے

سِرَّةً وَاَعَدُّ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ خُصُوصِيَّاتِهِ وَنَفَحَاتِهِ وَجَلَوَاتِهِ

باطن کو پاک رکھے اور لٹائے ہم پر اور تمام اہل اسلام پر ان کے خصوصیات اور خوشبو میں اور جلوے

وَاَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ تَحْتَ لُؤَاءِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور اٹھائے ہیں ان کی جماعت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء حمد کے نیچے

وَوَالِدَيْنَا وَمَشَارِعَنَا وَمَعْلَبِينَا وَإِخْوَانَنَا وَأَصْدِقَائَنَا وَمُحِبِّينَا وَ

اور ہمارے والدین و مشائخ اور اساتذہ۔ بھائیوں اور دوستوں اور محبوبوں کو اور

كَافَّةَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيََاءَهُ وَرُسُلَهُ

تمام اہل اسلام کو۔ میں گواہ بناتا ہوں اللہ اور تمام ملائکہ اور انبیاء و رسل کو

وَالْحَاضِرِينَ مِنْ خَلْقِهِ إِنِّي تَأْتِي إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُجْتَنِبٌ مِّنْ

اور مخلوق میں سے تمام حاضرین کو کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی طرف۔ اجتناب کرنے والا ہوں

مَحَارِمِهِ مُجْتَهِدٌ عَلَى طَاعَاتِهِ مُنِيبٌ إِلَيْهِ مُوَاطِبٌ عَلَى خِدْمَةِ

حرام امور سے سنی کرنے والا ہوں طاعات پر قلبی طور پر رجوع کرنے والا ہوں طرف اللہ کے اور فقراء و مساکین کی خدمت پر

الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ وَإِن سَيِّدَنَا وَقَدْ وَتْنَا إِلَى

ہمیشہ کار بند رہوں گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور یہ کہ ہمارے سرور اور مقتدائے

اللَّهِ تَعَالَى الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ

راہ خدا۔ شیخ محمد بن عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز

شَيْخُنَا وَمُرْشِدَنَا وَمُقْتَدَانَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

ہمارے شیخ و مرشد اور مقتدا ہیں دنیا و آخرت میں اور اللہ ہمارے قول پر

وَكَيْلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وکیل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مَنْ صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ الرُّؤْيَا يَفْتَحْ مَكَّةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

کہ جن کے خواب کو تو نے سچا کر دیا فتح مکہ کے ساتھ اے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے طفیل

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَقُدْرَتِكَ

اور قدرت طلب کرتا تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ اور سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم اور قدرت کاملہ سے

فَاتَّكُ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدَارُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ

کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیب کے کامل علم والا ہے۔ اے اللہ

إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا اللَّهُمَّ إِن

بیشک میں نہیں مالک اپنی ذات کے لیے ضرر و منفعت کا اور نہ حیات اور نہ اُٹھنے کا۔ اے اللہ اگر

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ كَانَ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

تو جانتا ہے کہ کوئی بھی امر بہتر ہے میرے لیے میرے دین اور معاش اور انجام کار میں

فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ

تو اے میرے مقدر فرما اور سہل بنا پھر اس میں مجھے برکت دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ کوئی امر

شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ

میرے لیے برا ہے دین و معاش اور انجام کار میں تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر

عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

اور مقدر فرما میرے لیے خیر کو جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما بطفیل اپنی رحمت کے اے ارحم

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنْ شَرَّهَ اللَّهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ كَمَا شَرَّهَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُمَّ

پر جن کے متعلق اللہ نے شہادت دی کہ وہ میرے رسول ہیں جیسے کہ انہوں نے شہادت دی کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخُصُوصِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو خاص ہیں

بِطَيْبِ النَّشْرِ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پاکیزہ نکتہ کے ساتھ قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرُوسِ الْخَافِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آپ کی آل پر جو دولہا ہیں مشرق و مغرب کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو مکہ و حرم کے امام ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ

و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ بنایا اللہ نے ان کے منبر اور

بَيْنَ مَثْبَرَةٍ وَرَوْضَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

قبر النور کی درمیانی جگہ کو جنت۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْجَنَّةَ وَالتَّارِ مِثْلَتَيْنِ فِي ظِلِّ حَائِطِ حَجْرَتِهِ

محمد پر جنہوں نے دیکھا جنت اور دوزخ کو مثل اپنے حجرہ مبارک کی دیوار کے سایہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ بنایا

جَعَلَ اللَّهُ النُّورَ مِنْ قَبْرِهِ عَمُودًا سَاطِعًا مِنَ الْفَرْشِ مُتَّصِلًا بِقُبَابِ

اللہ نے آپ کی قبر النور سے عمودی شکل میں بلند ہونے والا نور فرش زمین سے قبہ عرش تک

الْعَرْشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

متصل۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ حَوْضَهُ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ جُدَادًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ بنایا اللہ نے ان کے حوض کو دو ماہ کی مسافت تک وسیع۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ شَرِبَ مِنْ حَوْضِهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس نے پی لیا ان کے حوض سے

شَرِبَهُ هَيِّئْهُ مَرِيئَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

ایک خوشگوار گھونٹ نہیں پیاسا ہوگا اس کے بعد کبھی۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَهَىٰ اللَّهُ الْخَلْقَ أَنْ يُرْفَعُوا

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ منع فرمایا تو نے مخلوق کو ان کی آواز پر

أَصْوَاتِهِمْ فَوْقَ صَوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آوازیں بلند کرنے سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَاقَىٰ الْعَطَاشَ مِنَ الْكُوْثِرِ الَّذِي قُبَابَةُ مِنْ

محمد پر جو پلانے والے ہیں پیاسوں کو حوض کوثر سے جس کے قبہ جات

اللُّؤْلُؤِ الْمَجُوفِ وَكَيْزَانَةُ عَدَدِ النُّجُومِ أَوْ أَكْثَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اندر سے خالی موتیوں سے ہیں اور اس کے کٹورے ستاروں کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَكَنَتْ بِهِ صَدْمَةُ قَهْرْمَانَ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے طفیل رک گینا غلبہ جبروت کے قہرمان

الْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و تسلط کا۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي أَنْزَلَتْ بِهِ الطَّافِكُ الْوَارِدَةُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ

کہ جن کے طفیل تو نے نازل فرمائے اپنے الطاف جو داخل ہونے والے ہیں ملکوت دروازوں سے اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةِ الْمَسْدُورِ

اللہ صلوات و سلام نازل ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراپا رحمت ہیں اور پھیلانے والے

بِهَا أَذْيَالُ لُطْفِكَ وَسِتْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہیں تیرے لطف اور پردہ پوشی کے دامنوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد و

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَصِيَّةِ الْمَانِعَةِ لَنَا عَنْ انْزَالِ قَهْرِكَ اللَّهُمَّ

آل محمد پر جو نجسم عصمت ہیں روکنے والے ہیں ہم پر سے تیرے قہر کے نزول کو اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِأَسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَبِكَلِمَاتِكَ الثَّامَةِ مِنْ شَرِّ السَّامِرِ

میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بطفیل تیرے اسم اعظم اور کلمات تامہ کے تشددی اور زہریلے

وَالْهَامَةِ وَأَعُوذُ بِكَ بِأَسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ

جانوروں کے شر سے۔ اور پناہ طلب کرتا ہوں بظہیر تیرے اسم اعظم اور کلمات تامر کے تیرے بندوں

عِبَادِكَ وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ

کے شر اور عذاب کے شر سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر سرکش شیطان اور ہر

كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ

معاذ و جبار کے شر سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں شب و روز میں جاری ہونے والے کے شر سے بیشک

رَبِّي اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

میرا رب اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر وہی اسی پر میں نے توکل کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔

إِلَهِي سَلِّطْ عَلَيْنَا عَدُوًّا أَبْصِيرًا يُرَبِّئُنَا بِعِيوبِنَا هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ

اے میرے الٰہ تو نے ہم پر ایسا دشمن مسلط کیا جو دیکھنے والا ہے ہمارے عیوب کو خود بھی اور اس کا قبیلہ بھی جہاں سے

لَا نُرَاهُمْ اللَّهُمَّ فَإِنَّهُ مَنَّا كَمَا آيَسْتَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَبِطُهُ مِنَّا

ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ اے اللہ اسے ہم سے مایوس فرما جیسے کہ اسے اپنی رحمت سے مایوس کیا ہے اور نامید فرما اسے

كَمَا قَبِطْتَهُ مِنْ عَفْوِكَ وَأَبْعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا أَبْعَدْتَ بَيْنَهُ وَ

ہم سے جیسے نامید کیا اپنی عفو سے اور دوری پیدا فرما ہمارے اور اس کے درمیان جیسے تو نے اس کے اور جنت

بَيْنَ جَنَّتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

کے درمیان دوری پیدا کی۔ بے شک تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأُمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

قبر کے عذاب۔ دل کے وسوسہ اور امور کی پراگندگی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا

بِكَ أَنْ يَدْعُو عَلَيَّ رَحِمًا قَطَعْتُهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ

ہوں اس سے کہ بد دعا کرے مجھ پر رحم جسے میں نے قطع کیا اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہواؤں کے لئے ہواؤں کے

الرِّيَّاحِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ

شر سے اور میں پناہ طلب کرتا ہوں دوزخیوں کے حال سے اور ہر اس شر سے جس سے تیرے نیک

شر سے اور میں پناہ طلب کرتا ہوں دوزخیوں کے حال سے اور ہر اس شر سے جس سے تیرے نیک

عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ مَا يَدْبُرُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَدْبُرُ

بندوں نے پناہ طلب کی۔ اور یہ کہ کفایت فرمائے مجھے زمین میں داخل ہونے والے اور اس سے خارج ہونے والے

مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي نَسْرٍ وَمِنْ

کے شر سے اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور ہر شریر کے شر سے اور ہر شیر اور

شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَحَيَّةٍ وَعَقْرِبٍ وَكُلِّ شَيْءٍ عَقُورٍ وَشَرِّ سَاكِنِ

سیاہ اژدہا اور سانپ اور بچھو کے شر سے اور ہر کانٹے والی شے کے شر سے اور دیہاتوں اور شہروں کے

الْقَرْيِ وَالْمَدِينِ وَالْحَصُونِ وَالْقَلَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَسَائِرِ الْوَحْشِيَّاتِ

ساکنین اور حصون و قلعہ جات اور گناہوں کے ساکنین اور تمام وحشیوں کے شر سے

فَمَقِلِ الْكُفْرَيْنِ أَمْهَلُهُمْ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ

پس مہلت دے کافروں کو (دنیوی زندگی میں) مہلت دے انہیں۔ اور جب تم گرفت کرو گے جبر و قہر کی حالت میں۔ پس اللہ

وَاطِيعُونَ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَكَ

سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ کا رنگ ہے اور کون زیادہ احسن ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ چڑھانے میں۔ اور ہم اسی کے

عَابِدُونَ يَا رَشِيدُ أَرْتَدُّنَا وَأَحْفَظُنَا مِنْ جُهِدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ السَّيِّئِ

عبادت گزار ہیں۔ اے رشید ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں محفوظ فرما بلیات کی مشقت اور شقاوت کے احاطہ

وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَبَابَةِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ كَيْفَ آدَاءُ ثَنَائِهِ مَنَّا وَأَنْتَ

اور ناپسندیدہ قضاء اور دشمنوں کی شادمانی سے۔ اے اللہ کیسے ممکن ہے ہم سے اس محبوب کی ثناء کرنا اور تو نے

الْهَمَّتِي فِي شَانِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ شَيْءٌ قَدْرَهُ إِلَّا أَنَا وَكَفَى لَكَ وَصْفُكَ

ہی مجھے اللہ فرمایا ان کی شان میں کہ ان کا شان و قدر صرف میں ہی جانتا ہوں اور کافی ہے ان کیلئے تیری توصیف

كَمَا سَبَّيْتَهُ مُحَمَّدًا أَحْمَدًا فِي الْأَوَّلِ بِاسْمِ الدَّائِي وَالصَّفَاتِي بِأَنَّكَ اللَّهُ

جیسے کہ تو نے انہیں محمد و احمد نام سے موسوم کیا ابتداء میں ذاتی اور صفاتی نام سے۔ اے اللہ

هُوَ تَوْسُطُنَا لِوَجُودِنَا فَكُلُّ دَعْوَاتِنَا وَنِيَّاتِنَا وَحَاجَاتِنَا بِكَ

وہی ہمارے وجود کے لیے وسیلہ ہیں لہذا ہماری تمام دعائیں۔ نیات اور حاجات بھی انہیں کے توسل سے ہی

إِيَّاكَ فَتَقَبَّلَهَا وَأَقْضَاهَا بِوَجْهِ الْأَحْسَنِ بِحُرْمَتِهِ بِخَيْرِ الْخَيْرَاتِ يَا

طرف تیری لہذا انہیں قبول فرما اور احسن طریقہ پر پورا فرما بظہیل ان کی عزت کے اور سب بہترین سے بہتر کے یا

رَسُولَ اللَّهِ أَنَا غَرِيبٌ مَسْكِينٌ فَقِيرٌ إِلَيْكَ وَعَنِيٌّ بِكَ لَا تَذَرُ لِفَقِيرِهِ وَ

رسول اللہ میں غریب و مسکین اور آپ کی طرف محتاج ہوں اور آپ کے ذریعے غنی ہوں۔ اے اللہ نہ چھوڑ ان کے

غَرِيبِهِ وَمَسْكِينِهِ بِأَيِّ حَالٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ نَظَرِ إِحْسَانِهِ بِعَفْوِهِ

فقیر و غریب اور مسکین کے لیے کسی حال میں اور کسی زمانہ میں نظر احسان کو بوسیدہ ان کے عفو و

وَعَفْوَانِهِ وَإِمْدَادِهِ وَإِعَانَتِهِ وَحِفْظِهِ بِفَضْلِهِ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ بِحُرْمَةِ

بخشش اور امداد و اعانت و حفاظت کے بسبب ان کے فضل کریم و عظیم کے بظہیل

حُسْنِ خُلُقِهِ وَأَصْطَفَائِهِ وَاجْتِبَائِهِ لِلَّهِ بِحَقِّ الْحَقِّ هـ

حرمت ان کے خلق حسن اور مصطفائی و مجتبائی کے اللہ کے ہاں۔ خدا کے لیے بظہیل حقیقت الحق کے۔

يَا حَبِيبَ الْإِلَهِ خُذْ بِيَدِي ❖ مَا لِعَجْزِي سِوَاكَ مُسْتَنْدِي

اے حبیب الہ میری دستگیری فرماؤ ❖ نہیں ہے میرے عجز کے لیے تمہارے سوا کوئی سہارا

كُنْ رَحِيمًا لِذَلَّتِي وَاشْفَعْ ❖ يَا شَفِيعَ الْوَرَى إِلَى الصَّمَدِ

مہربان رہیے میری لغزش پر بھی اور شفاعت کیجئے ❖ بارگاہ صمدیت میں اے ساری مخلوق کے شفیع

إِعْتَصَامِي سِوَا جَنَابِكَ لِي ❖ لَيْسَ يَا سَيِّدِي إِلَى الْإِحْدَى

آپ کی بارگاہ کے علاوہ میری عصمت کا موجب ❖ کوئی نہیں ہے اے میرے آقا

غَيْرُ عَرْوَتِكَ لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ ❖ لِعَلِيلٍ ذَلِيلٍ مُعْتَمِدِي

سوائے تیرے مضبوط حلقہ کے دونوں جہان میں نہیں ہے ❖ اس بیمار و بیچارہ کے لیے جائے اعتماد

صَلَوَاتِي عَلَيْكَ فِي الْمَلَكُوتَيْنِ ❖ كَانُ مَتَجَاوِزًا عَنِ الْعَدَادِ

میرے درود و صلوات ہوں آپ پر دونوں جہانوں ❖ میں گنتی و شمار سے زیادہ

اللَّهُمَّ بِقَبُولِكَ فِي كُلِّ حَالِنَا بِلَا نَظَرِ حَسَنَاتِنَا بِمَحْضِ إِحْسَانِكَ

اے اللہ تیری قبولیت ہمارے شامل حال ہے تمام احوال میں بغیر نظر کئے طرف ہماری نیکیوں کے محض اپنے احسان

وَفَضْلِكَ الْعَظِيمِ كَيْفَ وَلَيْسَ مِمَّا حَسَنَةً لِأَنَّ لِقَبُولِكَ بِالسَّادَةِ

و فضل عظیم سے کیونکر ایسے نہ ہو جیکہ نہیں ہماری کوئی نیکی اے ہمارے سید و مولیٰ تیری قبولیت کے لائق

يَا مَوْلَانَا لَكَ تَيْسِيرٌ بِالْوَاقِعِ كُلِّ مَا شِئْتَ أَنْ أَعْبِيدَكَ وَأَبْنُ عِبِيدِكَ

تیری طرف سے ہی توفیق ہے فی الواقع ہر اس امر میں جو تو چاہے، میں تیرا ناقص بندہ ہوں۔ اور ناقص بندے کا بیٹا

وَأِنْ كَانَ أَنَا عَبْدٌ أَبِيقٌ مُذْنِبٌ عَاصٍ بِذُنُوبٍ كَثِيرٍ كَثِيرٍ لَكِنْ

اگرچہ میں بھاگا ہوا گناہگار عاصی بندہ ہوں بے حد گناہوں کے ساتھ لیکن

لَيْسَ لَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ أَوْلَىٰ لَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْتَ وَلِيُّنَا وَأَنْتَ

نہیں ہمارا کوئی بھی سوائے تیرے تو زیادہ رحیم ہے ہم پر نسبت ہمارے نفوس کے۔ تو ہمارا کارساز اور

مَوْلَانَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا مَوْلَانَا حَلْمُكَ وَرَحْمَتُكَ وَقَبُولُكَ وَ

متولی امور ہے دنیا و آخرت میں اے ہمارے مولیٰ تیری بردباری اور رحمت۔ قبولیت اور

شَفَاعَتِكَ أَوْسَعُ وَأَعْظَمُ لِلْعَفْوِ وَالشَّفَاعَةِ لِجَمِيعِ الْمَذْنِبِينَ وَ

شفاعت زیادہ وسیع و عظیم ہے تمام گناہگاروں کی بخشش اور شفاعت کے لئے اور

لِلْقَبُولِ وَاللُّوسِيلَةَ لِجَمِيعِ الْمَلْتَبِسِينَ الرَّاجِينَ وَالْعَاجِزِينَ

قبولیت توسل کے لیے واسطے تمام اہل التماس امیدواروں۔ عاجزوں۔

الْمُتَحَدِّرِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَىٰ نَبِيًّا

حیرت زدوں اور کمزوروں کے لیے۔ جزا دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے افضل ترین جزا نسبت

عَنْ أُمَّتِهِ إِنَّ لَكَ لِأَجْرٍ غَيْرِ مَسْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

اس جزا کے جو کسی بھی نبی کو امت کی طرف سے دی۔ بے شک آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور آپ خلق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِينَ

عظیم پر حاوی ہو اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے اسم مبارک کو

حَبَّ اللَّهُ اسْمَهُ أَنْ يُسْتَبَىٰ بِهِ أَحَدٌ مِّنْ عِبَادِهِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَمَوْلَانَا

تو نے محفوظ رکھا اس سے کہ کوئی اس سے موسوم ہو آپ کے ظہور و ولادت سے قبل۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَدْخُلُ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ نہیں داخل ہوگا

النَّارِ مِنَ الْأَنْعَامِ مَنْ يُسْتَبَى بِاسْمِهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَوْ كَانَتْ نَفْسَانِي كُلِّ

آتش دوزخ میں جو ان کے نام سے موسوم ہوگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اگرچہ ہمارا نفس ہر

حَالٍ أَذْنَبَ الْمَذْنُبِينَ وَأَحْيَرَ الْمُتَحَيِّرِينَ وَأَجْهَلَ الْجَاهِلِينَ وَأَضَلَّ

حال میں سب سے گناہگار تر اور سب حیرت زدگان سے زیادہ حیرت والا۔ سب جاہلوں سے جاہل تر

الْمُضِلِّينَ وَأَخْيَبَ الْخَائِبِينَ وَأَعْصَى الْعَاصِينَ فَلَا تَحْرِمْنَا قُرْبَانَا

اور گمراہوں سے گمراہ تر اور رسواؤں سے رسوا تر اور نافرمانوں سے نافرمان تر ہے پھر بھی ہمیں محروم نہ فرما اور ہمیں

مِنْ كَمَا ل شَفَاعَتِهِ وَدَلَالَتِهِ وَذَخِيرَتِهِ وَوَسِيلَتِهِ وَهَدَايَتِهِ وَ

نصیب فرما ان کی شفاعت کاملہ اور رہنمائی اور ذخیرہ سے اور ان کے وسیلہ ہدایت اور

عِنَايَتِهِ وَحِفْظِهِ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَإِحْسَانِكَ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عنایت و حفاظت سے اپنے فضل عظیم اور احسان کریم کے ساتھ۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ وَالْغَمَامَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر جو امتیازی علامت اور سایہ فگن بادل اور نبوت و رسالت والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُنَادِي يَوْمَ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جنہیں نداوی جائے گی قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ إِكْرَامًا لِعُلُوِّ قُدْرَةِ وَعَظَمَتِهِ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ يُسْتَبَى بِاسْمِهِ

ان کے علو قدر اور عظمت کے اکرام کے طور پر چاہیے کہ جنت میں داخل ہو جائے جو موسوم ہے ان کے نام نامی سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ قَبْلُ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جس نے ان کے نام کا بوسہ لیا

إِسْمُهُ فِي كِتَابٍ رَفَعَهُ عَنْهُ الْعَذَابُ يَا اللَّهُ إِذَا اسْتَغْفَرَ آدَمُ بِحَقِّهِ فَغُفِرَتْ لَهُ

کتاب میں تو اس سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اے اللہ جب آدم نے مغفرت طلب کی ان کے توسل سے تو تو نے انہیں بخش دیا

فَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لَا يَعْزِمُنَا وَعَمَلْنَا وَوَقَفْنَا لِلْمُزِيغِينَ

پس ہم سے بھی درگزر فرما اور ہمیں بخش اور رحم فرما نہ ساتھ ہمارے علم و عمل کے۔ اور ہمیں توفیق دے اپنے پسندیدہ امور کی اور

عَلَى دِينِكَ وَعَلَى طَاعَتِكَ بِخَيْرِ الْخَيْرِينَ بِكُلِّ قَوْلٍ نَفَعْنَا وَحَالِنَا حَقَّهُ

تھا بت رکھ اپنے دین اور طاعت پر بظیفیل بہترین خلائق کے ہمارے ہر قول و فعل اور حال میں بحق محمد اور

بِحَقِّ حَلْبِهِ وَأِحْسَانِهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَانَا وَأَنَا عَبْدُكَ عَاجِزٌ بِالْفِعْلِ

بظیفیل ان کے علم و احسان کے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی ہمارا مولیٰ ہے اور میں عاجز بندہ ہوں فعل و

الْقُوَّةِ بِذَاتِنَا وَصِفَاتِنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالجَائِرِينَ

قوت میں باعتبار اپنی ذات و صفات کے پس ہمیں مدد دے کافروں۔ ظالموں۔ جاہلوں۔

وَالجَائِرِينَ وَالتَّكْبِرِينَ وَالجَاهِلِينَ وَعَلَى كُلِّ حَاسِدٍ مِنْ كُلِّ مَعَادٍ

اہل جور اور متکبر و جاہل قوم پر اور تمام اہل حسد و اہل عناد پر بظیفیل تمام

بِحُرْمَةِ جَمِيعِ الْمُقْبُولِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَ

مقبولین انبیاء و مرسلین اور صالحین کے اگرچہ ہم میں

لَنَا قَابِلِيَّةٌ بِأَدَاءِ الدُّعَاءِ الْمُقْبُولِ لَكِنْ أَنْتَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْإِجَابَةِ الْكَامِلَةِ

قابلیت نہیں ہے مقبول دعا کی ادائیگی کی لیکن تو مالک ہے توفیق کا اور کامل اجابت کا

تَقَبَّلْنَا بِحُرْمَةِ وَعِزَّةِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَبِحُرْمَةِ وَعِزَّةِ جَمِيعِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

پس ہمیں قبولیت بخش اپنے حبیب محمد کی حرمت و عزت کے طفیل اور ان کے مقبول آل و اصحاب اور

اتِّبَاعِهِ الْمُقْبُولِينَ الْأَقْبَلِينَ بِاجْتِبَائِكَ الْكَرِيمِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اتباع کی حرمت و عزت کے طفیل جو مقبول ترین ہیں تیرے اجتباء کریم کے سبب۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ لِأَجَلِهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے لیے اللہ نے سیاح ملائکہ پیدا فرمائے ہیں ہمیشہ زیارت کرنے

مَدَّ الْأَبْدَانَ لِزِيَارَةِ كُلِّ دَارٍ فِيهَا اسْمُهُ أَحْمَدٌ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے لیے اس مکان کی جس میں احمد و محمد نام والا شخص ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَبْنائِنا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اِقْتَعَدَ غَارِبَ الْجُوْدِ مِنْ مَّكَامِنِهِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو متمکن ہوئے جو درونوال کی گردن پر اس کے خفیہ ٹھکانے

وَحَزَائِنِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَبْنائِنا مُحَمَّدٍ الْخُصُوْصِ

اور محزون سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو مختص ہیں

بِالْقَسْمِ بِهٖ عَلٰى مَوْلَاہٖ دُوْنَ مَخْلُوْقٍ سِوَاہٖ اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ وَالْاَجْسَادِ

قسم کے ساتھ اپنے مولیٰ کی طرف سے بغیر دوسرے انسانوں کے۔ اے اللہ۔ اے مالک ارواح اور بوسیدہ

الْبَالِيَةِ اَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْاَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ اِلٰى اَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْاَجْسَادِ

اجسام کے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطیفیل اطاعت ان ارواح کے جو اپنے اجسام کی طرف لوٹنے والے ہیں اور بطیفیل ان

الْمَلْتَمِيَةِ بِعُرُوْقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيْهِمْ وَاخِذْكَ الْحَقُّ مِنْهُمْ وَالْخَلْلُ

اجسام کی اطاعت کے جو اپنی رگوں سے ملنے والے ہیں اور بطیفیل تیرے کلمات کے جو ان میں موثر ہیں اور بطیفیل تیرے ان سے حق وصول کرنے

بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُوْنَ فَصَلِّ قَضَائِكَ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُوْنَ عِقَابَكَ

جب کہ خلائق تیرے سامنے تیری قضاء و فیصلہ کے منتظر ہوتے تیری رحمت کے امیدوار اور تیرے عذاب سے خوفزدہ ہونے

اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِيْ بَصْرِيْ وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلٰى لِسَانِيْ وَعَمَلًا صَالِحًا

کہ پیدا کرے نور میری نگاہ میں اور اپنا ذکر شب و روز میری زبان پر جاری کرے اور عمل صالح

فَارْزُقْنِيْ اَللّٰهُمَّ اَفْرِدْنِيْ لِمَا خَلَقْتَنِيْ وَلَا تُشْغَلْنِيْ بِمَا تَكَلَّمْتَنِيْ بِهٖ وَلَا

نصیب فرمائے۔ اے اللہ مجھے یکسوئی بخش مقصد تخلیق کے لیے اور مجھے مشغول نہ فرما ان امور میں جن کا تو کفیل

تَحْرِمْنِيْ وَاَنَا اَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِيْ وَاَنَا اَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِيْ وَاَنَا اَسْتَغْفِرُكَ

ہر چکا اور محروم نہ رکھ حالانکہ میں تجھی سے سوال کرتا ہوں۔ اور مجھے عذاب نہ دینا جبکہ میں تجھی سے

اَللّٰهُمَّ اَحْيِ قَلْبِيْ وَاَمِتْ نَفْسِيْ حَتّٰى اَحْيَا بِكَ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

جبکہ میں تجھی سے استغفار کرتا ہوں۔ اے اللہ میرا دل زندہ فرما اور میرا نفس مازتا کہ میں تیرے طفیل حیات طیبہ حاصل کر لوں دنیا و آخرت

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَبْنائِنا

میں بیشک تو ہر شئی ہر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ رَفْرَفِ الْأَصْطَفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِدْرَةِ الْإِنْتِهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَبَسِ الْعَالَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَدْرِ الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَجْمِ الْهُدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرِ الْكُونَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلِيكَ الْأَقْدَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الْكَرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِكَ الْأَقْوَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ اللَّهُمَّ لَيْسَ أَنْتَ بِغَائِبٍ نَنْتَظِرُكَ وَاللَّهِ

آپ کی آل پر جو تیرے امر کو قائم رکھنے والے عید ہیں۔ اے اللہ تو غائب نہیں کہ ہم انتظار کریں اور غافل نہیں

تَذِكْرُهُ وَلَا يَنْتَهِرُ عَجْمَهُ وَلَا يَعْاجِزُ نَهْجُهُ يَا تَوَّابُ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَى مَنْ

کہ یاد دہانی کرائیں۔ اور سویا ہوا نہیں کہ اٹھائیں اور عاجز نہیں کہ چھوڑ دیں اے تواب تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے

تَابَ وَالْمُقَرَّبُ لِمَنْ أَنْابَ وَأَنْتَ الَّذِي بَسَطْتَ نُورَ كَرَمِكَ عَلَى قُلُوبِ الطَّلَبِ

اہل توبہ کی اور قربت بخشے والا ہے اہل انابت کو اور تو نے ہی اپنے نور کرم کو اہل طلب کے قلوب پر پھیلا دیا

وَأَنْتَ الَّذِي أَحْيَيْتَ أَرْوَاحَ أَهْلِ الرُّوحِ وَطَابَ حَتَّى رَجَعُوا إِلَيْكَ وَهَادُوا

تو نے ہی ذی روحوں کے روحوں کو زندگی بخشی اور پاکیزگی دی حتیٰ کہ وہ تیری طرف لوٹے اور ماہل ہوئے

إِلَيْكَ بِسَرَائِرِهِمْ وَنَابُوا إِلَيْكَ بِقُلُوبِهِمْ وَمَالُوا إِلَيْكَ بِظَوَاهِرِهِمْ مِنْكَ

اپنے سرائر کے ساتھ اور نابت ہوئے تیری طرف اپنے قلوب کے ساتھ اور راغب ہوئے اپنے اجسام کے ساتھ

الْخَوْفِ وَالْتَّائِبُ وَإِلَيْكَ مَا لُ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ التَّوْبَةِ

تیری طرف سے ہی خوف اور تقویت ہے اور تیری طرف ہی بازگشت ہے قریب و بےید کی میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

وَضِيَاءِ الْأَدْمَةِ وَكَمَالِ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ أَنْ تَرُنُقُنِي الْإِيَابَ إِلَيْكَ سِرًّا

اے اللہ بظیفیل نور توبہ اور رجوع الی اللہ کی ضیاء کے اور کمال رافت و رحمت کے کہ مجھے عطا کرے اپنی طرف رجوع خفیہ اور

جَهْرًا وَالْوُقُوفَ لَدَيْكَ حَكِيمًا وَأَمْرًا وَاحْفَظْنِي مِنْ كَرَمِكَ حَتَّى لَا أَنْقَهَرُ إِلَى

اور علانیہ اور اپنے ہاں ٹھہرنا از روئے حکم و امر کے اور محفوظ فرما مجھے اپنے کرم کے ساتھ تاکہ نہ واپس لوٹوں

بِحَالِ التَّفْرِقَةِ عِقَابًا وَقَهْرًا وَاجْبُرْنِي بِنُظْرَةِ مَتْنِكَ لِأَنَّا لَسِرِّ قَوْلِكَ سَيَجْعَلُ

مقام تفرقہ کی طرف از روئے عقاب و قہر کے اور میری کوتاہی دور فرما اپنی نظر کرم سے تاکہ میں پاؤں تیرے اس قول کا راز حقیقت

اللَّهُ بَعْدَ عَسْرِ سُرٍّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبِرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ

عنقریب پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد سہولت۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رضا کا بعد قضا کے اور پسندیدہ

الْمَوْتِ وَوَلَدَةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضْرَّةٍ وَ

گزران کا بعد موت کے اور تیری ذات کی طرف نظر کی لذت کا اور تیرا شوق لقاء بغیر کسی ضرر رساں امر کے

لَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ سِقِّ الْيَبَانَ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا يَغْنِينَا وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا

اور گمراہ کن فتنہ کے۔ اے اللہ چلا ہماری طرف اپنی رحمت سے جو ہمیں بے نیاز کر دے اور نازل فرما ہم پر

مِنْ بَرَكَاتِكَ مَا يُكْفِينَا وَادْفَعْ عَنَّا مِنْ يَدَائِكَ مَا يُبْلِيْنَا وَالْمُسْتَأْنَسِينَ

اپنی برکات سے جو ہمیں کفایت کریں۔ اور دور کر ہم سے اپنی بلیات کو جو ہمیں بوسیدہ کر دیں اور ہمیں المام فرما

الصَّالِحِ مَا يَنْجِينَا وَجَتِّنَا مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ مَا يُرْدِينَا وَأَفْضُ عَلَيْنَا مِنْ

عمل صالح کا جو ہمیں نجات دلائے۔ اور دور فرما ہمیں اس برے عمل سے جو ہلاکت میں ڈالے۔ اور ہم پر فیضان فرما

نُورٍ هَدَايَتِكَ مَا يَقْرِبُنَا مِنْ مَحَبَّتِكَ وَيُدْنِينَا وَادْفَعْ عَنَّا مِنْ مَقْتِكَ مَا

اپنے نور ہدایت سے جو ہمیں تیری محبت کے قریب و نزدیک کر دے اور دور فرما ہم سے اپنی ناراضگی جو

يُؤْذِينَا وَأَقْذِفْ فِي قُلُوبِنَا مِنْ نُورٍ مَعْرِفَتِكَ مَا يُحْيِينَا وَأَرْضُقْنَا مِنْ

ہمیں ایذا دے اور ڈال دے ہمارے دلوں میں اپنے نور معرفت سے جو ہمیں زندگی بخشنے اور عطا کر ہمیں

الْيَقِينِ مَا يُثَبِّتُ بِهِ أَفْئِدَتُنَا وَيُشْفِينَا وَعَافِنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِنْ كُلِّ مَآ

اتنا یقین کہ ثبات رکھے اس کے ساتھ ہمارے قلوب اور ہمیں شفا و عافیت دے ظاہر و باطن کے لحاظ سے جملہ عوارض

فِينَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ

سے جو ہم میں ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو آخری نبی

وَصَادِقِ الْوَعْدِ الْأَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سچے وعدہ والے اور امین ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الشَّفِيعِ الْكَرِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو قیامت کے دن شفیع کریم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعِزِّ الشَّامِخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو ہمالہ صفت عزت والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الْمَجْدِ الْبَازِجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پر جو کہ نمایاں بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد

النُّورِ الظَّاهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو بلند و بالا نور ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

محمد پر جو سراپا واضح

لَا أُضِرُّ إِلَهِي حَسَنَاتِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْهَا لَوْ هَبَّتْكَ أَيَّاهَا وَأَنَا عَبْدُكَ فَكَيْفَ

حق ہیں۔ اے اللہ میری نیکیاں باوجود میری ان کی طرف محتاجی کے میں نے تجھے پیش کر دیں حالانکہ میں تیرا بندہ ہوں پس

لَمْ تَهَبْ لِي سَيِّئَاتِي مَعَ غِنَاكَ عَنْهَا وَأَنْتَ رَبِّي إِلَهِي أَمَرْتَنَا أَنْ لَا نُرَدُّ

کیسے نہ تجھنے گا میری خاطر میری برائیاں باوجود بے نیازی کے حالانکہ تو میرا رب ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ مساکین کو اپنے

الْمَسَاكِينَ عَنْ أَبْوَابِنَا وَنَحْنُ مَسَاكِينُكَ فَلَا تَرُدَّنَا عَنْ بَابِكَ يَا كَرِيمُ

دروازوں سے نہ ٹھکراؤ اور ہم تیرے مساکین ہیں لہذا تو بھی ہمیں نہ ٹھکرانا اپنے در اقدس سے اے کریم

وَأَمَرْتَنَا أَنْ نَتَصَدَّقَ عَلَى فَقْرَائِنَا وَنَحْنُ فَقْرَائِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَ

اور تو نے حکم دیا کہ ہم فقراء پر صدقہ کریں اور ہم تیرے فقیر ہیں لہذا تو ہمیں صدقہ و خیرات دے اور

أَمَرْتَنَا أَنْ نَعْتِقَ مَنْ شَابَ فِي مِلْكِنَا فَأَعْتَقْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَحِيمُ وَ

تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بوڑھے مملوک کو آزاد کر دیں پس تو بھی ہمیں آزاد فرما اے رحیم۔ اور

أَمَرْتَنَا أَنْ نَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمْنَا وَقَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَأَعْفُ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ

تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم درگزر کریں ظلم کرنے والوں سے اور ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے پس ہم سے درگزر

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَرَفْتُ رَجَائِي إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَأَحْسَنْتَ

فرما اپنی رحمت کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں نے اپنی امید کو تیری ذات کریم کی طرف متوجہ کیا اور اچھا کیا ہے

ظَنِّي فِي عَفْوِكَ الْعَظِيمِ فَأَرْحَمِي وَأَرْحَمِ وَالِدِي وَإِخْوَانِي وَالْمُنْتَسِبِينَ

اپنا گمان تیری عظیم عفو میں پس مجھ پر رحم فرما اور میرے والدین اور بھائیوں اور میرے اہل نسبت پر

إِلَى وَارِضْ عَنِّي وَعَنِ الْمُنْعِمِينَ عَلَيَّ وَلَا تَصْرِفْ رَجَائِي عَنْ وَجْهِكَ

اور مجھ سے راضی ہو اور مجھ پر انعام کرنے والوں سے اور میری امید کو اپنی ذات کریم سے

الْكَرِيمِ خَائِبًا وَلَا تَجْعَلْ حُسْنَ ظَنِّي فِي عَفْوِكَ الْعَظِيمِ كَاذِبًا إِلَهِي كَيْفَ

نامراد نہ لوٹانا اور میرے حسن ظن کو اپنی عفو عظیم کے متعلق جھوٹا نہ بنانا۔ اے میرے الہ میں کیسے

أَصْدُرُ عَنْ بَابِكَ حَائِبًا وَقَدْ وَرَدْتُكَ عَلَى ثِقَةٍ وَكَيْفَ تُوَسِّنِي مِنْ عَطَائِكَ

لوٹوں نامراد تیرے در اقدس سے جبکہ میں پر وارد ہوا ہوں وثوق کے ساتھ۔ اور تو کیسے مایوس فرمایگا اپنی عطا سے

وَقَدْ أَمَرْتَنِي بِدُعَائِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِيهَا

جبکہ تو نے ہی مجھے حکم دیا ہے دعا کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری مخصوص رحمت کا جس کے طفیل

قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أُمْرِي وَتَلْمُ بِهَا شَعْتِي وَتُصَلِّحُ بِهَا دِينِي وَتَقْنِي بِهَا

میرے دل کو ہدایت دے اور امور کو جمعیت اور پراگندگی کی اصلاح فرمائے اور حاجات پوری فرما دے

حَاجَتِي وَتَحْفَظْ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعْ بِهَا شَاهِدِي وَتَبَيِّضْ بِهَا وَجْهِي

اور حفاظت فرمائے میرے غائب کی اور بلندی بخشنے میرے حاضر کو اور روشن کرے بسبب اس کے میرے چہرے کو

وَتَزَكِّيَّ بِهَا عَمَلِي وَتُدْهِمْنِي بِهَا رَشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتَى وَتَعْصِمْنِي بِهَا

اور پاکیزہ فرمائے عمل کو اور الھام فرمائے رشد و بھلائی کا اور لوٹائے میری الفت کو اور بچائے مجھے ہر

مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَتَغْفِرْ لِي بِهَا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ

برائی سے اور بخشنے میرا ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ۔ اے اللہ اے رب

إِرْحَمُ مَنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَكْوَانُ وَلَمْ تُؤْنِسِ الثَّقَلَانِ وَقَدْ أَصْبَحَ

رحم فرما اس پر جس پر جہان تنگ ہو گئے اور جن و انس اس سے مانوس نہ ہوئے اور وہ صبح

وَأَمْسَى مُوَلِّهَا حَيْرَانَ وَأَضْحَى غَرِيبًا وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَانِ

و شام سرگردان و حیران ہے اور غریب الوطن ہو چکا اگرچہ بظاہر اہل و تعارب اور وطنوں

مَنْزَعًا لَا يَأْوِيهِ مَكَانٌ قَلَقًا لَا يُلْهِمِيهِ عَنْ بَيْتِهِ وَحُزْنًا تَغَيَّرَ الْأَرْمَانُ

میں ہے۔ بے قرار ہے کوئی مکان اسے جگہ نہیں دیتا۔ مضطرب ہے اسے ملاں و حزن سے غافل نہیں کرتا

مُسْتَوْحِشًا لَا يَأْنِسُ قَلْبُهُ بِأَنْسٍ وَلَا جَانٌّ رَبِّ هَلْ فِي الْوُجُودِ رَبٌّ

زمانوں کا تغیر و وحشت زدہ ہے نہیں انس گیر ہونا اس کا دل کسی انسان و جن کے ساتھ ہے میرے رب کیا تیرے سوا کوئی رب

سِوَاكَ فَيَدْعِي أَمْرًا فِي الْمَمْلَكَةِ إِلَهًا غَيْرَكَ فَيُرْجَى أَمْرَهُلْ كَرِيمٌ غَيْرَكَ

موجود ہے؟ تاکہ اسے پکارا جائے یا مملکت میں تیرے علاوہ کوئی الہ ہے تاکہ اس سے امید رکھی جائے یا کوئی کریم

فَيُطَلَبُ مِنْهُ الْعَطَا أَمْ هَلْ تَجْرُؤَادُ سِوَاكَ فَيَسْأَلُ مِنْهُ الْفَضْلُ وَالنِّعْمَاتُ

تیرے علاوہ ہے جس سے عطا کی طلب کی جائے یا تیرے علاوہ کوئی صاحبِ جود ہے جس سے انعام و فضل کا رواں کیا جائے

أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَيَرْفَعُ إِلَيْهِ الشُّكُورَى ثُمَّ يَحَالُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ عَلَيْهِ

یا تیرے علاوہ کوئی حاکم ہے جس کے پاس شکایت کی جائے پھر عبد فقیر کو اس کے حوالے کیا جائے

أَمْ هَلْ ثَمَّ مَنْ تَبْسُطُ الْأَكْفُ وَتُرْفَعُ الْحَاجَاتُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا

یا کہیں کوئی ہے کہ دست سوال اس کے سامنے پھیلائے جائیں اور حاجات پیش کی جائیں پس نہیں ہے ہمارے لیے

كَرْمِكَ وَجُودِكَ يَا مَنْ لَا مَدْجًا إِلَّا إِلَيْهِ يَا مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

مگر صرف تیرا کرم اور جود۔ اے کہ نہیں ہے جائے پناہ مگر طرف اسی کے۔ اے کہ جو پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ

أَهَاهُنَا كَرِيمٌ غَيْرُكَ فَيَرْجِي أَمْ مَنْ سِوَاكَ جَوَادًا فَيَسْئَلُ مِنْهُ الْعَطَا

نہیں دی جاتی۔ کیا یہاں تیرے سوا کوئی کریم ہے تاکہ اس سے امید کی جائے یا تیرے علاوہ کوئی صاحب جود ہے جس سے عطا کا

رَبِّ قَدْ جَفَانِي الْجَبِيْبُ وَمَلِكِي الطَّيِّبُ وَشِمْتِي بِي الْعَدُوِّ وَالْقَرِيبُ

سوال کیا جائے۔ اے میرے رب مجھ پر دوستوں نے جفا کی اور طیبیوں نے ملال ظاہر کیا اور میرا دشمن اور قریبی میری وجہ سے

وَأَشْتَدُّ بِي الْكُرْبُ وَالنَّجِيبُ وَأَنْتَ الْوَدُودُ الْقَرِيبُ الرَّءُوفُ الْمَجِيبُ

خوش ہوا۔ اور سخت ہو گیا میرا اندوہ اور نالہ و فریاد۔ اور تو ہی بہت محبت والا قریب مہربان اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے

رَبِّ إِلَى مَنْ أَشْكُو أَحَالَتِي وَأَنْتَ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ أَمْ مِنْ أَسْتَنْصِرُ

اے میرے رب میں کس کے سامنے اپنی شکایت حال کروں حالانکہ تو علیم و قادر ہے یا میں کس سے نصرت طلب کروں

وَأَنْتَ الْوَلِيُّ النَّاصِرُ أَمْ مِنْ أَسْتَعِيْثُ وَأَنْتَ الْوَلِيُّ النَّاْظِرُ أَمْ إِلَى مَنْ

جبکہ تو ولی و ناصر ہے۔ یا میں کس سے فریادرسی کی اپیل کروں جبکہ تو ولی و ناظر ہے۔ یا میں کس کی پناہ

الْتَجِيْ وَأَنْتَ الْكَرِيْمُ السَّاتِرُ أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي يُجْبِرُ كَسْرِي قَلْبِي وَأَنْتَ

ڈھونڈوں جبکہ تو کریم و پردہ پوش ہے یا کون ہے وہ جو میرے ٹوٹے دل کو جوڑے جبکہ تو ہی ہے

لِلْقُلُوْبِ جَابِرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ٹوٹے دل جوڑنے والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ جُودِ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو صاحب جود و کرم ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّوْرِ الْأَوْفَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جو بزرگ نور ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعِزِّ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر جو مجسم عزت اور عظیم ترین ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ رَحَى النَّبِيِّينَ وَنُقْطَةِ

محمد و آل محمد پر جو انبیاء کی چکی کے قطب اور

دَائِرَةِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ مَنْ ذَا الَّذِي يُغْفِرُ عَظِيمَ ذُنُوبِي وَأَنْتَ

مرسلین کے دائرہ کا مرکزی نقطہ ہیں۔ اے اللہ کون ہے جو میرے عظیم گناہوں کو بخشتے جبکہ تو

الرَّحِيمُ الْغَافِرُ يَا عَالِمُ بِمَا فِي السَّرَائِرِ فَاعْلَمْ أَنَّهٗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

رحیم۔ بخشتے والا ہے۔ اے حقیقت امور کے جاننے والے۔ پس یقین رکھو کہ نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ

وَاسْتُغْفِرْ لِدُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ

اور استغفار کیجئے اپنے لیے اور مومنین و مومنات کے گناہوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ

يَعْلَمُ مَتَقَلِّبُكُمْ وَمَثُوبُكُمْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

جانتا ہے تمہارے محل گردش کو اور محل قرار کو۔ وہ اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

مگر وہی۔ جاننے والا ہے غیب اور شہادت کا۔ وہی

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

رحمن رحیم ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

فرما دیجئے وہ اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے جنم کسی کو اور نہ وہ جنم کیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں ہے کوئی اس کے مثیل و مشابہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین نامان سے امتا قرآن ہل

ایر و عثمان تحفہ عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ اللہ
مقبول یا رکشاہ کونین حضرت پیر محمد سید اللہ
مُسَمَّیٰ بِهِ

مجموعۃ الرسائل

الجزء العشرون ۲۰

فِ حَبِيبِهِ وَفَحْبُوبِيَّتِهِ ﷺ

از تصنیف و تالیف حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

حضرت خواجہ نور جگان محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُبِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِمَحَبَّةِ بِسْمِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محبت کے اور بظیفیل بسم اللہ

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِبِلَاغَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

الرحمن الرحیم کی حب کے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلاغت کے اور

بِفَصَاحَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِرَاحَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فصاحت کے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی

الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لِكَ یَوْمَ

راحت کے۔ تمام حمدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ یوم حسراء کا

الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں راہ راست پر چلا۔

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ان کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ حَقِّ عِزَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتُمْ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اعزاز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم

تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّكُمْ اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِیْ مَا اَحْبَبْتُ اَحَدًا اِلَّا بَتَوْسُطِ حُبِّكَ اِیَّاهُ فَاِنَّهُ الْمَحْبُوْبُ الْمَرْضِیُّ

کہ نہیں محبت کی تو نے کسی شخص سے مگر ان سے اپنی محبت کے طفیل کیونکہ وہی اصل محبوب و پسندیدہ

الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْمَحْبُوْبِیْنَ ۝ وَاَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَنِیْ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَفَقْرٍ

اور مقصود ہیں تیرے تمام محبوبین میں سے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بنائے مجھے بغیر کسی علت اور فقر

وَفَاقَةٍ فِي إِتْبَاعِ شَرِيعَتِكَ الْجَامِعَةِ الْمَحْمَدِيَّةِ الْأَكْبَلِيَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّي

وفاقہ کے اپنی شریعت کا متبع جو کہ جامع و اکمل محمدی شریعت ہے۔ اے اللہ میں

أَصِلُّ عَلَى حَبِيبِكَ وَالْمَحَبِّ إِذَا رَأَى أَحَدًا يُصَلِّي عَلَى حَبِيبِهِ يَرْحَمُهُ

صلوۃ بھیجتا ہوں تیرے حبیب پر اور محبت جب کسی کو اپنے حبیب پر صلوۃ بھیجتے دیکھے تو اس پر رحم

عَلَيْهِ وَيَجْعَلُهُ فَائِزًا بِمَقْصُودِهِ فَارْحَمْنِي وَهَبْ لِي سُؤْلِي وَاغْفِرْ لِي

کرتا ہے اور اسے مقصود میں کامیاب کرتا ہے پس تو بھی مجھ پر رحم فرما اور مجھے میرا مقصود عطا فرما اور مجھے بخش

وَلِلْمُنْتَسِبِينَ إِلَيَّ وَأَقْضِ حَاجَتِي وَحَاجَةَ كُلِّ مَنْ انْتَسَبَ إِلَيَّ بِحُرْمَةِ

اور میرے تمام اہل نسبت کو اور میری حاجات پوری فرما اور میرے تمام اہل نسبت کی ہر حاجت کو بظہیر محمد

مُحَمَّدٍ وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَجَاهِهِ وَقَبُولِهِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ

کریم کی حرمت و عزت اور شرف و جاہ اور مقبولیت کے اپنے ہاں۔ اے اللہ پیدا فرما حُب

مُحَمَّدٍ فِي بَدَنِي وَفِي رُوحِي وَفِي نَفْسِي وَفِي جَسَدِي وَفِي رَأْسِي وَفِي

محمدی میرے بدن و روح اور نفس و جسم میں اور میرے سر اور

عَيْنِي وَفِي بَصَرِي وَفِي أُنْفِي وَفِي سَمْعِي وَفِي فَمِي وَلِسَانِي وَفِي شَفْتِي

آنکھوں اور نگاہوں اور ناک۔ کانوں اور منہ و زبان اور ہونٹوں میں

وَفِي شَامَتِي وَفِي جِبْهَتِي وَفِي وَجْهِي وَفِي جِلْدِي وَفِي لَحْيِي وَفِي دُمِي

اور سونگھنے کی قوت میں اور پیشانی اور چہرہ میں میری جلد۔ گوشت۔ خون۔

وَفِي عَظْمِي وَفِي عَصَبِي وَفِي جَبِيحِ اجْزَائِي وَفِي أَعْضَائِي وَفِي كُلِّ وَ

ہڈیوں اور اعصاب اور تمام اجزاء اور اعضاء میں اور

فِي صَدْرِي وَفِي قَلْبِي حُبًّا خَاشِعًا خَاضِعًا بِحِطِّ حُطُوطِ الْهُومِ جَبِيحِ

میرے تمام وجود اور سینہ و قلب میں ایسی محبت جو خشوع و خضوع والی ہو تیری ذات بخت نصیب کامل پانے والی ہو

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ فِي حُبِّكَ وَإِتِّبَاعِكَ

تمام مومنین و مومنات کے۔ اے اللہ مجھے بنا دے عمر دراز والا اپنی محبت اور اتباع حبیب میں

تمام مومنین و مومنات کے۔ اے اللہ مجھے بنا دے عمر دراز والا اپنی محبت اور اتباع حبیب میں

بِصَدَقَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کے صدقہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الْمَقْصُودِ الْمَحْبُوبِ فِي الْكُلِّ وَمِنَ الْكُلِّ فِي عَالَمِ الْإِنْسَانِي الْكَمَالِي

جو مقصود و محبوب ہیں سب میں اور سب سے تمام کامل عالم انسانی میں

اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنْ أَمْرَاضِ الْكُونَيْنِ وَقَوِّنِي عَنْ ضَعْفِ الدَّارَيْنِ

اے اللہ مجھے تمام موجودات کی بیماریوں سے شفا بخش۔ اور مجھے تقویت بخش دو توں جہان میں ضعف و ناتوانی سے

بِحُرْمَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَقَبُولِهِ وَشَرَفِهِ عِنْدَكَ وَصَحِّحْنِي وَثَبِّتْنِي عَلَى

بطفیل ان کی حرمت و عزت اور قبولیت و شرف کے اپنے ہاں اور میری درستگی فرما اور ثبات رکھ محمدی

الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَكْبَلِيَّةِ الْاَنْوَرِيَّةِ الْاَجْمَعِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ

روشن و کامل تر شریعت پر جو بہت نورانی اور جامع ترین ہے اور حقیقت

الْحَقِيقِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ الْعَارِفِيَّةِ الْعُرْفَانِيَّةِ وَثَبِّتْنِي عَلَى السُّنَّةِ السَّيْنِيَّةِ

واقعیہ اور معرفت کاملہ اکلہ اور مجھے ثبات قدم رکھ عالی شان سنت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَعْدِنِ اَنْوَارِكَ وَمُخْزَنِ اَسْرَارِكَ وَمَحَلِّ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے انوار کی معدن و مکان پر اور اسرار کے خزانہ اور عنایات

عَنَائِيَّتِكَ وَتَجَلِّيَاتِكَ وَسَعَادَاتِكَ وَظُهُورَاتِكَ مُحَمَّدِ الَّذِي لَانُورِ

و تجلیات اور سعادات و ظہورات کے محل و مرکز محمد پر کہ نہیں کوئی نور

الْاَهُوَ لَا ظُهُورًا اِلَّا هُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَيْنِ مُحَمَّدٍ وَبَصْرِهِ فِي الْبَصَائِرِ

مگر وہی اور نہیں کوئی ظہور مگر انہیں کا اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد کریم کی چشم روشن اور نگاہ بصیرت پر تمام

الثَّاقِبَةِ وَعَلَى قَلْبِهِ فِي الْقُلُوبِ الْجَلِيَّةِ وَعَلَى شَهْبِهِ فِي النَّفْحَاتِ الْغَيْبِيَّةِ

روشن بصیرتوں میں اور آپ کے قلب نور پر روشن قلوب میں اور ان کے سونگھنے پر غیبی قدسی

الْقُدْسِيَّةِ وَعَلَى ذَوْقِهِ فِي الْاَذْوَاقِ الْاِلَهِيَّةِ وَالتَّجَلِّيَاتِ الذَّوْقِيَّةِ وَتَوَجَّهْ

قدسی خوشبوؤں کو اور ان کے چکھنے پر الہی افواق میں اور ذوقی تجلیات میں اور انہیں کی طرف توجہ کرنا

إِلَيْهِ كُلُّ مُتَوَجِّهِ وَيُجِبُهُ كُلُّ مُجِيبٍ وَيُسْتَشْفَى مِنْهُ وَبِهِ كُلُّ مَرِيضٍ

ہے ہر توجہ والا۔ اور انہیں سے محبت رکھتا ہے ہر محب اور انہیں سے اور ان کے طفیل شفا پاتا ہے ہر

جَسَدِيٍّ أَوْ رُوحِيٍّ أَوْ قَلْبِيٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَيِّمِ مُحَمَّدٍ الْبَحِيْطِ

جسمانی۔ روحانی اور قلبی مرض والا۔ اے اللہ درود و سلام ہو محمد کی میم پر جو محیط ہے اپنی پائیدار

بِعَيْتِهِ الْمَتَّبِعَةِ لِسَائِرِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَيَّنَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَيْنِ وَعَلَى

بعیت کے ساتھ تمام معلومات کو جو متعین ہیں علم میں اور نگاہ میں اور محمد کی

حَاةِ مُحَمَّدٍ الْحَاوِي لِكُلِّ الْحَقَائِقِ بِسِرِّ حَيَاتِهِ الْحَقِيَّةِ الْحَقِيَّةِ الْحَسْبِيَّةِ

حائے پر جو حاوی ہے تمام حقائق کو ان کی حیات واقعیہ حقیقیہ

الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَيِّمِ مُحَمَّدٍ الْمَاحِي لِلْأَمْرَاضِ وَ

کافیہ شافیہ کے رمز و باطن کے ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج محمد کے میم پر جو امراض و آفات کو

الْأَفَاتِ عَنِ الْوَاحِدِ وَجُودَاتِ الْبَحِيْثِينَ الْمَخْلِصِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مٹانے والا ہے مجھوں مخلصوں کے وجود و شخص کی تختیوں سے۔ اے اللہ درود و سلام بھیج

عَلَى دَالِ مُحَمَّدٍ الدَّالِ دَلَالَةَ قَطْعِيَّةٍ لِّضَلَالَةِ دَلَائِلِنَا الْعُقْلِيَّةِ الْعَمِيَاءِ

محمد کی دال پر جو قطعی دلالت کرنے والی ہے ہمارے اپنے عقلی بے بصیرت دلائل کی ضلالت سے

لِدِينِ الْإِسْلَامِ الرَّبَّانِيِّ الْمَثَانِيِّ مُحَمَّدِيٍّ الْأَكْمَلِيِّ اللَّهُمَّ أَقْبِنِي فِي مَقَامِ

طرف دین اسلام کے جو رب منان کا دین ہے اور محمد اکمل کا دین ہے۔ اے اللہ مجھے قائم فرما مقام

التَّوَكُّلِ وَالرِّضَاءِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا وَالْحُبِّ الْحَقِيْقِيِّ الْمُرْتَضَى الْمُخْتَصِّ

توکل و رضا میں دنیا اور اہل دنیا سے اور حب حقیقی کے مقام میں جو پسندیدہ تر اور مختص ہے

بِمَقَامِ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وَالْمَخْصُوصِ بِالْوَحْدَةِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ

قاب قوسین اوانی کے مقام سے اور مخصوص ہے ساتھ وحدت کبریٰ کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِدُنُكِرِكَ وَعَدَدِ ذِكْرِكَ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جیسے کہ انہیں انتہا تیرے ذکر اور اس کے اعداد کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَآيَةَ لِحُبِّكَ

اے اللہ بے حد درود و صلوات بھیج سیدنا محمد و آل محمد پر جیسے کہ نہیں حد تیری محبت

وَعَدَدِ حُبِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا

اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ بیحد صلوات بھیج سیدنا محمد و آل محمد پر جیسے کہ نہیں

نَهَآيَةَ لِحُبِّهِ وَعَدَدِ حُبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حد ان کی محبت اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ بیحد صلوات نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَآيَةَ لِمَحَبَّتِكَ وَعَدَدِ مَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جیسے کہ نہیں حد تیری محبت اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَآيَةَ لِمَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَسَلَامًا

و آل محمد پر جیسے کہ نہیں حد ان کی محبت اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے دائمی ایمان اور

بَاقِيًا وَاحْسَانًا مُسْتَمِرًّا وَالْجَوَارِحَ مَحْفُوظَةً وَالسُّلُوكَ عَلَى طَرِيقِكَ وَعَمَلًا

پائیدار اسلام کا اور ہمیشہ کے احسان کا اور محفوظ اعضاء کا اور اپنے راہ پر چلانے کا، عمل مقبول

مَقْبُولًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلسَانًا ذَاكِرًا وَعَيْنًا دَامِعًا وَخَدًّا رَطْبًا فِي حُبِّكَ وَ

اور خشوع والے قلب کا۔ ذکر والی زبان اور رونے والی آنکھ کا اور اپنی محبت اور

حُبِّ حَبِيبِكَ وَالْوُقُوفَ عَلَى حُدُودِكَ وَالتَّوْفِيقَ لِطَاعَتِكَ وَالنَّجَاةَ مِنْ

حبیب کی محبت سے تروتازہ زحسار کا اور تیری قائم کردہ حدود پر ٹھہرنے کا اور تیری اطاعت کی توفیق اور موت و حیات کے

فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسَوَالِهِ وَالسَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

فتنہ سے نجات کا اور قبر اور اس کے سوال کے فتنہ سے نجات کا اور دین و دنیا

وَالْآخِرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُحَاسِبَنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَأَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي

اور آخرت میں سلامتی کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے آسان حساب لینا اور مجھے میرا نامہ اعمال

بِيَمِينِي وَأَنْ تُبَيِّضَ وَجْهِي وَأَنْ تُرْجِحَ مِيزَانِي بِفَضْلِكَ وَأَنْ تُحْشِرَنِي

دائیں ہاتھ میں دنیا۔ میرے چہرے کو روشن کرنا اور میرے میزان کو اپنے فضل سے وزنی کرنا اور مجھے اپنے حبیب کی

فِي زُمْرَةِ حَبِيبِكَ وَتَحْتَ لِيَاكِهِ وَخَاصَّتِهِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ

جماعت میں اور ان کے پرچم تلے اور خواص میں اٹھاتا اور مجھے جنت میں داخل فرمانا

بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِ مَحَبَّتِهِ وَرِضَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَأَخْصِيَاءِهِ بِرِضَاكَ وَرِضَا

ان کی شفاعت کے ساتھ مع تمام اہل محبت اور اہل رضا اور ان کے اولیاء و خواص کے ساتھ اپنی رضا اور ان کی رضا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ وَ

کے۔ صلی اللہ علیہ و آلہ اجمعین۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

بَارِكْ عَلَىٰ هَذَا الْحَبِيبِ الْمَحِبِّ الْمَحْبُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

پر اور سلامتی و برکت نازل فرما اس حبیب اور محب و محبوب پر۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد

أَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ هَذَا الصِّفِيِّ الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ أَسْأَلُكَ أَنْ

و آل محمد پر اور سلامتی و برکت نازل فرما اس مصفیٰ طالب و مطلوب پر۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

تُعْطِيَنِي كِمَالَ حُبِّهِ إِلَىٰ خُلُوصِ ذَاتِكَ وَأَكْمَلَ الشُّوقِ السَّرِيِّ إِلَىٰ لِقَائِكَ دَائِمًا

کہ مجھے عطا فرمائے ان کی محبت کاملہ مع اپنے اخلاص ذات کے اور شوق باطنی کامل کے طرف اپنی لقاء کے جو دائمی

أَبَدًا لَا مُنْقَطِعًا لَهَا إِذَا سَأَلْتُكَ مُحِبُّ بِاسْمِ مَحْبُوبٍ مُّحِبِّ وَلَهُ قُوَّةٌ إِعْطَاهَا

ابدی ہو اور ختم ہونے والا نہ ہو۔ اے میرے اللہ جب کوئی محب سوال کرے کسی محب سے اس کے محبوب کے نام سے اور وہ

فَلْيُعْطِيَهُ وَحَمْدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَتَّبِعُنِي لِكِمَالِهِ مِنْكَ وَمِنْ جَمِيعِ

دینے پر قادر ہو تو ضرور دیتا ہے اور محمد ان پر صلوٰۃ و سلام ہو جیسے کہ لائق ہے ان کے کمال کے تیری طرف سے اور تیرے تمام

عِبَادِكَ مُحِبِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِهِ فَأَعْطِنِي مَا أَسْأَلُكَ

عباد کی طرف سے تیرے محب و حبیب اور رسول ہیں میں ان کے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں لہذا مجھے میرا مطلوب عطا

وَاقْضِ حَاجَاتِي كُلَّهَا إِيْمَانًا دَائِمًا وَيَقِينًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ

کر اور میری تمام حاجات پوری فرما۔ مجھے ایمان دائم اور یقین صادق جس کے بعد کفر نہ ہو بظہن محمد کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ كَمَا يَتَّبِعُنِي لِكِمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ عِبَادِكَ وَكَيْفَ لَمْ تَغْفِرْ لَهُ

جیسے اللہ ان پر درود اور سلام جیسے کہ لائق ہے ان کی شان کے اپنی طرف سے اور تمام عباد کی طرف سے اور کیسے نہ بخشے گا

وَلَمْ تَرْضَ عَنْهُ وَأَنْتَ قُلْتَ فِي شَانِ حَبِيبِكَ مِنْ لَدُنِّ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ

اور راضی نہ ہو گا ان سے حالانکہ تو نے فرمایا ہے اپنے حبیب کی شان میں کہ عرش سے لے کر زمینوں کی

الْأَرْضِينَ كُلَّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَائَكَ يَا مُحَمَّدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا

تہ تک سبھی میری رضا طلب کرتے ہیں اور اے محمد میں تیری رضا طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے حمد ہے کہ نہیں

انْقِضَاءَ لَهُ فِي كُلِّ إِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ لَا انْتِهَاءَ لَهُ لِمَوْجُودِيَّةٍ وَجُودِنَا وَكُلِّ

اختتام اس کے لیے اس کے تمام احسانات و انعامات میں۔ نہیں انتہاء اس کے لیے ہماری موجودگی تک اور اس کے

تَوَابِعِ وَجُودِنَا لِجَمِيعِ الْحَالَاتِ لِاقْتِضَاءِ حُضُورِهِ وَحُصُولِ وَازْدِيَادِ مَرَاتِبِ

تمام توابع کی موجودگی تک تمام حالات میں واسطے طلب حضور و حصول کے اور زائد ہونے مراتب

الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ

ایمان و اسلام کے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو

خَيْرِ الْمَحْبُوبِينَ وَخَيْرِ الْمَحْبُوبِينَ أَنْ تُنْظِرَنِي بَعَيْنِ الْحُبِّ وَتُحِبَّنِي حُبًّا كَامِلًا

سب محبوبوں اور محبوبوں سے بہتر و برتر ہیں کہ مجھ پر نگاہ محبت فرمائے اور مجھے محبوب بنائے محبت کاملہ کے ساتھ

شَامِلًا لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَتُصَحِّحَنِي وَتُقَوِّبِنِي لِلْمَحَبَّةِ الْحَقِيقَةِ وَتُزِيلَ عَنِّي

جو ظاہر و باطن کو شامل ہو اور مجھے صحت بخشنے اور سچی محبت کی طاقت بخشنے اور مجھ سے ہجر و فراق کی

أَمْرَاضَ الْهَجْرَةِ وَأَوْ مِنْ مِنَ الْحَرَارَةِ الْفُرْقَةِ وَالْبُرُودَةِ الْوَصْلَةِ بِحَرْمَتِهِ

امراض زائل کرے اور میں امن میں رہوں فرقت کی حرارت سے اور وصل کی برودت سے بطفیل حرمت

رَحْمَةً نَاشِئَةً مِنْ مَحْضِ فَضْلِكَ دُونَ عَمَلِ مَتَّبِعِي بِتَمَيُّنٍ حَاصِلٍ مِنْ

حبیب کے از روئے رحمت کے جو پیدا ہونے والی ہو تیرے خالص فضل سے بغیر میرے عمل کے ساتھ اس تمنا کے جو حاصل

عَيْنِ لُطْفِكَ دُونَ سَبَبٍ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِكَ اللَّهُمَّ لَوْ جَعَلْتَ لِأَحَدٍ مِّنْ

تیرے عین لطف سے بغیر کسی دوسرے کے واسطے کے۔ اے اللہ اگر تو بنائے کس کے لیے اپنی محبت اور

أَسْبَابِ رِضَائِكَ وَحُبِّهِ فَهَذَا مِنْ عَيْنِ لُطْفِكَ دُونَ سَبَبٍ فَأَنْتَ الْمَسْبُوبُ

ان کی محبت و رضا کے اسباب تو یہ تیرا عین لطف ہے بغیر کسی سبب کے کیونکہ تو ہی اسباب

وَالْأَسْبَابُ مِنْكَ وَهِيَ أَسْبَابُ حُبِّكَ وَحُبِّ حَبِيبِكَ وَكَتْسَابُ حَبِيبِكَ وَ

بنانے والا ہے اور وہ تجھ سے ہی ہیں اور یہ اسباب ہیں تیری حب کے اور تیرے حبیب کی حب کے اور حصول و کسب ہے تیری
 حُبِّهِ فَحُبُّوكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ حَبِيبِكَ

محبت اور تیرے محبوب کی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صلوٰۃ بھیجے گا اپنے مخصوص حبیب
 الصَّفِيِّ الرَّضِيِّ الْمَرْضِيِّ الْمَالِكِ مُخْتَارِكَ مُصْطَفَاكَ مُحَمَّدِ الْهَادِي لِلدِّينِ

پر جو چیتے ہوئے، پسندیدہ، مالک اور تیرے مختار و مصطفیٰ محمد ہیں جو دین قدیم
 الْقَدِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الْمَوْصِلِ لِلطَّالِبِينَ إِلَى مَطْلُوبِهِمْ وَالسَّالِكِينَ

اور صراط مستقیم کی طرف ہادی ہیں، جو طالبین کو ان کے مطالب تک اور سالکین کو ان
 إِلَى مَقْصُودِهِمْ أَقْوَى الدَّلَائِلِ وَأَعْلَى الْوَسَائِلِ وَالتُّورِ الشَّرِيفِ الْمُبْضِيِّ

کے مقاصد تک پہنچانے والے ہیں۔ قوی ترین دلیل ہیں اور اعلیٰ ترین وسیلہ اور بزرگ نور جو تمام
 لِلْعَالَمِينَ وَالْجَوْهَرِ اللَّطِيفِ الْمُنُورِ بِالْهُدَايَةِ لِلْغَافِلِينَ وَهُوَ الْمُنِيرُ الْإِتْمِ

جہانوں کو ضیاء بخشتے والے ہیں۔ اور پاکیزہ جوہر ہیں جو غافلوں کو ہدایت سے منور کرنے والے ہیں اور وہی منظر اتم
 الْأَكْمَلِ لِالطَّافِكَ وَعِنَايَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ حَسْبَ عَظَمَةِ

واکمل ہیں تیرے الطاف و عنایات کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد کریم پر ان کی عالی مرتبت
 حَقِيقَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَبَعْدَ صُورِكَ الْعِلْمِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْكُونِيَّةِ وَبَعْدَ

حقیقت کی عظمت کے مطابق اور اپنی پیدا کردہ علمی الٰہی اور کونی صورتوں کے مطابق اور اپنے پیدا کردہ
 أَرْوَاحِكَ اللَّطِيفَةِ الْمَجْرَدَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالتَّفْسِيَّةِ وَبَعْدَ الصُّورِ الْمَثَالِيَةِ

ارواح لطیفہ مجرودہ عقلیہ و تفسیہ کی مقدار۔ اور صور مثالیہ
 الْمُبْتَغَى وَالْمَقِيدَةِ وَبَعْدَ صُورِ الْأَجْسَامِ الْحَسِّيَّةِ الشَّهَادِيَّةِ وَأَحْوَالِهَا

مبتغی اور مقیدہ کی تعداد کے مطابق۔ اور اجسام محسوسہ شہودہ کی صورتوں اور ان کے احوال و
 أَعْرَاضِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَا وَجَدَ وَ

اعراض کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو موجود ہو چکی ہیں

سَيُوجَدُ اللَّهُمَّ اشْفِيْ وَصَحِّحْنِيْ وَقَوِّئِيْ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ

اور جوہوں کی۔ اے اللہ مجھے شفا و تندرستی اور تقویت بخش اور مجھے طویل العمر بنا اپنی

حُبِّكَ وَاتِّبَاعِهِ بِحُرْمَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَبِشَرَفِهِ وَبِقَبُولِهِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ

محبت میں اور محبوب کی اتباع میں بطفیل ان کی حرمت و عزت اور شرف و قبولیت کے اپنے ہاں۔ اے اللہ

أَجِبْ وَلَا تَرُدَّنِيْ فَإِنْ رُدَّتْ فَمَنْ لِّيْ أَسْأَلُهُ سِوَاكَ وَمَنْ لِّيْ سِوَاكَ

قبول فرما اور رد نہ فرما پس اگر تو رد کرے تو کون ہے میرا تیرے سوا جس سے میں سوال کروں اور کون ہے میرا سوال ان کے

أَتَوْسَلُ بِهِ اللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ حُبًّا بِحُبِّ حُبِّ الْحَقِّيِّ وَبِحُبِّ حَقِيْقَةِ

جسے وسیلہ بناؤں۔ اے اللہ مجھے عطا فرما محبت بطفیل حب حقی کے اور حقیقت

الْمُحَمَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَلْبِيْ وَفِيْ سِرِّيْ وَفِيْ حَالِيْ وَفِيْ

محمدیہ کی حب کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اور سر و باطن میں اور حال و

خِيَالِيْ بِحُرْمَةِ حُبِّكَ وَحُبِّ حَبِيْبِكَ وَحُبِّ مَحْبُوْبِكَ وَحُبِّ حَبِيْبِكَ

خیال میں بطفیل اپنی حب اور اپنے حبیب و محبوب کی حب اور اپنے حبیب ہونے کی

وَحُبِّ مَحْبُوْبِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَحْبُوْبِ الْمَقْدَّسِ عَنْ أَنْ

اور محبوبیت کی حب کی حرمت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے محبوب پر جو پاک ہیں اس سے کہ کوئی

يُّحِبُّهُ أَحَدًا أَوْ يَعْرِفُهُ أَحَدًا كَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ الْعَزِيْزِ الْأَعْلَى إِلَّا أَنْتَ

ان سے محبت کرے یا ان کی معرفت حاصل کرے جیسے کہ لائق ہے ان کی شان عزیز و اعلیٰ کے سوائے تیرے

فَهُوَ خَاصُّكَ وَمَخْصُوْصُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ يَّتَبَسَّكُ

کیونکہ وہ تیرے خاص اور مخصوص ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ان پر جن کے حلقے سے

بَعْرُوْتِهِ كُلُّ طَالِبٍ صَادِقٍ وَيَتَشَبَّثُ بِذَيْلِهِ كُلُّ مُحِبِّ هَآئِمٍ مُحَمَّدِيْنَ

چنگل مارتا ہے ہر طالب صادق اور ان کے دامن سے والیستہ ہوتا ہے ہر حیرت زدہ محب یعنی محمد پر

الدَّلِيْلُ الْقَاطِعُ وَالْبُرْهَانُ السَّاطِعُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ

جو وسیلہ قاطع اور برہان غالب ہیں اور ان کے سب آل و اصحاب اور اتباع پر۔

كَافَّةَ اللَّهُمَّ اَمْلًا بِنُورِ مَحَبَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ اللَّهُمَّ اِنَّا نُصَلِّيُ عَلَيْكَ

اے اللہ بھروسے میرے دل کو ان کی محبت اور معرفت کے نور سے۔ اے اللہ ہم ان پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں

فَاِنَّهُ فَحْبُوبُكَ وَالْمُحِبُّ اِذَا رَاى اَحَدًا يُصَلِّيُ عَلٰى مَحْبُوْبِهِ وَيَدْعُوْ

کیونکہ وہ تیرے محبوب ہیں اور محب جب کسی کو اپنے محبوب پر صلوٰۃ بھیجتے اور ان کے لیے دعا کرتے دیکھے

لَهُ فَآئِنَهُ يَرْحَمُ عَلَيْهِ وَيَجْعَلُهُ فَاِزًا بِمَقْصُوْدِهِ وَعَلٰى اَتْبَاعِهِ بِقَبُوْلِهِ

تو اس پر رحم کرتا ہے اور اسے مقصد میں کامیاب کرتا ہے اور ان کے اتباع پر واسطے ان کی قبولیت

وَمَحَبَّتِهِ فِى مَحَبَّتِكَ وَهُوَ مَحْبُوْبُكَ فَلَا يُدْرِيْ مِنْ الرَّجَاءِ الْقَوِيْ

و محبت کے بسبب تیری محبت کے جبکہ وہ تیرے محبوب ہیں تو لازم ہے میرے لیے قوی

الْقَطْعِيْ فِيمَا تُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ اللَّهُمَّ اِنْ ذَاتَكَ

و قطعی امید اس میں جو تو پسند کرے اور وہ پسند کریں اور جس پر تو راضی ہو اور وہ راضی ہوں۔ اے اللہ تیری ذات

سُرْمِدِيَّةٌ وَّاسْمَاءُ ذَاتِكَ سُرْمِدِيَّةٌ لَا حُدُوْثَ فِيْهَا وَلَا تَجَدُّوْ

اور صفات ذات اور اسماء ذات سرمدی ہیں ان میں نہ حدوث و تجدد ہے اور

لَا تَكْتُرُ فِيْهَا وَلَا تَعْدُدُ فَكَيْفَ يَدْرِكُكَ مَنْ هُوَ فِى عَيْنِ الْحُدُوْثِ

نہ تنگتر و تعدد تو تیرا احاطہ کس طرح کر سکتا ہے جو عین حدوث (تخلیق کا محتاج) ہے

دَائِمًا وَّفِى مَحْضِ التَّجَدُّدِ ثَابِتًا اللَّهُمَّ تَبَسُّنِيْ عَلٰى شَرِيْعَتِكَ الْخَيْرِ

ہمیشہ اور محض تغیر میں ہے۔ اے اللہ مجھے ثابت رکھ اپنی شریعت پر جو

الْمَحْبُوْدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ وَطَرِيْقَتِكَ الْمُوْصِلَةَ اِلَى الْمَقَامِ الْاَحْدَى التَّوْحِيْدِيَّةِ

نورانی۔ محمدی۔ کامل ترین ہے اور اپنی طریقت پر جو مقام احدی توحیدی تک پہنچانے والی ہے

بِحُرْمَتِهِ وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَقَبُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اِنِّيْ

بظیفیل ان کی حرمت و عزت اور شرف و قبولیت کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں

اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَقَبْلَتِنَا حَبِيْبِكَ الصَّفِيْحِ الرَّضِيِّ الرَّضِيِّ

سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ صلوٰۃ بھیجے ہمارے سید و قبلہ اپنے حبیب، صفی، رضی، رضی

الْمَالِكِ مُخْتَارِكَ مُصْطَفَى مُحَمَّدٍ الْهَادِي لِلدِّينِ الْقَدِيمِ وَالصِّرَاطِ

مالک اور مختار و مصطفیٰ محمد پر جو ہادی ہیں دین قدیم اور صراط

الْمُسْتَقِيمِ الْمَوْصِلِ لِلظَّالِمِينَ إِلَى طَلِبِهِمْ وَالسَّالِكِينَ إِلَى مَقْصُودِهِمْ

مستقیم کے، پہنچانے والے ہیں اہل طلب کو ان کے مطالب تک اور اہل سلوک کو ان کے مقاصد تک

أَقْوَى الدَّلَائِلِ وَأَعْلَى الْوَسَائِلِ وَالنُّورِ الشَّرِيفِ الْمُنِيِّ لِلْعَالَمِينَ

جو قوی ترین دلیل۔ اعلیٰ ترین۔ وسیلہ اور بزرگ نور ہیں جو سب جہان کے لیے ضیاء بخش

وَالْجَوْهَرِ اللَّطِيفِ الْمُنَوَّرِ بِالْهُدَايَةِ لِلْغُفْلِينَ وَهُوَ الْمُنْظَرُ الْآتِمُّ الْأَكْمَلُ

اور جو پر لطیف ہیں جو غافلوں کو ہدایت سے متور کرنے والے ہیں اور وہ منظر اتم و اکمل ہیں

لَا لَطَافَكَ وَعِنَايَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ مَا وَجَدَ

تیرے لطافت و عنایات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو موجود ہو

وَسَيُوجَدُ اللَّهُمَّ أَقْبَلُ عَذْرِي وَتَقْبَلُ تَوْبَتِي وَتُبَّ عَلَيَّ بِالْعِنَايَةِ

جیسا اور جو موجود ہوں گی۔ اے اللہ میرا عذر قبول فرما اور توبہ قبول کر اور مجھ پر عنایت خاصہ کی

الْخَاصَّةِ بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نظر فرما اپنے حبیب کے صدقہ میں جن کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ يَا بَنَ آدَمَ إِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى

سیدنا محمد پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا۔ اے ابن آدم جب اللہ تعالیٰ

قَدْ يَكْفُلُ لَكَ بِالرِّزْقِ فَطُولُ اهْتِمَامِكَ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ مِنِّي

تیرے رزق کا ضامن ہو چکا تو تیرے طویل اہتمام کی ضرورت کیا ہے اور جب تخلیق مجھ سے ہونا

حَقًّا فَالْبُخْلُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ ابْلِيسُ عَدُوًّا فَالْعُقْدَةُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ

برحق ہے تو پھر بخل کس لیے اور جب ابلیس دشمن ہے تو پھر اس سے عقبت کیوں کر۔ اور جب

الْحِسَابُ وَالْمَرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ حَقًّا فَالْجَمْعُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ عِقَابُ

محاسبہ اور پل صراط پر گذرنا برحق ہے تو پھر جمع کرنے کا باعث کیا، اور جب اللہ کا عتاب

اللّٰهُ تَعَالَى حَقًّا لِمَعْصِيَةٍ لِّمَاذَا وَإِذَا كَانَ ثَوَابُ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ حَقًّا

برحق ہے تو پھر معصیت کس لیے۔ اور جب جنت میں اللہ کا ثواب برحق ہے۔

فَالِاسْتِرَاحَةُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَائِي وَقَدَرِي فَالْجَزْءُ لِمَاذَا

تو پھر سستی کس لیے ہے؟ اور جب ہر شئی میری قضاء و تقدیر سے ہے تو پھر بے صبری

لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کس لیے؟ تاکہ نہ افسوس کرو اس پر جو تم سے فوت ہوا اور نہ خوشی متاؤ اس پر جو تمہیں دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ يَا بْنَ آدَمَ أَكْثَرُ مِنَ الزَّادِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا "اے ابن آدم زیادہ زاد سفر جمع کر

فَإِنَّ الطَّرِيقَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ وَجِدَادِ السَّفِينَةِ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ عَمِيقٌ وَ

کیونکہ راستہ بہت طویل ہے۔ اور نئی کشتی بنا کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے اور

خَفِيفُ الْحَمْلِ فَإِنَّ الصِّرَاطَ دَقِيقٌ دَقِيقٌ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ

بوجھ ہلکا کر کیونکہ راستہ بہت ہی باریک ہے۔ اور عمل کو خالص کر کیوں کہ

التَّاقِدَ بِصَيْرٍ بِصَيْرٍ وَأَخْرِنُوكَ إِلَى الْقَبْرِ وَفَرَحَكَ إِلَى الْمِيزَانِ

اس کو پر کھنے والا بہت ہی بصیرت والا ہے۔ اور موخر کر اپنی نیند کو قبر تک اور فرحت کو میزان تک

وَشَهْوَتِكَ إِلَى الْجَنَّةِ وَرَاحَتِكَ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَذَاتِكَ إِلَى الْحُورِ الْعِينِ

اور خواہشات کو جنت تک اور استراحت کو آخرت تک اور لذات کو حور عین تک۔ تو

وَكُنْ لِي أَكُنْ لَكَ وَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِهَجْرِ الدُّنْيَا وَتَبَعْدُ مِنَ النَّارِ بِبُغْضِ

میرا ہو جا میں تیرا بن جاؤں گا۔ تو میرے قریب ہو جا دنیا کو چھوڑ کر اور دور ہو جا آتش دوزخ سے بدکاروں

الْفَجَّارِ وَحِبِّ الْأَبْرَارِ فَكَذَلِكَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى

سے بغض اور ابرار سے محبت کے ذریعے۔ تو ایسے ہی تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے مگر عبادت پر صبر کے

الْعِبَادَةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ وَأَطْلُبُوا رِضَائِي بِرِضَاءِ الْمَسَاكِينِ

ساتھ پس میرے قریب ہو جاؤ توافل کے ذریعے اور میری رضا طلب کرو مساکین کی رضامندی سے

فَإِنْ رَضَانِي لَا يُفَارِقُكُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیونکہ میری رضا ان سے جدا نہیں ہوتی بلکہ چھپکنے کی دیر بھی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةٌ عَبْدٌ يَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

درود اس عبد کا جو نجات کا امیدوار ہو اس کی بدولت جس دن اس زمین کو دوسری زمین میں بدلا جائے گا اور آسمانوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ عَبْدٌ يَتَّقِي بِهَا شَرَّ عِقَابِ يَوْمٍ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچنے اس کی بدولت شرعی عقیبے سے جس دن

يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاةَ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ

دیکھے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر مانند درود اس

عَبْدٌ يَسْتَعِينُ بِهَا مِنَ النَّارِ وَحَسْبِيسِهَا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ عَنْ

عبد کے جو اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے دوزخ کی آگ اور اس کی آواز سے جس دن ہر نفس صرف اپنی ذات کا

نَفْسِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ عَبْدٌ يَخْشَى الْعَذَابَ

دفاع کرتا ہوا آئے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو خوفزدہ ہو عذاب شدید سے

الشَّدِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ اللَّهُمَّ

جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی ہے؛ تو وہ کہے گی ہیں کچھ مزید۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ عَبْدٌ يَسْتَعِدُّهَا ذَخْرًا يَوْمَ تُجَدُّ كُلُّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر مانند صلوٰۃ اس عبد کے جو تیار کرے اس کی بدولت ذخیرہ جس دن پائیگا

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ

ہر نفس اپنے عمل خیر کو حاضر کیا ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس

عَبْدٌ يَحْتَمِي بِهَا وَيَسْتَعِينُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

عبد کی جو اس کی بدولت حمایت اور اعانت حاصل کرے۔ جس دن کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ عَبْدٌ يَرْجُو بِهَا الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو امید رکھتا ہو اس کی بدولت امان کی جس دن نہ سوال کیا جائیگا اپنے

إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عِيدًا يَخْشَى

گناہ سے کوئی انسان اور نہ جن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو ڈرتا ہوا اپنے مولیٰ

عَقُوبَةً مَوْلَاهُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا إِلَّا مَرِيئًا لِلَّهِ اللَّهُمَّ

کی عقوبت سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی ادنیٰ چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا اور امر تمنا متر اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عِيدًا يَوْمَ جَاهَهُ وَمَوْضِعَهُ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو قصد کرے ان کے جاہ اور مقام کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عِيدًا يَسْتَشْفِعُ بِهَا إِلَى الْخَلْقِ يَوْمَ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو شفاعت حاصل کرے بارگاہِ خلاق میں جس دن

يَكْشَفُ عَنْ سَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عِيدًا يَتَّقَى بِهَا

پروردہ ہٹایا تجلی جلال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو اس کی بدولت

الْأَسَايُومِ عِيدًا يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا

بچے رنج و ملال سے اس دن پیچھے چلیں گے بلانے والے کے بغیر کجی کے اور لپیت ہو جائیں گی آوازیں رحمن کے لیے پس نہ

تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عِيدًا يَرْجُو لَدَيْهِ

سنو کے مگر دھیمی آواز۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو آرزو مند ہے ان کے

مَقِيلًا يَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاوَاتُ بِالْغَيْمِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ

ہاں رجوع کا جس دن پھٹ پڑے گا آسمان بادلوں کے ساتھ اور ملائکہ اتارے جائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عِيدًا يَرْتَجِيهِ يَوْمَ يَفْرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو ان سے امیدوار ہے جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی

وَأُمَّهُ وَآبِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عِيدًا يَرْجُو بِهَا

مان اور باپ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو امید رکھے اس کی

السَّلَامَةَ يَوْمَ الْحُسْرَى وَالنَّدَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بدولت سلامتی کی حسرت اور ندامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَدْفَعُ بِهَا الْعَذَابَ وَالْعِقَابَ يَوْمَ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ اس عبد کی بطفیل اس کے دور کرے تو اس سے دور کرے تو اس سے عذاب و عقاب کو پھینکی اور حساب دن

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَتَّقِي بِهَا مَا يَخَافُ وَيَحْذَرُ يَوْمَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو بطفیل اس کے بچاؤ حاصل کرے خوفناک اور قابل

الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى

پر ہمیز امور سے بڑی گھبراہٹ کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو خوفزدہ ہو

الْغَلَاطِ الشَّدَادِ يَوْمَ الْمَعَادِ يَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سخت مزاج ملائکہ سے قیامت کے دن جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا فَرَحًا قَرِيبًا يَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوُلْدَانَ

سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو امیدوار ہو اس کی بددلت قریبی فرحت کا اس دن میں جو بچوں کو

شَيْبًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى عَظِيمَ

بوزہا بنادے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو خوفزدہ ہو عظیم

الْكِبَاءِ يَوْمَ الْاِرْزَاقِ اِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کبار سے قیامت کے دن جبکہ دل حلقوم کے قریب آچکے ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا التَّعَاوُنَ يَوْمَ الْجُمُعِ وَالتَّغَابُنِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر صلوٰۃ ایسے عبد کی جو امید رکھے اس کی بددلت تعاون کی اجتماع اور خسارے کے دن میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ تَلُوذُ بِهِ نَفْسُهُ الْخَائِفَةُ يَوْمَ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی کہ پناہ حاصل کرے ساتھ ان کے خوفزدہ و نفس اس کا جس دن

تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کانپنے گی کانپنے والی اور اس کے پیچھے آئے گی آنے والی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَسْتَوْجِدُ بِهَا الْحَبِيبَ يَوْمَ يَنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ اس عبد کی جو طلب کرے اس کی بددلت وجود حبیب کا جس دن نداء دے گا منادی قریب مکان سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ عِيدٌ يَسْتَعِينُ مِنَ الْجَدِيمِ وَالطَّنِينِ

درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو پناہ کا طالب ہو ایلنے پانی اور زرداب سے

يَوْمَ يَنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِيْ قَالُوا اذْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

جس دن پکارے گا انہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں میرے مفروضہ شریک کہیں گے ہم نے بتلا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ان پر شاہد نہیں

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ عِيدٌ يَرْجُو بِهَا رَوْحًا وَفَارِحِيًّا يَوْمَ تَكُوْنُ

ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو اس کی بدولت امیدوار ہو روف و رحیم سے جس دن ہوگا

السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيْمًا اَللّٰهُمَّ

آسمان مانند پگھلے تانبے کے اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند اور نہیں پوچھے گا کوئی قلبی دوست کسی دوست کو

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ عِيدٌ يَرْتَجِيْ بِهَا مَوْلًا كَرِيْمًا يَوْمًا

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امیدوار ہو اس کی بدولت مولائے کریم سے اس دن میں

عَبُو سَاقِطٍ رِيْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ عِيدٌ يَرْتَجِيْ

جو شدید شتر والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امید رکھے

بِهَاطِلًا ظَلِيْلًا يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَلِيْتَنِيْ اَنْتَ خَدْتُ

بطفیل اس کے کھٹے سائے کی جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ کہے گا اے کاش میں پکھڑتا

مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا يَا وَيْلَتَا لِيْتُنِيْ لِمَ اَتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيْلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

رسول اللہ کے ساتھ راستہ لے میری بربادی۔ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اے اللہ درود و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ عِيدٌ يَتَّقِيْ بِهَا شَرَّ التَّدَامَةِ فِيْ عَرَصَاتِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچے بطفیل اس کے شر تدامت سے میدان

الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ عِيدٌ يَخْشَى النَّارَ وَ

قیامت میں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو ڈرتا ہے آتش دوزخ اور

شَرَّ اَرْضِهَا يَوْمَ تُحَدِّثُ الْاَرْضُ اَخْبَارَهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کے شراروں سے جس دن زمین اپنی خبریں بتلائے گی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر

درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدِ يَلُوذٍ بِهَا يَوْمَ النَّشُورِ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي

درود اس عبد کا جو پناہ حاصل کرے ساتھ اس کے یوم نشور میں جب کہ جمع کئے جائیں گے قبروں والے اور دلوں کے بھید

الصَّدُورِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدِ يَتَّقِي بِهَا بَخْسًا

معلوم کئے جائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچے بسبب اس کے خسائے

إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رُجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سے جبکہ لرزے گی زمین پوری قوت سے۔ اور پہاڑ نرمی سے چلائے جائیں گے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ حَامِيَةٍ لَهُ مَانِعَةٌ يَجِدُهَا يَوْمَ الصَّاحَةِ وَالْوَاقِعَةِ

محمد پر درود اس عبد کا جو پائے اسے محافظ و نگران بہرہ کرنے والی اور واقع ہونے والی (قیامت) کے دن میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَتَّقِي بِهَا سُوءَ الْبَحَاظِرِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچاؤ حاصل کرے بطفیل اس کے برے اعمال اور

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ تَهْدِيهِ

جس دن باطنی امور کی آزمائش ہوگی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا کہ ہدایت دے تو ایسے

سَبِيلًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتُسْتَجَبُونَ بِحُدَيْدَةٍ وَتُظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

راہ کی جس دن بلائے گا تمہیں پس قبول کرو گے دعوت اس کی حمد کرتے ہوئے اور گمان کرو گے کہ نہیں ٹھہرے مگر نفیل وقت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَتَّقِي بِهَا الضَّرَاءَ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچے بسبب اس کے ضرر سے

إِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ

جبکہ آئے بہت بڑی ہلاکت۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود

عَبْدٍ لِبِجَاهِهِ يَسْعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اس عبد کا جو ان کے عز و جاہ کے طفیل سعی کرے گا جس دن یاد کرے گا ہر انسان جو اس نے عمل کیا۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا جَزِيلَ الثَّوَابِ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ

سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امیدوار ہو بطفیل اس کے عظیم ثواب کا جس دن ہم پھیلانے آسمانوں کو مانند پیٹے جانے

السَّجِلِ لِلْكِتَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ عِبَادِيكَ

کتب کی جلد بندی والے چڑے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو حاصل کرے

بِهَا الْمَطْلُوبُ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ

بطفیل اس کے اپنا مطلب جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا وہ کہیں گے ہمیں معلوم

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ

نہیں کیونکہ تو تمام غیب کا کامل علم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود

عَبْدِي رَجُوبِهَا أَفْضَلُ الْجَزَاءِ يَوْمَ الْعِقَابِ وَالْجَزَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس عبد کا جو امید دار ہو بسبب اس کے افضل جزا کا عتاب و جزا کے دن۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ عِبْدِي رَجُوبِهَا الْقَبُولِ وَالرِّضَا يَوْمَ الْفِصْلِ وَ

سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امید دار ہو بطفیل اس کے قبولیت و رضا کا فیصلہ و

الْقَضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ عِبْدِي يَتَّقِي بِهَا الرِّدَى

قضاء کے دن۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچاؤ حاصل کرے ہلاکت بطفیل

يَوْمَ تُخْشَرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقَ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ

اس کے جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمن کی طرف بطور وفد کے اور مجرمین کو ہانپیں گے جہنم کی طرف

وَرَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ عِبْدِي يَسْتَعِينُ بِهَا

وارد ہونے کے لیے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو پناہ حاصل کرے بطفیل اس

مِنَ النَّارِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ

کے آگ سے جس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گی ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور

الدَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ عِبْدِي رَجُوبِهَا الشَّفَاعَةَ

برامکان۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امید دار ہو بسبب اس کے

يَوْمَ تَقُومُ زُلْزَلَةُ السَّاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ

شفاعت کا جس دن قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ

عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا أَجْرًا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

اس عبد کی جو امید وار ہو بطفیل اس کے اجر کا جس دن آسمان تیز چلے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَبْدٌ يَنْجُو بِهَا يَوْمَ الدِّينِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو نجات پائے بطفیل اس کے قیامت

يَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَحْبَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے دن جس دن اللہ انہیں نداء دے کر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَبْدٌ يَنْجُو بِهَا مِنَ الْاَهْوَالِ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ

سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو نجات پائے بسبب اس کے ہولناکیوں سے جس دن لرزے گی زمین

وَالْجِبَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَبْدٌ يَسْتَفِثُ بِهَا

اور پہاڑ۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو طالب امداد ہو بطفیل اس

مِنَ الْعَوْصِ فِي الْعَرَقِ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کے پسینہ میں عرق ہونے سے جس دن نہیں گئے چیخ کو ساتھ حق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَبْدٌ يَسْتَوْجِبُ بِهَا رِضَى الْمَعْبُودِ فِي الْيَوْمِ

سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو مستحق ہو بطفیل اس کے رضائے معبود کا یوم

الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

موعود میں اور آپہنچنے والے دن اور شاہد کئے ہوئے دن میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر درود

عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا انْتِفَاعًا يَوْمَ تَشَقُّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سَرَّاءً اللَّهُمَّ صَلِّ

اس عبد کا جو نفع کی امید رکھے اس سے جس دن پھٹ جائے گی (قبر کی) زمین لوگوں پر سے جلدی میں۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَبْدٌ يَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْوَعِيدِ يَوْمَ تَأْتِي

سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو نجات پائے بسبب اس کے وعید کے دن جس روز

كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر نفس اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ہوگا ہائکتے والا اور گواہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَنْجُو بِهَا مِنَ الشُّيُورِ يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْتُونَ

صلوة اس عبد کی جو نجات پائے بسبب اس کے احوال متغیرہ سے جس دن نہیں بولیں گے اور نہ انہیں اذہن دیا جائے گا

فِي عِتْرَةِ رُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ تَقْبَلُ

کہ مندرت کریں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا کہ قبول ہوں

بِهَالِهِ الْأَعْدَاءُ وَتُغْفِرُ لَهُ بِهَا الْأَوْزَارِ يَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

اس کے عذر اور سختے جائیں اس کے گناہ بظہیر اس کے جس دن پیش کئے جائیں گے کفر کرنے والے آگ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا الْحَكِيمُ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امیدوار ہو بظہیر اس کے حکیم

الْكَرِيمِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللَّهُمَّ

وکریم سے جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے مگر جو آئے بارگاہ خداوندی میں قلب سلیم کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى النَّارَ وَهَوْلَهَا يَوْمَ

درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو خوفزدہ ہو آگ اور اس کی ہولناکیوں سے جس دن

تَدَاهُلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

غافل ہو جائے گی ہر شیردہ شیر خوار سے اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا الْوَفَا

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امیدوار وفا ہو

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس دن کھڑے ہوں گے روح اعظم اور ملائکہ صف بستہ۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى الْأُمُورَ الْمُخْفِيَةَ يَوْمَ نَشْرُ الصَّحِيفَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

درود اس عبد کا جو خوفزدہ ہو امور مخفیہ سے صحائف اعمال کھولے جانے کے دن۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى نَقْعًا يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو خوفزدہ ہو رو سیاہی سے جس دن دیکھے جائیں گے لوگ آتش

جَهَنَّمَ دَعَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَبْدِي تَقِي بِهَا

دوزخ کی طرف۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچاؤ حاصل کرے گا بسبب اس

عَذَابِ الْهُونِ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

کے رسوائی والے عذاب سے جس دن نہ فائدہ دے گا کوئی دوست کسی دوست کو زور بھرا اور نہ ہی وہ مدد پائیں گے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَبْدِي لَيْسَ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا کہ جسے سوائے ان کے نہ کسی کا

إِسْتِنَادٌ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ اِعْتِمَادٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سہارا ہے اور نہ کسی پر اعتماد۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الْهَامُورِ بِقَوْلِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

جو مامور ہیں ملک عزیز وہاب کے اس قول کے ساتھ۔ فرما دیجئے وہی میرا رب ہے نہیں معبود برحق مگر وہی اسی پر

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف ہے میرا رجوع۔ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما۔

كَثِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ

کثیراً۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں پاک فرمائے

الدُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

ذنوب و سیئات سے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَالدرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بلند فرمائے ہمیں اعلیٰ مقامات اور درجات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقِيْنَا بِهَا مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّذَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے خوف و ہلاکت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شِمَاتِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے دشمنوں کی شادمانی سے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل جمع فرمائے ہمیں انبیاء و صدیقین

وَالشَّهَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَشْفِي لَنَا بِهَا أَرْضَانَا

اور شہداء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوة و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل شفا دے تو ہمیں امراض سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَوِّرُ بِهَا أَبْصَارَنَا اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل منور فرمائے تو ہماری آنکھوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتُرُنَا بِهَا عَوْرَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

صلوة و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل پردہ ڈالے ہمارے عیوب پر۔ اے اللہ صلوة و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا فِي أَهْلِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ہماری حفاظت فرمائے ہمارے اہل اور اولاد میں۔ اے اللہ صلوة

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَتُوبُ عَلَيْنَا بِهَا يَا تَوَّابُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل تو ہم پر نظر رحمت فرمائے اے تواب۔ اے اللہ صلوة و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهَبُ لَنَا بِهَا رَحْمَةً مِّنْ لَّدُنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ

سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل تو ہمیں اپنی مخصوص رحمت بخشے بے شک تو ہی

الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْمُو لَدَايِكَ

بخشنے والا ہے۔ اے اللہ صلوة و سلام ہو سیدنا محمد پر جو صلوة تیرے پاس

وَتَرْتَفِعُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهَبُ بِهَا قُرَّةَ

بلند و بالا ہو۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نہ ختم ہوتے والی

عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا

آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل پناہ دے ہمیں

مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا

بزدلی اورستی سے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل پناہ دے

بِهَا مِنْ الْهَمِّ وَالْخَطْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

تو ہمیں غم و اندوہ اور بیہودگی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پناہ دے ہمیں قرض کے غلبہ اور لوگوں کے قہر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل تو پناہ دے ہمیں مسیح و جال کے فتنہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ الْبَاطِلِ وَالْمَغْرَمِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پناہ دے ہمیں گناہ اور قرض سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پناہ دے ہمیں قبر کے فتنہ اور عذاب

جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ جُودِ

جہنم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پناہ دے ہمیں

الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكْسِرُ بِهَا عُنُقَ مَدِّ

بلیات کی مشقت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل قطع کر دے ہم سے منگائی کے

الْفَلَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ دَعْوَى

پھیلاؤ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل بجائے ہمیں ہلاکت اور

الْوَيْلِ وَالتَّبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنْجِينَا

تباہی کو دعوت دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نجات دے

بِهَا مِنْ الْفَزَعِ الْكَبِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَغْفِرُ

ہمیں بڑی گھبراہٹ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمارے

لَنَا بِهَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

گناہ بخش دے پہلے اور پچھلے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنْفَسُ بِهَا كُرْبَتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے میری شدت و سختی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَةٌ تُؤْنِسُ بِهَا وَحْشَتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

جس کے طفیل انس سے بدلے ہماری وحشت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تَسَدُّدُ لِسَانِهَا مِنَ الْفُحْشَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

بندر کھے ہماری زبان کو فحش گوئی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے

تَقْوَىٰ لَنَا بِهَا يَقِينُ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

طفیل مضبوط فرمائے ہمارے قلبی یقین کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے

تَشْفِي بِهَا مَرْضَانَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْعَلُ

طفیل شفا بخشنے ہمارے مریضوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بدلہ

لَنَا بِهَا ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

و انتقام ہمارا ہمارے اعداء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے

تُنْحِنُ بِهَا عِزًّا وَإِكْرَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْعَلُنَا

طفیل عطا کرے ہمیں عزت و اکرام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بناوے

بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُومِ رُؤُوا كِرَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہمیں اپنے ان بندوں سے جو بیہودگی کے پاس سے گزریں تو کریمانہ انداز میں گزرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بنائے ہمیں اپنے ان بندوں سے کہ جن سے جاہل مخاطب ہوں تو وہ

قَالُوا سَلَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ

کتے ہیں تم پر سلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بچائے ہمیں

طُرُقِ الْمَهَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ

ہلاکتوں کی راہوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بچائے ہمیں

مِنْ سُوءِ الْمَسَالِكِ وَمِنْهَا بِرِ الْهَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

برے اور ہلاکتوں کے راستوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الدَّائِلَةِ وَالْقَلَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں پناہ بخشنے دلت اور فقر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ قَرِيْبَيْنِ السُّوءِ وَصَاحِبِ الْغَفْلَةِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل پناہ بخشنے ہمیں برے ساتھیوں اور اہل غفلت سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ سُوءِ الصَّنِيعِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے برے عمل سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بَسُّ الصَّحِيحِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے بھوک سے کیونکہ وہ برا ساتھی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُطَهِّرُنَا بِهَا الْفُرُوجَ مِنَ الزِّنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہماری شرمگاہوں کو بدکاری سے محفوظ فرمائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبَيِّنُنَا بِهَا الْهُدَى وَالتَّقَى وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں عطا کرے ہدایت و تقویٰ اور

الْعَفَافَ وَالْغِنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُطَهِّرُنَا بِهَا السِّنِّيْنَا

تقاعت و غنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہماری زبانوں کو پاک

مِنَ الْكُذْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبَاعِدُنَا بِهَا بَيْنَنَا

فرمائے جھوٹ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دوری پیدا فرمائے ہمارے

وَبَيْنَ خَطَايَا نَا كَمَا بَاعَدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور گناہوں کے درمیان جیسے تو نے دوری پیدا فرمائی مشرق و مغرب کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ اللَّهِ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے قبر کی ظلمت اور فتنہ سے۔ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ اللَّهِ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے قبر کی ظلمت اور فتنہ سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ أَحَدُ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے ہر اس چیز کے شر سے کہ تو جس کی

بِنَاصِيَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُقَوِّمُنَا بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ

پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں تقویت بخشنے اپنی طاعت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْخِلُنَا بِهَا فِي حِفْظِ عِنَايَتِكَ

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں داخل فرمائے اپنی حفاظت و عنایت میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعَزِّزُنَا بِهَا عِزًّا لَا ذُلَّ مَعَهُ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں ایسی عزت بخشنے جس کے ساتھ ذلت نہ ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا بِسُطَّا فِي الْأَنَامِ وَسَعَةً اللَّهُمَّ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں عطا کرے مخلوق میں وسعتا و فراخی رزق۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا سُوءَ الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہم سے بری آزمائش۔ اے اللہ صلوة و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَكْفِينُنَا بِهَا شَرَّ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل کفایت فرمائے ہمیں شر اعداء سے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا مَشِيئَةَ مَنْ زَامَنَا بِشَيْئِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور کرے ہم سے برے ارادہ والے کو اپنی مشیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوة

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَخْرِجُنَا بِهَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ رَحْمَتِكَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نکالے ہمیں دنیا سے اپنی فراخی رحمت کی طرف

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ قُضَلَاتِ الْفِتَنِ

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نجات دے ہمیں گمراہ کن قنول سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنْقِذُنَا بِهَا مِنَ الْهُوَانِ فِي

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے ذلت و رسوائی سے

السِّرِّ وَالْعَلَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْتُقِنَا بِهَا حِفْظَ

خفیہ و علانیہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے اپنی

کِتَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقِينَا بِهَا شَرَّ عِقَابِكَ

کتاب کا حفظ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے برے عذاب

وَالْيَمْعَدَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهْدِينَا بِهَا لِمَا

اور دردناک عذاب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہماری رہنمائی فرمائے

اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقِينَا بِهَا

اس حق میں جس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے

شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَتَجَلِّيْ بِهَا عَنَّا الصَّدَأِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اعداؤں کے شر سے اور دور فرمائے ہمارے (قلوب کے) زنگ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُرْحَمْنَا بِهَا بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَيْدَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

ہم پر رحم فرمائے ترک معاصی کی توفیق سے ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُعَجَّلْ لَنَا بِهَا عَافِيَتَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعَرِّفُ

ہمیں جلد عافیت بخشنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل عرفان بخشنے

بِهَاقِلُوبِنَا مَعْرِفَتَكَ وَطَاعَتَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

ہمارے قلوب کو اپنی معرفت و طاعت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُخْتَمُ لَنَا بِهَا بِخَيْرِ أَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُذْهِبُ

ہمارا خاتمہ اچھے اعمال پر فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے

بِهَاعْتَا غِيْظِ قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُكْفِينَا

ہم سے ہمارے دلوں کا غصہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل کفایت فرمائے

بِهَاشْرَ الْأَنْوَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعْصِمُنَا بِهَا

میں مخلوق کے شر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بچائے ہمیں

مِنَ الْغِيِّ وَالْأَثَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْرِكُنَا بِهَا

گمراہی اور گناہوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں چکھائے

بِرُدِّ عَفْوِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْتُقِنَا بِهَا حُبِّكَ

اپنی عفو کی ٹھنڈک و سرور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے

وَحُبِّ مَنْ يَنْفَعُنَا حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی محبت اور ان تمام مقبولین کی محبت جو ہمیں تیری بارگاہ میں نفع دے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةٌ تَعِيدُنَا بِهَا عَنْ فِعْلِ كُلِّ مُبْتَدِعٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوٰۃ کے طفیل پناہ دے، ہمیں ہر بدعتی کے افعال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا نِعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا حُسْنَ الظَّنِّ فِيمَا يَرْضِيكَ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نصیب فرمائے ہمیں حسن ظن تجھے راضی کرنے والے امور میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُلْهِمُنَا بِهَا كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُنَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے صالح اعمال کا جو تیرے ہاں

بَيْنَ يَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْخِلُنَا بِهَا طَلَبًا

نفع دین ہمیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں جگہ دے (جنت کے) گھنے

ظَلِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَسْتُرُنَا بِهَا سُرًّا جَبِيلًا اللَّهُمَّ

سایوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہم پر حسین پردہ ڈالے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْمِينُنَا بِهَا مِنَ الْأَشْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں محفوظ فرمائے شریروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَكْفِينُنَا بِهَا شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل کفایت فرمائے ہمیں شب و روز کے لائے ہوئے شرور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُبَلِّغُنَا بِهَا الْمُنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں پہنچائے ہمارے مقاصد تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سیدنا محمد پر جس کے طفیل نصیب فرمائے ہیں میانہ روی فقر و غنا میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُبَلِّغُنَا بِهَا فِعْلَ الْخَيْرٰتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں متیا کرے نیک اعمال۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِعْلِ السَّيِّئٰتِ وَالْمُنْكَرٰتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے برے اور ناپسندیدہ اعمال سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا عَنِ الْحَمِيْمِ وَالْجَحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل پناہ دے ہیں ابلتے پانی اور آتش و زرخ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا النَّعِيْمَ وَالْعِزَّ الْمُسْتَدِيْمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے جنتی نعمتیں اور دائمی عزت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُشَبِّعُ بِهَا مَنَّا جُوعَاتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں سیر فرمائے ہر قسم کی بھوک سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنَفِّسُ بِهَا عَنَّا كُرْبَاتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہماری شدتیں اور سختیاں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُرِيْلُ بِهَا عَنَّا مَكْرَ الْمَاكِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْيِيْنُنَا

زائل کرے ہم سے اہل مکر کے مکر کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں مزین

بِهَابِزِيْنَةِ الْمُتَّقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَعَلِّمُنَا بِهَا مَا

فرمائے متقین والی زینت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل سکھائے وہ امور جن سے

جَهَلُنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُلْهِمُنَا بِهَا مَا يَنْفَعُنَا وَ

ہم جاہل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں الہام فرمائے نافع امور کا اور

تَدْفِعْ عَنَّا مَا يَضُرُّنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُبَيِّنُ كَلِمَاتِهَا

دور فرمائے ہم سے مضر اشیاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں امداد دے

عَيْنَانَا فِعَالًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمُنِّحُنَا بِهَا عَفْوَ أَوْاسِعًا

مفید ترین امداد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل عطا فرمائے ہمیں وسیع عفو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْفَعُ لَنَا بِهَا الْأَعْمَالَ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بلند فرمائے ہمارے اعمال کو در مقام قبولیت تک اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ نَرْجُو بِهَا الشَّفَاعَةَ إِذَا انْقَطَعَتِ الْأَمَلُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل امیدوار ہوں شفاعت کے جبکہ منقطع ہو جائیں گی امیدیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمُنِّحُنَا بِهَا الْيُسْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل عطا فرمائے ہمیں آسانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفِعُ بِهَا عَنَّا الْبِئْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہم سے شدت و ضرر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْهَجَسِ وَالْهُوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیدنا محمد پر جس کے طفیل محفوظ فرمائے ہمیں برے خیالات اور خواہش نفس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنَقِّيْ بِهَا عَنَّا خَطَايَاَنَا كَمَا تُنَقِّي الثُّوبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل پاک کرے ہم سے ہماری خطا میں جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرُزُّ قُنَابَهَا الرِّضَا بِالْقُوَّةِ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے قیل روزی پر رضا مندی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرُزُّ قُنَابَهَا الرِّضَا بِالْقَضَا وَبِرْدِ الْعَيْشِ بَعْدَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے اپنی قضا پر رضا مندی اور موت کے بعد پر سرت

الْمَوْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرُزُّ قُنَابَهَا الْقَنَاعَةَ اللَّهُمَّ

زندگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں قناعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْحَمُنَا بِهَا فَيَمُنُ تَرْحَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر جس کے طفیل ہم پر رحم فرمائے مرحومین میں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَبْلِغُنَا بِهَا بِلَاغًا حَسَنًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فرما سیتینا محمد پر جس کے طفیل ہمیں مقصد تک پہنچائے اچھے انداز میں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیتینا

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنَوِّرُ بِهَا مَنَّا الْقُلُوبَ سِرًّا وَعَلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جس صلواۃ کے طفیل منور فرمائے ہمارے قلوب کو از روئے باطن و ظاہر کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیتینا

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَحَا اللَّهُ بِهِ طُرُقَ الْإِتْبَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس کے طفیل اللہ نے مٹائے اشتباہ کے راستے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَجَلِبُ بِالصَّلَوةِ عَلَيْهِ الْفَوَائِدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جن پر صلواۃ کے طفیل ہم فوائد حاصل کریں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَسْتَفَادُ بِالصَّلَوةِ عَلَيْهِ جَمِيلَ الْعَوَائِدِ

سیتینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر صلواۃ کے ذریعے استفادہ کریں منافع جمیلہ کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَشِيئِهِ فِي الْأَشْطَاتِ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی کنٹھی پر کنٹھیوں میں

وَعَلَى مَشَايِئِهِ فِي الْمَشَاطَاتِ وَتَسْرِجِهِ فِي الْمَسْرِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کے کنٹھی میں رہنے والے بالوں پر ان بالوں میں اور بال چھڑانے پر بال چھڑانے والوں میں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِرَاتِهِ فِي الْمِرَاتِيِّ وَكَحْلِهِ فِي

نازل فرما سیتینا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے آئینہ پر آئینوں میں اور سرمہ پر

الْأَكْحَالِ وَمَكْحَلَتِهِ فِي الْمَكَاحِلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

سرموں میں اور سرمہ دانی پر سرمہ دانیوں میں۔ اے اللہ تو نے حسین بنایا میری صورت کو پس حسین بنامیری

وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَاتِي

سیرت کو اور چہرے کو آگ پر حرام فرما۔ تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں جس نے موزوں بنایا میری تخلیق کو اور خوبتر بنایا میری صورت

سیرت کو اور چہرے کو آگ پر حرام فرما۔ تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں جس نے موزوں بنایا میری تخلیق کو اور خوبتر بنایا میری صورت

وَتَنَا ن مَبِي مَا شَان غَيْرِي اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کو اور مزے کیا مجھ سے جو عیب ناک بنایا دوسروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِيلِهِ فِي الْأَمْيَالِ وَدُهُنِهِ فِي الْأَدْهَانِ وَعَلَى

آل محمد پر اور آپ کی سلاخی پر سلاخیوں میں اور تیل پر تیلوں میں اور

مَدُهُنِهِ فِي الْمَدَاهِنِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تیل کے ظرف پر ظروف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسْعَطِهِ وَعَلَى هُرَاوِيَّتِهِ فِي الْهَرَاوِي وَمَرْوَجِيَّتِهِ

آل محمد پر اور آپ کی ڈوبیہ پر۔ اور عصا پر عصاؤں میں اور آپ کے پیچھے پر

فِي الْمَرَاوِجِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پنکھوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَى عَطْرِهِ فِي الْمِعْطَرِينَ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے عطر پر عطر والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَارِيخِهِ فِي التَّوَارِيخِ وَعَصْرِهِ فِي الْأَعْصَارِ وَقَوْلِهِ

آل محمد پر اور آپ کی تاریخ پر تاریخوں میں اور آپ کے زمانہ پر زمانوں میں اور آپ دوہرے

فِي الْقُرُونِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ادوار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

سَاعَتِهِ فِي السَّاعَاتِ وَوَقْتِهِ فِي الْأَوْقَاتِ وَعَامِهِ فِي الْأَعْوَامِ اللَّهُ صَلِّ

آپ کی ساعت پر ساعتوں میں اور آپ کے وقت پر اوقات میں اور آپ کے سال پر سالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَهْرِهِ فِي الْأَشْهُرِ وَعَلَى شَهْرِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے مہینہ پر مہینوں میں اور آپ کے

الرَّبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَوْمِهِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ربیع الاول کے مہینہ پر اور آپ کے سوموار والے دن پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أُسْبُوعِهِ فِي الْأَسَابِيعِ وَعَشْرَتِهِ فِي الْعَشْرَاتِ وَلَيْلِهِ

آل محمد پر اور آپ کے ہفتہ پر ہفتوں میں آپ کے عشرہ پر عشروں میں اور آپ کی رات پر

فِي اللَّيَالِي وَيَوْمِهِ فِي الْأَيَّامِ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ

راتوں میں اور آپ کے دن پر دنوں میں۔ اے اللہ تیری توفیق سے وقت شام تک پہنچے اور تیری توفیق سے

وَإِلَيْكَ النُّشُورُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ مُتَوَفِّيهَا لَكَ مِمَّا تُهَا

زندگی پاتے ہیں اور تیرے امر سے مرے گئے اور تیری طرف ہی اٹھتا ہے۔ اے اللہ تو نے میرے نفس کو پیدا فرمایا اور تو ہی اس کو وفات

وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاعْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي

دینے والا ہے تیرے ہاتھ میں ہے اس کی موت و حیات۔ اگر اسے زندہ رکھے تو محفوظ رکھنا اور موت دے تو بخشش عطا کرنا۔ اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن اٹھائے گا اپنے بندوں کو تمام حمدیں اللہ کیسے ہیں

الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کرحیں کے انعام سے ہی نیکیاں تکمیل پاتی ہیں۔ اللہ کے لیے ہے حمد ہر حال میں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَصْلِهِ فِي الْفُصُولِ وَعَدَاتِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے موسم پر موسموں میں اور آپ کی صبح پر

فِي الْعَدَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

صبحوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

عَلَى ظَهْرِيَّتِهِ فِي الظَّهَائِرِ وَأَصِيلِهِ فِي الْأَصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کی دوپہر پر دوپہروں میں اور آپ کی شام پر شاموں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَقْعَتِهِ فِي الْبُقَاعِ وَنَاحِيَّتِهِ فِي التَّوَارِحِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے قطعہ زمین پر قطعہ جات میں اور آپ کے علاقہ پر علاقہ جات میں

وَأَرْضِهِ فِي الْأَرْضِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور آپ کی زمین پر زمینوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَرْبَتِهِ فِي الْقُرَى وَوَطَنِهِ فِي الْأَوْطَانِ وَمَوْلَانَا فِي

مقامات ولادت میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

مَكَانِهِ فِي الْأَمْكِنَةِ وَمِصْرَةَ فِي الْأَمْصَارِ وَمَدِينَتَهُ فِي الْمَدَائِنِ اللَّهُمَّ

آپ کے مکان پر مکانوں میں اور بلا پر بلاد میں اور آپ کے مدینہ پر جملہ شہروں میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَارِهِ فِي الدُّوَرِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی حویلی پر حویلیوں میں

وَمَسْكِنِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَمَطْلَعِهِ فِي الْمَطَالِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کے مسکن پر ساکن میں اور آپ کے بالاخانہ پر بالاخانوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى قَصْرِهِ فِي الْقُصُورِ وَيَمِينِهِ فِي الْأَيْمَانِ وَشِمَالِهِ فِي الشِّمَالِ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کے محل پر محلات میں اور دائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھوں میں اور بائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَوْقِهِ وَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے اوپر والی جانب اور

تَحْتِهِ وَقَدَّامِهِ وَخَلْفِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہلی اور اگلی اور پچھلی جانب پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدًا وَعَلَى أَسَاسِهِ فِي الْأُسُوسِ وَبَيْتِهِ فِي الْبُيُوتِ وَبَيْتِ أَصْحَابِهِ فِي

پر اور آپ کے مکان کی بنیاد پر بنیادوں میں اور مکان پر مکانات میں اور آپ کے دامادوں کے مکانوں پر

الْأَبْيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکانات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَى حَائِطِهِ فِي الْحَيْطَانِ وَأُسْطُوَانَتِهِ فِي الْأَسَاطِينِ وَسَقْفِهِ فِي

اور آپ کی دیوار پر دیواروں میں اور ستون پر ستونوں میں اور مکان کی چھت پر

السُّقُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

چھتوں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور

عَلَى سَطْحِهِ فِي السُّطُوحِ وَسَلِّمْ فِي السَّلَالِمِ وَمِرْقَاتِهِ فِي الْمِرَاقِي

آپ کے مکان کی چھت پر چھتوں میں اور سیڑھی پر سیڑھیوں میں اور سیڑھی کے ہر درجہ پر درجات میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے

صِفَتِهِ فِي الصُّفَاتِ وَحُجْرَتِهِ فِي الْحُجْرَاتِ وَظِلَّتِهِ فِي الظُّلَّاتِ اللَّهُمَّ

چھپر پر چھپروں میں اور حجرہ پر حجرات میں اور سایہ دار جگہ پر سایہ دار جگہوں میں اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَاحَتِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے صحن پر

فِي السَّاحَاتِ وَسُدَّتِهِ فِي السُّدَّاتِ وَسُرَادِقَتِهِ فِي السُّرَادِقَاتِ

صحنوں میں اور چوکھٹ پر چوکھٹوں میں اور سرا پردہ پر سرا پردہ میں -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے

بَابِهِ فِي الْآبُوابِ وَمِصْرَعِ بَابِهِ فِي الْمِصَارِيعِ وَأُسْكُفَّتِهِ فِي الْأُسْكُفَّاتِ

دروازہ پر دروازوں میں اور دروازے کے کواڑ پر کواڑوں میں اور دہلیز پر دہلیزوں میں -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَجُلٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے دروازے کے نچلے حصہ

بَابِهِ فِي الْآبُوابِ وَمِزْلَاجِهِ فِي الْمِزَالِيجِ وَعَضَادَتِهِ فِي الْعَضَادَاتِ

پر دروازوں میں اور دروازے کے چٹنی پر چٹنیوں میں اور دروازے کی جانبوں پر جوانب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَكِّهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے دروازے کی تکی پر

فِي السَّكَكِ وَسَلْسَلَتِهِ فِي السَّلَاسِلِ وَقَفْدِهِ فِي الْأَقْقَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بلیوں میں اور زنجیر پر زنجیروں میں اور تالہ پر تالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَفَاتِحِهِ فِي الْمَفَاتِيحِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کی چابی پر چابیوں میں

وَطَرِيقَتِهِ فِي الطَّرِيقِ وَرِزْقِهِ فِي الرِّزْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کے راستہ پر راستوں میں اور گلی پر گلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سِكِّتِهِ فِي السِّكِّكِ وَخَوْخَتِهِ فِي الْخَوْخَاتِ وَ

محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے کوچہ پر کوچوں میں اور کھڑکی پر کھڑکیوں میں اور

بِيرِهِ فِي الْبَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کنوئیں پر کنوئوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے

مُغْتَسَلِهِ فِي الْمَغْتَسَلَاتِ وَكَيْفِيَّتِهِ فِي الْكَيْفِيَّاتِ وَمَسِيلِ مَائِهِ فِي الْمَسِيلَاتِ

عسل خانہ پر غسل خانوں میں اور بیت الخلاء پر بیت الخلاءوں میں اور آپ کے پانی کی گزرگاہ پر اس کی گزرگاہوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَيْدِيهِ فِي الْأَيْدِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے برتن پر برتنوں میں

وَقُلْتِهِ فِي الْقُلَالِ وَجَرَّتِهِ فِي الْجَرَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کے مٹکے پر مٹکوں میں اور گھڑے پر گھڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَفْنَتِهِ فِي الْجَفَّانِ وَابْرِيْقِهِ فِي الْبَارِيقِ وَ

آل محمد پر اور آپ کے پیالے پر پیالوں میں اور لوٹے پر لوٹوں میں اور

إِدَاوِيَّتِهِ فِي الْإِدَاوِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

چھوٹے مشکیزہ پر مشکیزوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أُتْقِيَّتِهِ فِي الْأُتْقِيَّاتِ وَقُدْرِهِ فِي الْقُدُورِ وَمَجْبَرِهِ فِي الْمَجْبَرَاتِ

پر اور آپ کے چھٹے کے پھروں پر ان پھروں میں اور ہنڈیا پر ہنڈیوں میں اور عود سوز پر عود سوزوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَرَمَتِهِ فِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی ہانڈی پر

الْبُرْمِ وَطَنْجِيرِهِ فِي الظَّنَاجِيرِ وَتُورِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہانڈیوں میں اور دھات کی تپکھی پر دیپٹیوں اور تنوروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَابِقِهِ فِي الطَّوَابِقِ وَطَبِيبِهِ فِي الطِّبَّاسِ وَفَرْكِهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے تھال پر تھالوں میں اور تاش پر تاشوں میں اور گھن پر

فِي الْمَرَائِكِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَغْفَرَتِهِ

لگنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے چچھ پر

فِي الْمَعَارِفِ وَمِلْعَقَتِهِ فِي الْمَلَاعِقِ وَدَلْوِهِ فِي الدَّلَائِلِ الْإِلَهِي هَدَيْتَنِي فَلَهُوتُ

پہچوں میں اور چچی پر چچوں میں اور آپ کے ڈول پر ڈولوں میں۔ اے میرے الٰہ تو نے مجھے ہدایت دی پس میں غافل ہو

وَوَعظتُ فَنَسَوْتُ وَأَبْلَيْتُ الْجَمِيلَ فَعَصَيْتُ ثُمَّ عَفَرْتُ فَعُدْتُ وَإِذَا

کیا اور تو نے نصیحت فرمائی مگر میں سگدل ہو گیا اور تو نے اچھائی کر کے آزمایا مگر میں نافرمان ہوا رہا ہو گیا پھر بھی تو نے بخشش فرمائی مگر

عَرَفْتَنِيهِ فَاسْتَعْفَرْتُ فَأَقَلْتُ فَعُدْتُ فَسَدَرْتُ فَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ

میں عصیان کی طرف لٹا اور جب تو احسان چلائے تو میں مغفرت طلب کرتا ہوں تو گرفت سے باز رہے تو میں پھر برائی کی طرف لوٹا ہوں تو

أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَوَادُ الْبَارُّ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي قَدْ نَجَحَ

پھر بھی پردہ پوشی کرتا ہے پس تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ صاحب جود و صاحب احسان بہت بخشنے والا مہربان ہے نہیں

حَاجَاتُ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ بِالصَّدَقِ وَالْإِطَاعَةِ وَبِدَاخِ قَلْبِهِ وَشَرَحَ

معبود برحق مگر تو کہ تحقیق پوری کی گئیں حاجات ان کی جو متوجہ ہوئے تیری طرف صدق و اطاعت کے ساتھ اور فراخ کیا گیا دل اس کا اور کشادہ کیا گیا

صَدْرَهُ وَنَزَحَ حُزْنُهُ وَنَزَحَ مَاءُ الْحَيَاةِ مِنْ بَحَارِ قُدْرَتِكَ الَّتِي هِيَ

سینہ اس کا اور دور کیا گیا حزن اس کا اور کھینچا گیا آب حیات تیری قدرت کے سمندروں سے (اس کے لیے)

قَادِرَةٌ عَلَى إِيجَادِ إِنْ أَرَدْتَهُ وَعَلَى إِعْدَامِ إِنْ شِئْتَهُ اللَّهُمَّ إِنْ عَادَنِي

جو کہ قادر ہے ایجاد پر جب ارادہ کرے تو ایجاد کا اور معدوم کرنے پر اگر چاہے معدوم کرنا۔ اے اللہ اگر عداوت رکھے مجھ

جِنَّ حَاسِدًا أَوْ شَيْطَانٌ مَّرِيدٌ يَتَشَبَّهُ بِبَشَرٍ أَوْ حَيَوَانٍ حَيْثُ كَرِهَ

سے حاسد جن یا سرکش شیطان جو تشکل ہو تشکل بشری یا حیوانی میں جہاں میں اس کو بلاؤں اور

وَعَيْنَتْهُ لِإِهْلَاكِ عَدُوِّ فَاهْلِكْ فَإِنَّهُ خَالَفَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَابْتَغَى اللَّهُمَّ

متعین کروں کسی دشمن کی ہلاکت کے لیے تو اس کو ہلاکت فرمانا کیونکہ اس نے اہل اسلام کی مخالفت اور بغاوت کی۔ اے اللہ

أَنْتَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَاصِرُهُمْ وَبَارِئُ مَنِّمَنٍ أَمِنْ بَيْتِكَ وَبَيْنَ أَرْكَانِكَ

تو اہل ایمان کا ولی و ناصر اور محسن ہے، میں ان میں سے ایک فرد ہوں جو تجھ پر ایمان لائے اور جن کے ساتھ ایمان لانے کا

بِالْإِيمَانِ بِهِ أَنْصَرْتَنِي عِنْدَ كُلِّ دَهْشَةٍ وَشِدَّةٍ وَأَقْلِبُ وَهْمِي وَخِيَالِي إِنْ كَانَ

تو نے حکم دیا میری مدد فرما ہر دہشت اور شدت کے وقت اور بدل دے میرے وہم و خیال کو اگر وہ موجب

نَقْصَالِ هَذَا الدَّاعِي وَوَالِهِ وَأَجْبَائِهِ وَأَوْلَادِهِ إِلَى خِلَافِهِ يَا بَارِئُ مَحْشُودًا

نقصان ہو اس دعا طلب اور اس کے اقرباء اور احباب و اولاد کے لیے دوسری جانب لے محسن محمود احسان والے از روئے

وَجُودًا أَيَّامًا كَانَ مِنْ وَجُودِ عَرْضِيًّا أَوْ جَوْهَرِيًّا أَنْتَ تَامٌ مَحْمُودٌ وَالْقَائِلُ نَاقِصٌ

وجود کے جو وجود بھی ہو عرض یا جوہری تو کامل و محمود ہے اور قائل ناقص ہے

فَتَمِّمُهُ بِإِنْفَاقِ نُورِهِ سَارِيًّا فِي عُرُوقِهِ وَغَيْرِ مُمْضٍ لِسَيْلَانِ الدَّمِ وَتَبَدُّلِهَا إِلَى

لہذا تو اس کو بھی کامل فرما بسبب ملانے نور کے جو سرایت کرنے والا ہو اس کی رگوں میں اور دوران خون کیلئے مضمز ہو اور نہ

لِلنُّطْفَةِ وَاجْعَلْنِي إِذْ عَانَتِي قَوْمٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ أَعْلَىٰ وَجْتَدِبْهُ أَخَذَ إِنَّهُ يَارُصَانِ

نطفہ کو اور بنادے مجھے ازروئے یقین کے ملائ اعلیٰ کی قوم اور شکر میں در آنجا لیکہ میں حاصل کرنے والا ہوں ساتھ کامل

تَامٌ مِّنْ غَيْرِ قَدِيسٍ مِّنْ أَسْرَارِكَ بِحَيْثُ لَا يَصْدُرُ مِنِّي خِلَافٌ إِلَّا دُعَانٌ وَلَا

استحکام کے بغیر گم کئے کسی راز کو تیرے رازوں سے اس انداز میں کہ نہ سرزد ہو مجھ سے خلاف یقین اور نہ ہی

جُرْمٌ فِي فَوَائِدِ هَذَا الْإِسْمِ وَمَظَاهِرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الطَّبَائِعَ فِي هَذَا الدَّاعِي

کوئی جرم اس اسم کے فوائد اور مظاہر میں۔ اے اللہ بنادے طبائع کو اس دعا طلب میں

مُعْتَدِلَةً أَخَذَةً لِجَنْسِهَا أَمْثَلِ اعْتِدَالِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ حَتَّى لَا يَهْلِكَ

معتدل جو اپنے ہمجنس کو اخذ کریں کامل اعتدال کے ساتھ بغیر تجاوز کے یہاں تک کہ نہ ہلاک ہو

شَخْصِي بَغِيْظٍ زَائِدٍ أَوْ تَكُوْنُ مُضْغَةً أَوْ أَفْرَاطٍ قُوَّةٍ مِّنَ الْقُوَى الْإِنْسِيَّةِ

میرا شخص زائد غیظ و غضب سے یا مضغہ کے بننے یا انسانی قوتوں میں سے کسی کے حد سے بڑھنے کی وجہ سے

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَافِظِي وَالْمَلَكَةُ الْأَرْبَعَةُ الْمَوْكَلَةُ عَلَى الْكَيْفِيَّاتِ الْأَرْبَعَةِ

اے اللہ تو میرا محافظ ہے اور چار فرشتے جو موکل ہیں چار کیفیات پر

الْمَتَوْلِدَةُ مِنْهَا الْأَرْبَعَةُ الْآخِرَى تَحْتَ أَمْرِكَ وَرِضَاكَ وَسَوَادِي وَخِيَالِي

جن سے پیدا ہونے والی ہیں چار کیفیات دوسری تیرے امر و رضا کے تحت اور میرے مجسمہ و خیال کے تحت

وَكُلُّ أَمْرٍ عَرَضِيٍّ أَوْ جَوْهَرِيٍّ لَكَ اجْعَلْهَا بَارَةً فِي عَبْدِكَ هَذَا أَو الدَّاعِي

اور اپنے ہر امر عرضی اور جوہری کو بنادے موافق طبع اپنے اس عبد میں اور طالب حاجات میں

إِلَيْكَ يَا فَاطِرَ الْحَقَائِقِ الْمْتَفَرِّدِ بِالْعُظْمَةِ وَالْجَلَالِ الْمُنْزَهَ عَنِ الْكُفْوَالِ الَّذِي

اے پیدا کرنے والے حقائق کے جو متفرد ہے عظمت و جلال کے ساتھ اور منزہ ہے کفو و مثیل سے کہ

تَقْرِبُهُ أَوْ تَنْظَرُهُ أَوْ تَتَلَذُّ بِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَكَانٍ وَصْفِهِ

کوئی اس کے قریب ہو یا نظیر و مماثل ہو یا اس سے لذت گیر ہو پس نہیں ہے کسی کے لیے شایاں کہ قادر ہو اس کی حقہ توصیف

كَمَا هُوَ يَا ذَا كِي الطَّاهِرِ مِنْ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ زَكِّي وَطَهِّرْنِي مِنْ كُلِّ لَوْثٍ

پر اے پاکیزہ و طاہر ہر آفت سے بسبب اپنے تقدس کے مجھے پاک اور طاہر فرما ہر انسانی آلائش سے

إِنْسِي بِحَيْثُ يَكُونُ صُورَتِي وَشَخْصِي صُورَةَ إِنْسِي وَسِيرَتِي سِيرَةَ

مِثْلَهَا بِالْعَقْلِ الْأَوَّلِ بِفَضْلِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَلَا فَضْلَكَ عَلَيْنَا

لِمَا زَكَيْتُ أَبَدًا وَلَكِنْ تَزَكَّى مَنْ تَشَاءُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَنِي

هَكَذَا فَاجْعَلْنِي مَحْفُوظًا عَنْ أَفِيَّةِ أَرْضِيَّةٍ كَانَتْ أَوْ سَبَاوِيَّةٍ مَانِعَةٍ

بِعَبُورِ الْعَقْلِ وَالسَّيْرِ فِي الْقُدْسِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذِي رَحْمَةٍ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَذُرِّيَّتِهِ

فِي الذَّرَارِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى مُرْضِعِهِ فِي الْمَرَاضِعِ وَأَبِيهِ فِي الْأَبَاءِ وَجَدِّهِ فِي الْأَجْدَادِ اللَّهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَدَّتِهِ فِي الْجَدَّاتِ

وَجَدِّهِ الْفَاسِدِ فِي الْأَجْدَادِ الْفَاسِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَدَّتِهِ الْفَاسِدَةِ فِي الْجَدَّاتِ الْفَاسِدَاتِ وَجَدِّهِ

فِي الْأَعْمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

چچوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور

عَلَى زَوْجِ عَيْتِهِ فِي أَزْوَاجِ الْأَعْمَامِ وَعَيْتِهِ فِي الْعَمَّاتِ وَزَوْجِ عَيْتِهِ فِي

آپ کی چچی پر چچوں کی بیویوں میں۔ اور پھوپھی پر پھوپھیوں میں اور پھوپھی کے خاوند پر

أَزْوَاجِ الْعَمَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پھوپھیاں کے خاوندوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

وَعَلَى أَخِيهِ فِي الْأُخُوَّةِ وَأُخْتِهِ فِي الْأَخَوَاتِ وَخَالِهِ فِي الْأُخْوَالِ اللَّهُمَّ

اور آپ کے بھائی پر بھائیوں میں اور آپ کی بہن پر بہنوں میں اور ماموں پر ماموں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَالَتِهِ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی خالہ پر

الْخَالَاتِ وَوَلَدِهِ فِي الْأَوْلَادِ وَأَبْنِهِ فِي الْأَبْنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خالاؤں میں اور آپ کی اولاد پر اولادوں میں اور آپ کے ہر صاحبزادہ پر صاحبزادوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُتَبَيِّنِيهِ فِي الْمُتَبَيِّنِينَ وَكُنْتِهِ فِي

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے متنبی پر متنبیوں میں اور آپ کی بھوپر

الْكِنَانِ وَبِنْتِهِ فِي الْبَنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بھویوں میں اور ہر صاحبزادی پر صاحبزادیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَتْنِهِ فِي الْأَخْتَانِ وَسِبْطِهِ فِي الْأَسْبَاطِ وَحَافِدَتِهِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سر پر سروروں میں اور ہر بیٹے پر بیٹوں میں اور پوتے

فِي الْحَافِدَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر پوتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَى زَوْجِهِ فِي الْأَزْوَاجِ وَحَمَّاتِهِ فِي الْحَمَّاتِ وَصَهْرِهِ فِي الْأَصْهَارِ

اور آپ کی بہن بھوی پر بیویوں میں اور آپ کی ساس پر ساسوں میں اور آپ کے داماد پر دامادوں میں

اور آپ کی بہن بھوی پر بیویوں میں اور آپ کی ساس پر ساسوں میں اور آپ کے داماد پر دامادوں میں

وَالسَّعِيدَ وَالطَّلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

و سعید اور طلحہ و زبیر اور عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ بن الجراح

الْجَرَّاحِ الْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرِينَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ

یعنی تمام عشرہ مبشرہ پر اور دیگر تمام صحابہ کرام و تابعین اور خلفاء راشدین پر

رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدِنَا

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بخش اور ہمارے والدین

وَلِمَشَائِخِنَا وَلَا سَاتِدَاتِنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

کو اور مشائخ و اساتذہ کو اور تمام مومنین و مومنات زندہ اور فوت شدہ کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُلَامِهِ فِي الْغُلْبَةِ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے ہر غلام پر غلاموں میں

مَوَالِيهِ فِي الْمَوَالِي وَشِيعَتِهِ فِي الْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور محبوبوں پر تمام محبوبوں میں اور جماعت پر جماعتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَصِيرِهِ فِي الْأَنْصَارِ وَمُهَاجِرِهِ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَ

اور آل محمد پر اور آپ کے مددگار پر مددگاروں میں اور ہر مہاجر پر مہاجرین میں اور

فَارِسِهِ فِي الْفَوَارِسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آپ کے ہر شاہسوار پر شاہسواروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَعْرَابِهِ فِي الْأَعْرَابِ وَفِي جِهَةِ الْفَيَؤُوجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کے اعراب پر اعرابیوں میں اور آپ کے ہر کارہ پر ہر کاروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَفِيرِهِ فِي السُّفَرَاءِ وَرَسُولِهِ فِي

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے ہر سفیر پر سفیروں میں اور ایچی پر

الرُّسُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا لِهَذَا الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا

ایچیوں میں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا اور تیرے ہاں

تَرْضَى اللَّهُ هَوْنٌ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَأَطْوَلَنَا الْبَعْدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ

پسندیدہ عمل کا۔ اے اللہ آسان فرما ہم پر ہمارا یہ سفر اور لپیٹ دے ہمارے لیے اس کی دوری۔ اے اللہ تو ہی ساتھ ہے

فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةَ فِي الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَ

سفر میں اور نگران ہے اہل و عیال میں۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی تھکان اور

كَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَطْوَلَهُ

برے منظر سے اور بری بازگشت سے مال اور اہل و اولاد میں۔ اے اللہ سمیٹ اس کی

الْبَعْدَ وَهَوْنٌ عَلَيْهِ السَّفَرِ اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرْفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَذَلِكَ

دوری کو اور آسان فرما اس پر سفر کو۔ اے اللہ تیرے لیے ہی ہے بزرگی ہر شرف و بزرگی پر اور تیرے لیے

الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہے حمد ہر حال میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أُمَّتِهِ فِي الْإِمَاءِ وَعَبْدِهِ فِي الْعَبِيدِ وَكَاتِبِهِ فِي

محمد پر اور آپ کی لونڈی پر لونڈیوں میں اور غلام پر غلاموں میں اور ہر کاتب پر

الْكِتَابِ وَرَقِيبِهِ فِي الرُّقَبَاءِ وَحَارِسِهِ فِي الْحَرَّاسِ وَنَقِيبِهِ فِي

کاتبوں میں اور آپ کے ہر نگران پر نگرانوں میں اور ہر پرے دار پر پرے داروں میں اور آپ کے مقرر کردہ ہر سردار پر

النُّقَبَاءِ وَمُؤَدِّبِهِ فِي الْمُؤَدِّبِينَ وَخَطِيبِهِ فِي الْخُطَبَاءِ وَجَاسُوسِهِ فِي

ایسے سرداروں میں اور ہر مؤذن پر مؤذنون میں اور ہر خطیب ہر خطیبوں میں اور آپ کے ہر جاسوس پر

الْجَوَاسِيسِ وَأُمَّتِهِ فِي الْأُمَمِ وَشَاعِرِهِ فِي الشُّعْرَاءِ وَيَوَائِبِهِ فِي الْيَوَائِبِ

جاسوسوں میں اور آپ کی اُمت پر اُمتوں میں اور ہر شاعر پر شاعروں میں اور ہر دربان پر دربانوں میں

وَقَصَادِهِ فِي الْقَصَادِينَ وَخَيَاطِهِ فِي الْخَيَاطِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور ان کی طرف متوجہ ہونے والے پر متوجہ ہونے والوں میں اور ان کے درزی پر درزیوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَبَاخِهِ فِي الطَّبَاخِينَ وَعَصَّارِهِ فِي

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے باورچی پر باورچیوں میں اور شیرہ تکانے پر

الْعَصَارِينَ وَرَاعِيَهُ فِي الرُّعَاتِ وَحَجَّامِهِ فِي الْحَجَّامِينَ وَفَضَّادِهِ فِي

شیرہ نکالنے والوں میں اور ہر چرواہے پر چرواہوں میں اور سینکھیاں لگانے والے پر ایسے لوگوں میں اور رگزن پر

الْفَضَّادِينَ وَمُنَادِيَهُ فِي الْمُنَادِيْنَ وَصَبَّاعِهِ فِي الصَّبَّاعِينَ وَسَبَّانِهِ فِي

رگزنوں میں اور آپ کے منادی پر منادیوں میں اور رنگریز پر رنگریزوں میں اور گھی فروش پر

السَّبَّانِينَ وَكَبَّانِهِ فِي الْكَبَّانِينَ وَحَدَّادِهِ فِي الْحَدَّادِينَ وَصَيَّاعِهِ فِي

گھی فروشوں میں اور دودھ فروش پر دودھ فروشوں میں اور آپ کے لوہار پر لوہاروں میں اور سناہ پر

الصَّيَّاعِينَ وَعَطَّارِهِ فِي الْعَطَّارِينَ وَحَلَّاقِهِ فِي الْحَلَّاقِينَ وَحَطَّابِهِ فِي

سناروں میں اور عطار پر عطاروں میں اور آپ کے حجام پر حجاموں میں اور آپ کے لکڑہائے پر

الْحَطَّابِينَ وَحَادِيَهُ فِي الْحُدَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لکڑہاروں میں اور حدی خواں پر حدی خواہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى دِينِهِ فِي الْأَدْيَانِ وَمِلَّتِهِ فِي الْمِلَلِ وَمَذْهَبِهِ فِي

آل محمد پر اور آپ کے دین پر ادیان میں اور ملت پر ملتوں میں اور مذہب پر

الْمَذَاهِبِ وَشَرِيْعَتِهِ فِي الشَّرَائِعِ وَطَرِيقَتِهِ فِي الطَّرِيقِ وَحَقِيْقَتِهِ فِي الْحَقَائِقِ

مذہب میں آپ کی شریعت پر شریعتوں میں اور آپ کی طریقت پر طریقتوں میں اور حقیقت پر حقیقتوں میں

وَمَعْرِفَتِهِ فِي الْمَعَارِفِ وَأَمْرِهِ فِي الْأَوْامِرِ وَنَهْيِهِ فِي النَّوَاهِي وَخَلْوَتِهِ فِي

اور آپ کی معرفت پر معرفتوں میں۔ اور آپ کے امر پر اوامر میں اور منع پر مناہی میں اور خلوت پر

الْخُلُوَاتِ وَطَاعَتِهِ فِي الطَّاعَاتِ وَعِبَادَتِهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَطَهَارَتِهِ فِي

خلوتوں میں اور اطاعت پر طاعات میں اور آپ کی عبادت پر عبادات میں اور طہارت پر

الطَّهَارَاتِ وَعُسْلِهِ فِي الْمَغْتَسِلِينَ وَوُضُوْعِهِ فِي الْمُتَوَضِّئِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

طہارتوں میں اور آپ کے غسل پر غسل کرنے والوں میں اور وضو پر وضو کرنے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَسْوَكِهِ فِي الْمَسْوَكِينَ وَتَيْمُمِهِ فِي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے مسواک پر مسواکوں میں اور آپ کے تیمم پر

الْمُتَيَّبِينَ وَمَسْجِدِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعْبَدِهِ فِي الْمَعَابِدِ وَعِيدِهِ فِي الْأَعْيَادِ

تمام تراہل یتیم میں اور آپ کے مسح پر اہل مسح میں اور جائے عبادت پر عبادتگاہوں میں اور آپ کی عید پر عیدوں

وَجَمْعَتِهِ فِي الْجَمْعَاتِ وَعَنْزَتِهِ فِي الْعَنْزَاتِ وَجَمَاعَتِهِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَمَسْجِدِهِ

میں اور جمعہ پر جمعوں میں اور چھوٹے نیزہ پر ایسے نیزوں میں اور آپ کی جماعت پر جماعتوں میں اور مسجد پر

فِي الْمَسَاجِدِ وَمُنْبَرِهِ فِي الْمُنَابِرِ وَأَذَانِهِ فِي الْمَوْذِنِينَ وَسُتْرَتِهِ فِي السُّتْرَاتِ

مساجد میں اور آپ کے منبر پر منبروں میں اور آپ کی اذان پر مؤذنین میں اور آپ کے سترہ پر ستروں میں

وَصَفِّهِ فِي الصُّفُوفِ وَخُطْبَتِهِ فِي الْخُطَبِ وَإِقَامَتِهِ فِي الْمُقِيمِينَ وَسَجَادَتِهِ

اور آپ کی صف پر صفوں میں اور خطبہ پر خطبوں میں اور اقامت صلوٰۃ پر اہل اقامت میں اور آپ کے مصلیٰ

فِي السَّجَادَاتِ وَطَنْقَسِيَّتِهِ فِي الطَّنَافِسِ وَإِمَامَتِهِ فِي الْإِمَامَةِ وَصَلَوَاتِهِ فِي

پر مصلحوں میں اور آپ کی چٹائی پر چٹائیوں میں اور امامت پر آئمہ میں اور آپ کی نماز پر

الصَّلَوَاتِ وَقِيَامِهِ فِي الْقَائِمِينَ وَمِحْرَابِهِ فِي الْمِحْرَابِ اللَّهُمَّ

نمازوں میں اور قیام پر اہل قیام میں آپ کے محراب پر محرابوں میں ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَدِّعِهِ فِي الْجَنَّةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کے تن اقدس پر تنوں میں

وَنَيْتِهِ فِي النَّيَّاتِ وَتَكْبِيرِهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَتَحْرِيمَتِهِ فِي التَّحْرِيمَاتِ وَفُرْضِهِ

اور آپ کی نیت پر نیت میں اور تکبیر پر تکبیرات میں اور تکبیر تحریمہ پر تحریمات میں اور ہر فرض پر

فِي الْفَرَائِضِ وَوَأَجِبِهِ فِي الْوَأَجِبَاتِ وَسُنَّتِهِ فِي السُّنَنِ وَمُسْتَحَبِّهِ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ

فرائض میں اور ہر واجب پر واجبات میں اور سنت پر سنن میں اور ہر مستحب پر مستحبات میں

وَنَقْلِهِ فِي النَّوَافِلِ وَمُبَاحِهِ فِي الْمُبَاحَاتِ وَتَهْجُدِهِ فِي التَّهْجُدِينَ وَقِرَائَتِهِ

اور آپ کے نفل پر نوافل میں اور مباح پر مباحات میں اور آپ کی تہجد پر اہل تہجد میں اور قراءت پر

فِي الْقِرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَشَرَتِهِ

قاریوں میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے خشتوں پر

فِي الْخَاشِعِينَ وَرُكْعَتِهِ فِي الرُّكْعَاتِ وَشَفَعَتِهِ فِي الشَّفَعَاتِ وَرُكُوعِهِ فِي

اہل خشوع میں اور ہر رکعت پر رکعات میں اور دو دو رکعت پر جفت رکعات میں اور رکوع پر

الرُّكْعِ وَقُنُوتِهِ فِي الْقَانِتِينَ وَقَوْمَتِهِ فِي الْقَوْمَاتِ وَفَأْوِيهِ فِي الْمَأْمُومِينَ

اہل رکوع میں اور قنوت پر اہل قنوت میں اور قومہ پر قوموں میں اور آپ کے ہر مقتدی پر مقتدیوں میں

وَسَجْدَتِهِ فِي السُّجُودَاتِ يَا صِدْدُ مَنْ غَيْرِ شَيْءٍ فَلَاشَيْءٍ كَمِثْلِهِ اجْعَلْنِي غَنِيًّا

اور آپ کے ہر سجدہ پر سجدوں میں۔ اے بے نیاز بلا مشابہ کوئی شئی جس کی مثل نہیں ہے مجھے کونین سے

عَنِ الْكُونِينَ فَاطْرًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَائِمًا فِي أَوْامِرِكَ الَّتِي أَنْتَ كَلَّفْتَنِي بِهَا

بے نیاز کر دے در آنحالیکہ افطار کرنے والا ہوں تیرے حضور اور برپا کرنے والا تیرے احکام کو جن کے ساتھ تو نے مجھے مکلف فرمایا

مَنْ غَيْرِ مُثَلَّةٍ مِّنَ الْمَثَلَاتِ الدِّنِّيَّةِ الرَّدِّيَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْأَمَارِيَّةِ يَا قُدُّوسُ

بغیر کسی آفت کے حقیر روی نفس امارہ کی آفات۔ اے قدوس

يَا سُبُّوحُ أَرْسِلْ عَلَيَّ الرَّشْحَاتِ الصَّبْدِيَّةِ الْفَبِيَّةِ مِنَ الْأَمْرُشَادَاتِ

اے سبح بیچ مجھ پر صمدی چھینٹوں سے جو لوٹنے والے ہیں بشری

الْبَشَرِيَّةِ الْمَوْصَلَةِ إِلَى مَنْ مَحْضِ السِّرِّي الْمَسْتَدِ الشُّعَاعِي مِنْ غَيْرِ أَحَدٍ

بشریوں سے جو پہنچانے والے ہیں طرف میری محض ستر ممتد نورانی سے بغیر استعمال کرنے

الَّذِي مِّنَ الْأَلَاتِ السَّبِيَّةِ الْغَيْرِ الْمَبْأَثَةِ لِعَالَمِ الْحِسِّ ثُمَّ أَقْبِنِي دَائِمًا

کے کوئی آلہ آلات سببیہ سے جو مشابہ نہیں ہیں عالم محسوسات کے پھر مجھے قائم رکھ ہمیشہ

إِلَى أَسْبَابِ السَّمَوَاتِ مِنْ غَيْرِ مَنَعٍ وَسَلِّبْ فِي الْعُرُوجِ إِلَى مِرْقَاتِ وَ

آسمانوں کی طرف چڑھنے والے راستوں میں بغیر کسی رکاوٹ اور سلب قوت کے عروج میں طرف بندی اور

عُرْوَانٍ غَيْرِ مُتَوَقِّفٍ عَلَى إِذْنٍ بَلْ مُتَدَرِّجًا بِدَرَجَةٍ مَعَ رُوحِيَّةٍ وَنَفْسٍ

تجاوز کے بغیر توقف کے اذن پر بلکہ درجہ بدرجہ چڑھتے ہوئے روحانیت اور پاکیزہ نفس

زَكِيَّةٍ تَابِعَةٍ لِرُوحٍ فِي خِيَالٍ مِّنْ غَيْرِ سَرَايَةٍ مِّنَ السَّرَايَاتِ الْأَرْضِيَّةِ وَ

کے ساتھ جو تابع ہے روح کے خیال میں بغیر تائید کے ارضی اور سماوی تاثیرات سے

السَّابِقِ حَتَّى تَصِيرَ مُنْقَطِعَةً مِّنَ الْإِلْتِقَاتِ السُّفْلِيَّةِ وَاجْعَلْ نَفْسِي

حتی کہ وہ منقطع ہو جائے سفلی توجہات سے اور بنادے میرے نفس کو

سَكَتًا سَكِيَّتًا عَنِ الْإِعْتِرَاضَاتِ فِي سَيْرِ الْخِيَالَاتِ الْوَحْدِيَّةِ فِي الْكَمَالَاتِ

بہت ہی خاموش اور ساکت اعتراضات سے خیالات اوحدیہ کی سیر میں طرف کمالات کے

وَرُوحِي عِنْدَكَ مُتَوَجِّهًا إِلَيْكَ بِفَنَاءِ حَوَادِثِثَاتٍ وَصُورِكَ وَمَوَانِعِ

اور میرے روح کو بنادے متوجہ اپنی طرف بسبب فنا کرنے حادثات کے اور موانع کے اپنے وصول اور

طَرِيقِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّمَدُ فَأَثِّرْ رُوحِي وَجَسَدِي أَنْتَ صَمَدِيَّتِكَ

اپنی راہوں سے۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے پس پیدا فرما میری روح و جسم میں اپنی صمدیت کے اثرات

حَتَّى لَا أَحْتَاجَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ ثُمَّ أَقْمِنِي فِي صُفُوفِ مَمْلُوكَتِكَ مِنْ

حتی کہ میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ پھر مجھے قائم فرما اپنے ملکوت کی صفوں میں بے

غَيْرِ وَعَوْلٍ فِي اجْتِمَاعِ أَشْجَارِكَ عِنْدَ قُدْسِكَ بَلْ بَاقِيًا مُشْخَصًا

بنا لے تیری بارگاہ قدس میں مجتمع اشجار میں بلکہ باقی و مشخص اور

وَحْدًا إِنِّي مُشَارًا إِلَى شَخْصِي هَذَا بَشَرِي مَعَ أَثَرِ مَمْلُوكَتِي تُشْرِفًا بِالشُّرُفَاتِ

منفرد ہوتے ہوئے اشارہ کیا گیا ہو میرے مجسمہ کی طرف کہ یہ ہے میرا بشر مع ملکوتی اثرات کے در آنجا لیکہ میں شرف ہوں

اللَّاهُوتِيَّةِ مِنْ غَيْرِ وَكُلِّ إِلَى عِبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ إِلَّا إِلَى رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ

لا ہوتی خلعتوں کے ساتھ بغیر کسی اپنے بندہ کے حوالے کئے ماسوائے اپنے رسول و حبیب

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُقِيمًا لَنَا عِنْدَ أَنْوَارِهِ وَدَرَجَاتِهِ خَادِمًا

محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جبکہ تو ہمیں قائم فرمانے والا ہوں ان کے انوار و درجات کے پاس بحیثیت باادب

مُؤَدِّبًا مُسْتَشْفَعًا بِهِ فِي كُلِّ لَسْحَةٍ وَلِحْظَةٍ مِّنْ لِّسَانِي إِكْرَامَاتِ

خادم کے جو ان سے طالب شفاعت ہو ہر لمحہ و ہر لحظہ میں تیرے غلبات اکرام کے

سَطْوَاتِكَ عَلَى اللَّهِمَّ إِنْ عَايَقَنِي جَنٌّ أَوْ إِنْسٌ أَوْ رُوحٌ حَسَدًا عَلَيَّ

لمحات میں سے۔ اے اللہ اگر رکاوٹ ڈالے کوئی جن یا انسان یا روح مجھ پر حسد کی وجہ

عِنْدَ سِيرِي إِلَى سُبْحِكَ فَلَا تَقْدِرُهُ عَلَى بِيخِيَالٍ أَوْ وَهْمٍ كَأَنَّ مُكْرَبًا

بوقت سیر کے تیرے خاص راستہ کی طرف۔ تو اسے مجھ پر قادر نہ کرنا خیال یا وہم کے ذریعے مانند سرگردان اور

إِذَا عَلَوْتُ أَوْ رَجَعْتُ يَا بَارًّا فَلَا شَيْءَ كَفُوهُ يَدَانِيهِ وَلَا أَمَّكَانَ

بار بار لوٹائے جانے والے کے جب بلندی کی طرف جاؤں یا لوٹوں۔ اے محسن کوئی شئی اس کی کفو اور قریب نہیں اور نہ اس کی توصیف

لِيُوصِفَهُ إِجْعَلْنِي بَارًّا فِي حَقِّ كُلِّ كَوْنٍ فِي عَالَمِ الْحَيِّسِ إِمَّا

کسی کے پس میں ہے۔ مجھے بنا کے موافق و سازگار عالم محسوس کے ہر موجود کے حق میں

بِالْأَفْعَالِ بِأَنْ أَتَوَاضَعَ لِطَالِبِيكَ وَأَخْدَمَ لِمُقَرَّبِيكَ يَا كَبِيرَ أُنْتِ

ساتھ افعال کے بایں طور کہ میں صاحب تواضع بن جاؤں تیرے اہل طلب کیلئے اور خادم بن جاؤں تیرے مقربین کے لیے۔ اے

الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ إِلَيْهِ فَحَمْدُكَ وَتَشْكُرُكَ وَنَسْجُدُكَ ثُمَّ

کیسے تو رہی ہے کہ جس کی طرف عقول راہ نہیں پاسکتے پس ہم حمد کریں اور شکر بجا لائیں اور سجدے کریں وہاں پر

بِإِقَامَةِ لَطِيفِكَ فِي مَقَامِ قَابِ قَوْسَيْنِ عِنْدَكَ فَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى

بسبب قائم کرنے تیرے عطا کردہ خاص لطیفہ کے تیرے ہاں قاب قوسین کے مقام میں پس نہ توجہ کریں ہم

كَأَنَّ رُوحِي أَوْ مَلِكِي وَلَا نَذْهَبُ إِلَى حُسْبَانِي أَنْتَ إِلَهٌ وَسَرَابٌ

کسی بھی روحانی یا ملکی مخلوق کی طرف اور نہ جائیں طرف اس گمان کے کہ وہ (لطیفہ) الہ اور رب

اللَّهُمَّ أَنْتَ مَكْبَرُ الْعُقُولِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمُبَلِّغُ لَهَا إِلَى الدَّرَجَاتِ الَّتِي

اے اللہ تو ہی بڑائی دینے والا ہے عقول بشریہ کو اور انہیں پہنچانے والا ہے ان درجات تک کہ جن

ظَنَّتْ لِأَهْلِهَا عُقُولُ الصَّالِحِينَ بِالْإِلَهِ وَالرَّبِّ وَهُمْ عِبَادٌ عِبَادُونَ

درجات والوں کو گمراہوں کے عقول نے الہ اور رب گمان کیا حالانکہ وہ اللہ کے انتہائی عبادت گزار بندے ہیں

مُكْرُونَ أَقْوَالِهِمْ وَظُنُونُهُمْ لَا عُنُونَ عَلَيْهِمْ بِأَقْبَحِ اللَّعْنَةِ اللَّهُمَّ

اہل ضلال کے اقوال اور فاسد گمانوں پر نفیریں کرنے والے اور ان پر قبیح ترین لعنتیں بھیجنے والے ہیں۔ اے اللہ

أَسْعِدْنِي مَعَ الَّذِينَ سَعِدُوا وَافِي رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

مجھے سعادت مند بنا ان سعادت مند لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی رحمت میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَلْسَتِهِ فِي الْجَلْسَاتِ وَعَلَىٰ قَعْدَاتِهِ
 سیدنا محمد و آل سیدنا محمد پر اور آپ کی نشست پر نشستوں میں اور تشدد پر

فِي الْقَعْدَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ
 تشددوں میں۔ اللہ عظیم کے نام کی برکت سے۔ اور حمد ہے اللہ کی دین اسلام پر اسلام

حَقٌّ وَالْكَفْرُ بَاطِلٌ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ التَّفَاقُحِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ
 برحق ہے اور کفر باطل ہے۔ اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک فرما اور میری شرمگاہ کو محفوظ فرما تمام

الْفَوَاحِشِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيَمْنَ وَالْبُرْكَهَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّومِ
 برائیوں سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یمن و برکت کا اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کی نحوست

وَالهَلَكَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ
 و ہلاکت سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنوں اور جنیات سے۔ اے اللہ میری اعانت فرما اپنے ذکر

وَعَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَىٰ صَلَاةِ حَبِيبِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ
 اور قرآن کی تلاوت پر اور اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درود و صلوات پر۔ اے اللہ

أَبْرَحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَرْضَ عَيْتِي وَأَنْتَ رَاضٍ عَنِّي غَيْرَ غَضَبَانَ
 مجھے جنت کی خوشبو سونگھا اور مجھ سے راضی ہو اور تو مجھ سے راضی رہنا ناراض نہ ہونا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ سُوءِ الدَّارِ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ الْبَخْتَارِ
 اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آتش دوزخ سے اور برے مکان سے بظہیل نبی مختار کی حرمت کے

وَالهِ الْأَبْرَارِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ
 اور آپ کی آل ابرار کے علیہ و علیہم الصلوٰۃ۔ اے اللہ روشن فرما میرے چہرہ کو اپنے نور کے ساتھ

تَبْيِضْ وَجْهَ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي بِظُلْمَتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُ وَجْوهُ
 جس دن تیرے اولیاء کے چہرے نورانی ہوں گے اور نہ سیاہ کرنا میرے چہرہ کو ظلمت کے ساتھ جس دن سیاہ ہونگے

أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبِي حِسَابًا يُسِيرًا
 تیرے اعداء کے چہرے۔ اے اللہ مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا اور مجھ سے آسان حساب لینا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے یا پیٹھ کے پیچھے سے

اللَّهُمَّ غَشِيَنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأِظْلِنِي تَحْتَ

اے اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کے ساتھ اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرما اور مجھے جگہ عطا کرنا

ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا يَظِلُّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ

عرش کے سایہ میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سایہ کے۔ اے اللہ مجھے بنا ان لوگوں سے

يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ أَسْمِعْنِي مُنَادِيَ الْجَنَّةِ

جو ہر قوم کو سنتے ہیں پھر احسن قول کی اتباع کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے سنوانا جنت کی منادی

مَعَ الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ فَكِّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ

نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے اللہ میری گردن کو آتش دوزخ سے آزاد فرما اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں دوزخ

وَالْأَغْلِلِ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَرِقَابَ آبَائِي اللَّهُمَّ

کی زنجیروں اور طوقوں سے۔ اے اللہ میری گردن نارحہم سے آزاد فرما اور میرے آباء کی گردنیں بھی۔ اے اللہ

ثَبِّتْ قَدَمِي وَقَدَمَ وَالِدَيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ

میرے قدموں کو اور میرے والدین کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت و راسخ فرما جس دن پھسلیں گے بہتیرے

فِي النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَنْزِلَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ

قدم آگ میں۔ اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری کہ پھسلے میرا قدم پل صراط پر سے جس دن

تَنْزِلُ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ

پھسلیں گے منافقوں اور کافروں کے قدم آتش دوزخ میں اے اللہ بنا مجھے توبہ

التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ

کرنے والوں سے اور بنا مجھے پاکیزہ لوگوں سے اور بنا مجھے اپنے نیک

الصَّالِحِينَ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا

بندوں سے جو جنات نعیم کے ورثاء ہیں۔ اور بنا مجھے ان لوگوں سے جن پر نہ

خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط وَأَجْعَلْنِي عَبْدًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي

خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور بنا مجھے شکر گزار بندہ اور مجھے اپنا

أَنْ أَذْكَرَكَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَأَسْبِحَكَ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا اللَّهُمَّ اشْفِنِي

بہت ذکر کرنے والا اور صبح و شام تسبیح کہنے والا بنا۔ اے اللہ مجھے شفا بخش

بِشْفَائِكَ وَدَاوِنِي بِدَاوِئِكَ وَعَافِنِي مِنَ الْبَلَاءِ وَأَعْصِمْنِي

اپنی مخصوص شفا کے ساتھ اور میری دور فرما اپنی مخصوص دوا کے ساتھ اور مجھے بلاؤں سے عافیت عطا کر اور مجھے محفوظ فرما

مِنَ الْاَهْوَالِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْاَوْجَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

ہولناک امور اور امراض اور دردوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَشْهَدُ فِي التَّشْهَدَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے تشہد پر تشہدوں میں

وَسَلَامُهُ فِي الْمَسَلِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آپ کے سلام پر سلام دینے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُنَاجَاتِهِ فِي الْمُنَاجَاتِ وَعَلَىٰ دُعَائِهِ

آل محمد پر اور آپ کی مناجات پر اہل مناجات میں اور آپ کی دعا پر

فِي الْاَدْعِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دعاؤں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَرُدِّهِ فِي الْاُورَادِ وَذِكْرِهِ فِي الْاَذْكَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر اور آپ کے ورد پر اوراد میں اور آپ کے ذکر پر اذکار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اسْتَغْفِرِيهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی استغفار پر

فِي الْمُسْتَغْفِرِينَ وَعَلَىٰ مُكَاشَفَاتِهِ فِي الْمُكَاشَفَاتِ اللَّهُمَّ اِنِّكَ

اہل و مستغفار میں اور آپ کے مکاشفہ پر تمام مکاشفات میں۔ اے اللہ بے شک تو

تَعْلَمُ أَنِّي عَاجِزٌ عَلَى إِقَامَةِ سَبَابِ حُصُولِي عَلَى الْكَمَالَاتِ وَوُصُولِي

جانتا ہے کہ میں عاجز ہوں کمالات کے حصول کے اسباب قائم کرنے سے اور

إِلَى الْمَطَالِبِ الْكَلْبِيَّةِ وَأَعْلَى الْمَقَامَاتِ إِلَّا أَنِّي مُتَوَسِّلٌ بِالصَّلَاةِ وَ

مطالب کلیہ اور اعلیٰ مقامات تک وصول و رسائی سے مگر میں وسیلہ بناتا ہوں صلوات و

التَّسْلِيمَاتِ عَلَى مَنْ هُوَ لَهَا أَهْلٌ وَلَا تَرُدُّ سَوَالَ الْمَتَوَسِّلِ بِهِ

تسلیات کو جو بھیجتا ہوں اس ذات پر جو ان کے لائق ہیں اور تو رد نہیں فرماتا ان سے توسل کرنے والے کا سوال

فَأَجِبْ سُؤَالَي وَأَغْنِ قَلْبِي وَأَحْفَظْنِي وَأَوْلَادِي مِمَّا لَا تَرْضَاهُ

پس میرا سوال پورا فرما اور میرے دل کو غنی فرما اور مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما ان سے جو تجھے پسند نہیں

مِنَ التَّذَلُّلِ عَلَى بَابِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ تَأْخِيرُ اجَابَةِ

یعنی ذلت اٹھانے سے دنیا اور اہل دنیا کے دروازے پر۔ اے اللہ اگر میری دعا کی قبولیت میں

دُعَائِي مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْحُقُوقِ الَّذِينَ قَصَرْتُ فِي حُقُوقِهِمْ

تأخیر کسی حقدار کی طرف سے ہے جن کے حقوق میں نے کوتاہی کی ہے

فَارْضِهِ عَنِّي وَأَتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ التَّقْصِيرِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ الذُّنُوبِ

تو اسے میری طرف سے راضی فرما اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس کوتاہی سے۔ اور اگر میرے گناہوں

وَالْعِصْيَانِ فَإِنِّي اعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي وَتَبْتُ إِلَيْكَ فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّكَ

اور عصیان کی وجہ سے ہے تو میں نے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے پس مجھے بخش دو

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ إِذْ قُلْتَ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ

کیونکہ گناہ نہیں بخشتا مگر تو ہی جبکہ تو نے فرمایا ہے "نامید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے بیشک

اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنْ كَانَ

اللہ تمام گناہ بخشتا ہے۔ بیشک وہی غفور رحیم ہے اور اگر یہ تاخیر

بِسَبَبِ مَا نَعِيَ آخِرًا لَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَادْفَعْ ذَلِكَ

کسی دوسرے مانع کی وجہ سے ہے جسے میں نہیں جانتا اور تو سب غیوب کا علم کامل رکھتا ہے تو دور فرما اس

الْمَانِعَ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ عِنْدَكَ وَأَجِبْ دُعَائِي وَدُعَاءَ

مانع کو محمد کریم کی عزت و حرمت اور شرف کے طفیل جو تیرے ہاں ہے اور میری دعا قبول فرما اور ہر اس شخص کی

كُلِّ مَنْ التَّجَىٰ إِلَىٰ وَدُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَدُعَاءَ مَنْ تَوَسَّلَ

جس نے میری طرف پناہ لی اور تمام مومنین و مومنات کی دعا اور دعا پر اس شخص کی جس نے

بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا۔ اللہ کی طرف سے صلوات و سلام ہو آپ پر اور تمام انبیاء و مرسلین پر

الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَحْبَابِهِ أَجْمَعِينَ

اور تمام مقرب ملائکہ پر اور آپ کی آل و اصحاب اور ازواج و احباب سبھی پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ الْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِهِ الْمُتَّصِفِينَ بِحُبِّهِ الْهَادِينَ

اے اللہ ہمیں بنا دے آپ کی شریعت کی اتباع کرنے والوں سے، آپ کی محبت سے موصوف لوگوں سے، اور

بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَتَوْفَاتِهِ عَلَىٰ سُنَّتِهِ وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ وَ

ہدایت پانے والوں سے آپ کی سیرت و کردار کے ساتھ اور ہمیں وفات دینا آپ کی سنت پر اور ہمیں محروم نہ رکھنا آپ کی

أَحْسَرْنَا فِي اتِّبَاعِهِ الْغُرَّ الْمُحْجَلِينَ وَأَشْيَاعِهِ السَّابِقِينَ وَأَصْحَابِ

شفاعت والے فضل و احسان سے اور ہمیں اٹھانا آپ کے روشن چہروں اور نورانی اعضاء والے متبعین میں اور آپ کے سبقت لیجانے والے

الْيَسِينِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

گروہوں اور وائیں جانب والوں میں اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صَوْمِهِ فِي الصَّوَامِ وَعَلَىٰ إِفْطَارِهِ فِي

آل محمد پر اور آپ کے روزہ پر روزہ داروں میں اور آپ کے افطار پر

الْمِفْطِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل افطار میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَىٰ تَرَاوِيحِهِ فِي التَّرَاوِيحَاتِ وَعَلَىٰ سُحُورِهِ فِي الْمَسْحُورَاتِ

اور آپ کی تراویح پر تراویحات میں اور آپ کی سحری پر سحریوں میں۔

میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ

إِعْتِكَافِهِ فِي الْمُعْتَكِفِينَ وَعَلَى أَضْحِيَّتِهِ فِي الضَّحَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے اعتکاف پر اعتکاف والوں میں اور آپ کی قربانی پر قربانیوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَلَوَاتِهِ فِي الصَّلَوَاتِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی صلوٰۃ پر صلوات میں اور

عَلَى مُصَلِّيَيْهِ فِي الْمُصَلِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آپ پر درود بھیجنے والے پر درود بھیجنے والوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسَلِّمِيهِ فِي الْمُسَلِّمِينَ وَعَلَى زَكَاوَاتِهِ فِي الزَّكَاةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر سلام بھیجنے والوں میں اور آپ کی زکوٰۃ پر زکوٰۃوں میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِمِيَّتِهِ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے چرنے والے جانوروں پر

السَّوَائِمِ وَعَلَى عَرُوضِهِ فِي الْعَرُوضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چرنے والوں میں اور آپ کے ساز و سامان پر ساز و سامانوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَالِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَدِرْهَمِهِ فِي الدَّرَاهِمِ

و آل محمد پر اور آپ کے مال پر اموال میں اور درہم پر درہم میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ

دِينَارِهِ فِي الدَّنَانِيرِ وَعَلَى رِيَالِهِ فِي الرِّيَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دینار پر دیناروں میں اور ریال پر ریالوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قُرُوصِهِ فِي الْقُرُوصِ وَعَلَى

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی روٹی پر روٹیوں میں اور آپ کے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قُرُوصِهِ فِي الْقُرُوصِ وَعَلَى

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی روٹی پر روٹیوں میں اور آپ کے

عَشْرِينَ فِي الْعَشْرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر بیسیوں میں۔

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَشْرَتِهِ فِي الْعَشْرَاتِ وَخَمْسَتِهِ فِي الْخُمُسَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی

مِيرَاتِهِ فِي الْمَوَارِيثِ وَعَلَى وَقْفِهِ فِي الْأَوْقَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى دِينِهِ فِي الدُّيُونِ

وَتَرَكَتِهِ فِي التَّرَكَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حِجَّتِهِ فِي الْحُجَّاجِ وَقَرَانِهِ فِي الْقَارِنِينَ اللَّهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَمَتُّعِهِ

فِي الْمَتَمَتِّعِينَ وَحَصْرِهِ فِي الْمَحْصَرِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَدْيِهِ فِي الْهَدَايَا وَعُمُرَتِهِ فِي

الْمُعْتَمِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى زَادِهِ فِي الْأَزْوَادِ وَرَاحِلَتِهِ فِي الرَّاحِلَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

پر اور آپ کے سفر خراج پر جملہ زاد راہ میں اور آپ کی سواری اونٹنی پر تمام اونٹنیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِيقَاتِهِ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی جائے احرام پر

الْمَوَاقِيتِ وَعَلَى أَحْرَامِهِ فِي الْمَحْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جملہ احرام کی جگہوں میں۔ اور آپ کے احرام پر جملہ اہل احرام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَلْبِيئِهِ فِي الْمَلْبِيِّينَ وَعَلَى

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے تلبیہ کہنے پر تمام تلبیہ کہنے والوں میں اور آپ

إِسْتِلامِهِ الْحَجْرَ الْأَسْوَدَ فِي الْمُسْتَلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے حجر اسود کا بوسہ لینے پر تمام اہل استلام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِسْتِلامِهِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے رکن یمانی کے استلام پر

فِي الْأَرْكَانِ وَعَلَى تَكْبِيرِهِ فِي الْمُكَبِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تمام ارکان و جوانب کعبہ میں اور آپ کی تکبیر پر تمام تکبیر کہنے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَهْلِيلِهِ فِي الْمَهْلِيِّينَ وَ

سیدنا محمد اور آل محمد پر اور آپ کے لالہ الہ اللہ کہنے پر تمام اہل تہلیل میں اور

اضْطِبَاعِهِ فِي الْمُضْطَبِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی اس کیفیت احرام پر تمام اہل اضطباع میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَمْلِهِ فِي الرَّمْلِيِّينَ وَعَلَى سَوِّطِهِ فِي

اور آل محمد پر اور آپ کے رمل (دوران طواف دوڑ) پر رمل کرنے والوں میں۔ اور آپ کے ایک جگر

الْأَشْوَاطِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پر تمام جگہوں اور گردشوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَوَافِهِ فِي الطَّوَافِ فَيُنَّ وَسَعِيهِ فِي السُّعَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر اور آپ کے طواف پر تمام طواف کرنے والوں میں اور آپ کی سعی (صفا و مروہ میں دوڑ) پر تمام سعی والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَنْسِكَ فِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی قربانی اور جائے عبادت پر جملہ

الْمَنَاسِكِ وَمَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مناسک میں اور آپ کے موقف (عرفات یا مزدلفہ میں قیام) پر جملہ موافق میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَصَاتِهِ فِي الْحَصِيَّاتِ وَجَمْرَتِهِ فِي

اور آل محمد پر اور آپ کی کنکری پر کنکریوں میں اور آپ کے جمرہ پر

الْجَمْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جمرات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَدَنِهِ فِي الْبُدُنِ وَحَلِقَتِهِ فِي الْحَلِيقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کے ذبح کئے جانے والے اونٹوں پر اونٹوں میں اور آپ کے سراقس منڈانے پر تمام اہل حلق میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى نِكَاحِهِ فِي النِّكَاحِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے نکاح پر نکاحوں میں

وَشَاهِدِيهِ فِي الشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور آپ کے دو گواہوں پر تمام گواہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَلِيِّهِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى كُفْرِهِ فِي الْأَكْفَاءِ

آل محمد پر اور آپ کے ولی پر اولیاء میں اور کفر قبیلہ کے نسب و حسب پر تمام اکفاء میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَهْرِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے حق مہر پر

فِي الْمَهْرِ وَقَسْبِهِ فِي الْأَقْسَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مہروں میں اور آپ کے باریاں مقرر کرنے پر باریوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَلْقِهِ فِي الطَّلَقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و آل محمد پر اور آپ کی طلاق پر راگڑیتے تمام طلاقوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فَرَسِهِ فِي الْأَفْرَاسِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے گھوڑے پر گھوڑوں میں

وَجَنِيْبَتِهِ فِي الْجَنَائِبِ وَنَعْمِهِ فِي الْأَنْعَامِ وَجَمَّازِيَتِهِ فِي الْجَمَّازَاتِ

اور آپ کے کوزل گھوڑے پر کوزل گھوڑوں میں اور چار پاویں پر چار پایوں میں اور آپ کے تیز دوڑانے پر دوڑوں میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَاتِيَتِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی بھری پر

فِي الشِّيَاهِ وَبَعْلِهِ فِي الْبِغَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بھریوں میں اور بچھر پر بچھروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمَلِهِ فِي الْجَمَالِ وَنَاقِيَتِهِ فِي النَّوْقِ

آل محمد پر اور آپ کے اونٹ پر اونٹوں میں اور اونٹنی پر اونٹنیوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

مَطِيْتِيَتِهِ فِي الْمَطَايَا وَدُجَاجِهِ فِي الدُّجَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آپ کی سواری پر سواریوں میں اور مرغ پر مرغوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دِيْكِهِ فِي الدِّيُوكِ وَعَلَىٰ

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے مرغ پر مرغوں میں اور آپ کے

دُلْدُلِيَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دلدل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

وَعَلَىٰ بَرَاقِهِ وَيَعْفُورِهِ وَقَصْوِيَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور آپ کے براق اور یعفور (دراز گوش) اور قصواؤ اونٹنی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْشُورِهِ فِي الْمَنَاشِيرِ وَشَجَاعَتِهِ

محمد و آل محمد پر آپ کے منشور پر تمام منشوروں میں اور آپ کی شجاعت

فِي الشَّجَعَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر اہل شجاعت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَلَاحِهِ فِي الْأَسْلِحَةِ وَجُرَيْتِهِ فِي الْجُرَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر اور آپ کے ہتھیار پر ہتھیاروں میں اور آپ کے چھوٹے نیزہ پر ایسے نیزوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رُحْمِهِ فِي الرِّمَاحِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے نیزہ پر نیزوں میں

وَتَخَنُّبِهِ فِي الْخَنَابِرِ وَسَيْفِهِ فِي السُّيُوفِ وَمَعْوَلِهِ فِي الْمَعْوَالِ وَجَنَّتِهِ

اور تخنجر پر خنجروں میں اور آپ کی تلوار پر تلواروں میں اور کدال پر کدالوں میں اور ڈھال پر

فِي الْجُنَّانِ وَسُوطِهِ فِي الْأَسْوَابِ وَسَهْمِهِ فِي السَّهَامِ وَجَعْبَتِهِ فِي

ڈھالوں میں اور چھڑی پر چھڑیوں میں اور تیر پر تیروں میں اور ترکش پر

الْجَعَابِ وَنُصْلِهِ فِي النَّصُولِ وَقَوْسِهِ فِي الْأَقْوَامِ وَمِحْبَتِهِ فِي

ترکشوں میں اور تیر کے پھل پر پھلوں میں اور کمان پر کمانوں میں اور ٹیڑھے سرواے

الْمَحَاجِنِ وَدِرْعِهِ فِي الْأَدْرَاعِ وَبَيْضَتِهِ فِي الْبَيْضَاتِ وَلِوَأَيْهِ فِي الْأَلْوِيَةِ

عصا پر ایسے عصاؤں میں اور آپ کی زرہ پر زرہوں میں اور خود پر خودوں میں اور پرچم پر پرچموں میں

وَعَسْكَرِهِ فِي الْعَسَاكِرِ وَنَاصِيحِهِ فِي النَّوَاصِحِ وَمَعْسُكِرِهِ فِي الْمَعْسُكِرَاتِ وَ

اور لشکر پر لشکروں میں اور آپ کے ہر مخلص پر مخلصوں میں اور پڑاؤ کی جگہ پر ان جگہوں میں اور

مَلْحَمَتِهِ فِي الْمَلَا حِمِوْرَ اِكِبِه فِي الرِّكْبَانِ وَحَرْبِهِ فِي الْأَحْرَابِ وَخَيْمَتِهِ

آپ کی جنگ پر جنگوں میں اور آپ کے اونٹ سواروں پر سواروں میں اور آپ کی جماعت پر جماعتوں میں اور خیمہ

فِي الْخِيَامِ وَوَتْدِهِ فِي الْأَوْتَادِ وَدَعَامَتِهِ فِي الدَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر خیموں میں اور میخ پر میخوں میں اور خیمہ کے ستون پر ستونوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلَّمَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طُنْبِهِ فِي الْأَطْنَابِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے خیمہ کے رسم پر رسول میں

وَعَزُوتِهِ فِي الْغَزَوَاتِ وَسِرِّيَّتِهِ فِي السَّرَايَا وَجِهَادِهِ فِي الْمَجَاهِدِينَ

اور آپ کے عزوہ پر غزوات میں اور سریہ پر سرایا میں اور آپ کے جہاد پر اہل جہاد میں

وَحَرْبِهِ فِي الْحُرُوبِ وَعَيْرِهِ فِي الْعِيرَاتِ وَقَتْحِهِ فِي الْفُتُوحِ وَمُلْكِهِ

اور حرب پر حروب میں اور قافلہ پر قافلوں میں اور فتح پر فتوحات میں اور آپ کے ملک پر

فِي الْأَمْلاَكِ وَسُلْطَنَتِهِ فِي السَّلَاطِينِ وَغَنِيمَتِهِ فِي الْغَنَائِمِ وَأَسِيرِهِ

ملکوں میں اور سلطنت پر سلطنتوں میں اور مال غنیمت پر اموال غنیمت میں اور آپ کے مسلمان قیدی

فِي الْأَسَارِيِّ وَنَصِيْبِهِ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَمَرَضِهِ فِي الْأَمْرَاضِ وَصِحَّتِهِ

پر قیدیوں میں اور آپ کے حصہ پر جملہ حصص میں اور آپ کے مرض پر امراض میں اور صحت پر

فِي الْأَصْحَاءِ وَحُمَّتِهِ فِي الْحُمِّيَّاتِ وَصُدَاعِهِ فِي الْمُصَدُّوعِينَ وَكُرْبِهِ

اہل صحت میں اور آپ کے تپ پر جملہ تپوں میں اور آپ کے درد سر پر تمام سر دردوں میں اور آپ کی تکلیف پر

فِي الْكُرْبِ وَوَجْعِهِ فِي الْأَوْجَاعِ وَدَوَائِهِ فِي الْأَدْوِيَةِ وَعِلَاجِهِ

تمام تکلیف میں اور درد پر تمام دردوں میں اور آپ کی دوا پر تمام ادویات میں اور آپ کے علاج پر

فِي الْمَعَالِجَاتِ وَوَصِيَّتِهِ فِي الْوَصَايَا وَسُكْرَتِهِ فِي السُّكْرَاتِ وَ

تمام علاجوں میں اور آپ کی وصیت پر تمام وصیتوں میں اور آپ کی مدہوشی اور استغراق پر تمام مدہوشیوں میں اور

شَهَادَتِهِ فِي الشُّهَدَاءِ وَمَوْتِهِ فِي الْأَمْوَاتِ وَتَغْسِيلِهِ وَتَعْزِيَّتِهِ

آپ کی شہادت پر تمام شہیدوں میں اور آپ کے وصال پر تمام اموات میں اور آپ کے غسل دئے جانے پر اور تعزیت فرمانے

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَ لِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى

پر۔ بیشک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے دیا اور ہر چیز اس کے ہاں معین مدت

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُقَلَّبُ لِأَفْعَالِي مِنْ الْمَذْمُومَاتِ إِلَى الْمَحْمُودَاتِ

کے ساتھ ہے۔ اے اللہ تو ہی بدنے والا ہے میرے افعال کو مذمومہ سے محمودہ کی طرف

وَأَنْتَ الْمَرْجَحُ الْمَخْتَارُ لَا زَالَ فِي الْأَزَلِ وَفِيمَا لَا يَزَالُ اخْتِيَارُكَ

اور تو ہی ترجیح دینے والا مختار ہے جس کا ازل سے ابد تک اختیار قائم و دائم ہے۔ اور

أَدْخَلَ الرَّفْقَ وَالرَّأْفَةَ فِي أَعْمَالٍ مَوْضُوعَةٍ فِي مَحَالِّهَا مِنْ غَيْرِ ظَلَمٍ فِي

داخل فرمایا اور مہربانی ان اعمال میں جو اپنے عملوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ بغیر ظلم سرزد ہوئے (مجھ سے)

حَقِّ أَيِّ كَوْنٍ إِنْسِيًّا أَوْ حَيَوَانِيًّا بَرِّيًّا أَوْ مَائِيًّا وَاجْعَلْ لَهُ فِعْلَ كُلِّ مَا

کسی بھی موجود و مخلوق کے حق میں انسانی ہو یا حیوانی اور خشکی والا ہو یا پانی والا۔ اور پیدا فرما اس کے لیے فعل ہر اس امر کا

يَجْعَلُ لِنَفْسِي بِالْإِخْتِيَارِ وَالرِّضَاءِ وَأَمَّا بِالْأَقْوَالِ فَأَخْرِجْهَا مِنْ

جسے کرے میرے نفس کے لیے اپنے اختیار و رضا سے۔ لیکن اقوال پس نکال انہیں میری

لِسَانِي وَفِي مَرْضِيَّةٍ مَّحْبُوبَةٍ عِنْدَكَ وَعِنْدَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

زبان اور منہ سے اس حال میں کہ پسندیدہ و محبوب ہوں تیرے نزدیک اور تیرے نیک بندوں کے نزدیک

مُطْلَقَةً مِّنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى قَصُورٍ مِّنْ نَّقْصِ حَقِّ كُلِّ كَوْنٍ إِلَّا فِي

اور مطلق ہوں۔ بغیر اضافت و نسبت کے طرف کوتاہی و نقص کے کسی بھی مخلوق کے حق میں مگر تیرے

أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ رُسُلِكَ فَأَنْفِذْ أَقْوَالِي بِالضَّرْبِ النَّفْسِيِّ وَالْمَالِيِّ

اعدا اور تیرے رسل کرام کے اعداء کے حق میں۔ پس نافذ فرما میرے اقوال کو ان میں جانی اور مالی

فِيهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مَقْهُورِينَ وَمَكْسُورِينَ فَيَغْلِبُ عِبَادُكَ الْمُؤْمِنُونَ

ضرور نقصان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مقہور و مغلوب ہو جائیں پس غالب ہو جائیں (ان پر) تیرے مومن بندے

الْبَطِيعُونَ لِأَوْامِرِكَ وَأَحْكَامِكَ وَإِمَّا بِالْأَوْهَامِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ

اور اطاعت گزار تیرے اوامر و احکام کے۔ اور لیکن اوہام و اعتقادات فاسدہ پر

فِي حَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ فَاجْعَلْ وَهْبِي وَظَنِّي غَيْرَ دَمَلِقٍ وَأَعْلِمْ لِقَلْبِي

مومن کے حق میں پس بنانا میرے وہم اور ظن کو ناہموار اور جوش میں لانا میرے دل کو

عَلَى وَجْهِ يَكُونُ عِبَادُكَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَإِنْ أَقْبَلْتَنِي الْعَزِيمُ

اس طریقہ پر کہ تیرے بندے اس طریقہ پر ہوں۔ اگرچہ مانع ہو مجھے نفس مدنی

الْمُدَنِي فِي رُوحِي وَجَنَسِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ مُطَهِّرُ الْقُلُوبِ عَنْ صَدَائِبِ

و محتاج تعاون میرے روح اور اس کی جنس میں۔ اے اللہ تو دلوں کو پاک کرنے والا ہے و ہمیات کے

الْوَهْبِيَّاتِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ الْمُسْتَعَاذَاتِ مِنْهَا بِأَنْوَارِ الْهَادِيَةِ الْبَارَّةِ

زنگ سے اور ان اعتقادات کے زنگ سے جو پناہ طلب کرنے کے لائق ہیں ساتھ اپنے

بِحَقِّ الْبِرَّةِ الْهَادِيَةِ الْبَارَّةِ بِحَقِّ الْبِرَّةِ الْهَادِيَةِ إِجْعَلْ خَطَرَاتِ

انوار کے جو رہنما اور محسن ہیں بطفیل اپنے نیکو کاروں، رہبروں اور محسنین کے میرے دل کے خیالات کو

قَلْبِي مَبْرُورَةً عَرِيضًا إِلَى مَلِكُوتِكَ مُرْسَلًا مُلْصِقًا بِرُهْدِ الْعَبْدِ بِحَسَنِ

درست و نیک بنادے پرواز کرتے ہوئے تیرے ملکوت کی طرف آزادی کی حالت میں درآخا یکہ متصل ہو اس عبد کی نیکی

التَّصَوُّرَاتِ وَالْإِدْرَاكَاتِ فِي حَقِّهِمْ عَلَى وَجْهِ انِّصَافِهِمْ عَالِمًا لِمَا فِي

اچھے تصورات و علوم کے ساتھ ان کے حق میں ان کے انداز انصاف کے مطابق جانتے ہوئے ان کے

نَفْسِهِمْ مِّنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي يَتَجَاوَبُونَ بَيْنَهُمْ وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْأَسْرَارِ

نفس والے اقوال کو جن کے ساتھ وہ باہم سوال و جواب کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں ایسے اسرار کے ساتھ

الَّتِي هِيَ كَامِنَةٌ عَنْ أَعْيَانِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْجِنِّيَّةِ الْيَفَامَعَهُمْ بِالْمَحَبَّةِ

جو پوشیدہ ہیں انسانوں اور جنوں کی ذاتوں سے الفت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت

التَّامَّةِ مِنْ غَيْرِ مُصِيبَةٍ فِي آلَةٍ مِّنَ الْآتِي وَمِنْ غَيْرِ فَقْدِ شَخْصٍ أَرْضِي

تمام کے طور پر بغیر کسی درستگی و اصلاح کے میرے آلات میں سے کسی آلہ میں اور بغیر کہنے کسی شخص کے

طَالِعَةً هُنَالِكَ الْجَمَالَاتِ الْقُدْسِيَّةِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِغْرَاقِ فَارِعًا

درآخا یکہ طلوع کرتے والے ہوں وہاں پر جمالات قدسیہ استغراق و احاطہ کی حالت میں درآخا یکہ میں فارغ ہوں

عَنْ كُلِّ الْهَمِّ وَمِنْ فَارِحَاتِ الْقُدْسِيَّةِ السُّبُوحِيَّةِ بِسُحُبَاتِ النَّقَبَاءِ

تمام غموں سے۔ ممکنے والا ہوں ساتھ تسبیح خوان قدسیوں کے ساتھ تسبیحات خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ

الْإِلَهِيَّةِ الْعَرْشِيَّةِ بِأَدَانِي حَقِّهِمْ بِالْإِعْتِقَادِ الْجَمِيلِ وَالشَّنَاءِ

عرش کے نگرانوں کے، بانٹتے ہوئے ان کے حق میں اپنے جمیل اعتقاد اور لائق ستائش شناء کو

الْحَمِيدُ فَلَا يَمِثُّ لِي أَحَدٌ فِي الطَّاعَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ ثَمَّةً إِلَّا مِنْ أُمَّتِي

پس میری برابری نہ کر سکے وہاں پر کوئی شخص اطاعت اور مشاہدہ میں مگر جس کے لیے تو ارادہ فرمائے

ذَلِكَ فَلَا يَقْرِبُنِي مَلِكٌ أَرْضِيٌّ وَلَا يَبْغِي بِي مَهْدًا أَوْ

پس نہ قریب ہو میرے کوئی ارضی فرشتہ موت کے ساتھ اور نہ رکاوٹ کے ساتھ بلکہ امدادی کے طور پر یا

مُعَدًّا سَاكِنًا مَمْنُوعًا عَنِ الْفِعْلِ وَالتَّأْتِيرِ فِي الضَّرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

استعداد پیدا کرتے ہوئے پرسکون حالت میں جبکہ وہ ممنوع ہو ضرورے فعل و تاثیر سے۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِأُمَّتِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے اُمت کو فرمایا

إِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِحُضُورِ الْمَيِّتِ وَبِدَفْنِهِ وَيُنْبَغِي

کہ تم میں سے اگر کوئی فوت ہو تو اس کے پاس حاضر ہونا اور اسے دفن کرنا تم پر لازم ہے اور لائق ہے

لِحَيِّهِمْ يَدْعُونَ اللَّهَ لَهُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

ان میں سے زندہ کے لیے کہ اس کے لیے دعا کریں اور کہیں لے اللہ اسے بخش لے اللہ اسے بخش

وَأَرْحَمَهُ وَعَافِهِ وَأَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرَمُ نَزْلَهُ وَأَوْسَعُ مَدْخَلَهُ وَ

اس پر رحم فرما۔ عافیت دے اور درگزر فرما اور اس کی صمانی باعزت فرما اور اس کی قبر وسیع فرما اور

اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْبِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ

اسے دھو پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ اور گناہوں سے پاک فرما جیسے تو نے پاک فرمایا

التُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَنْزِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا

سفید کپڑے کو میل کچیل سے اور اسے اتار دنیوی مکان سے بہتر مکان میں اور بہتر قریبی

خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ

عطا فرما دنیوی قریبیوں سے اور بیوی جو بہتر ہو دنیوی بیوی سے اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ مِنْهَا خَلَقْتُمْ وَفِيهَا تَعَذَّبْتُمْ

عذاب قبر سے اور عذاب دوزخ سے بچا " اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لوٹائیں گے

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ

اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے " اللہ کے نام کی برکت سے اور اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ

رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

کی ملت پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ اور میں گواہی دیتا ہوں

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أُمَّتِهِ وَ

کہ محمد اس کے عبد خاص اور رسول برحق ہیں اور یہ کہ عیسیٰ اللہ کے عبد، اس کی باندی کے بیٹے اور

كَلِمَتُهُ الْقَرْمَلِي مَرِيحًا وَرُوحًا مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ

کلمۃ اللہ ہیں جسے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی پیدا کردہ مخصوص روح ہیں اور بیشک جنت برحق اور دوزخ

وَعِنْدَ الْمَرِيضِ أَذْهَبِ الْبَأْسُ رَبِّ النَّاسِ إِشْفِيهِ فَإِنَّتِ الشَّافِي لَا

برحق ہے اور مریض کے پاس رکھیں اے جا اس کی بیماری اور شدت کو اے رب انسانوں کے، اسے شفا بخش پس تو ہی شفا دینے والا

شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِبَصَرِي وَاجْعَلْهُ

ہے نہیں ہے شفا مگر صرف تیری شفا، ایسی شفا ہے جو نہ چھوڑے کسی طرح کی بیماری کو۔ اے اللہ مجھے نفع اندوز فرما میری بصارت کے ساتھ

الْوَارِثِ مَنِّي وَأَمْرِي فِي الْعُدُوِّ ثَارِيًا وَأَنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنِي بِسْمِ

اور بنا اسے میرا وارث۔ اور دکھلا مجھے میرے دشمن میں ہلاکت و مواخذہ اور میری مدد فرما مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف

اللَّهِ الْكَبِيرِ نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرَقٍ تَعَارَوْا مِنْ شَرِّ حَرِّ

اللہ کبیر کے نام کی برکت سے۔ ہم اللہ عظیم کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر پھڑکنے والی رگ کے شر سے اور آگ کی حرارت

النَّارِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ

کے شر سے۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو اور وفات دینا جب

الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي بِسْمِ اللَّهِ تَرْبِيَةٌ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا يَشْفِي بَهَا

وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی رجولی ہوئی ہے اہم اے بعض کے لعاب دہن کے ساتھ شفا پاتا ہے اس

سَقِيمِنَا بِأَذْنِ رَبِّنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجْدُو أَحْذَرُ

کے ساتھ ہمارا بیمار ہمارے رب کے اذن سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی قدرت کی ہر اس شئی کے شر سے جو باتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ

مَرْقَدِهِ فِي الْمَرَاقِدِ وَلِحَدِيثِهِ فِي الدُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے مرقد پر مرقدوں میں اور الحد پر الحدوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَقَّارِهِ فِي الْحَقَّارِينَ وَعَلَى صَلَواتِهِ

محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی قبر اور کھودنے والے پر قبریں کھودنے والوں میں اور آپ کی صلوات

جَنَازَتِهِ فِي الصَّلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جنازہ پر ان صلوات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لَبْنَتِهِ فِي اللَّيْنَاتِ وَعَلَى تُرَابِهِ فِي التُّرَابَانِ اللَّهُمَّ

کی آل پر اور آپ کی قبر کی لچی اینٹوں پر ان اینٹوں میں اور آپ کی تراب و خاک پر خاکوں میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَقْبَرَتِهِ فِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے مقبرہ پر

الْمَقَابِرِ وَمَدْفِنِهِ فِي الْمَدَائِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقابر میں اور دفن کی جگہ پر ان جگہوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَزَارِهِ فِي الْمَزَارَاتِ وَقُبَّتِهِ فِي الْقُبَّاتِ

و آل محمد پر اور آپ کے مزار شریف پر مزارات میں اور قبۃ مقدسہ پر قبہ جات میں

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَأَعْقِبِي مِنْهُ عَقِبَةٌ حَسَنَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

لے اللہ مجھے بخش اور میرے متوفی کو بخش اور مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما۔ لے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے وجود اقدس والی جگہ پر جگہ

الْمَشَاهِدِ وَعَلَى رَوْضَتِهِ فِي الرُّوضَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مشاہد میں اور آپ کے روضہ اقدس پر تمام روضہ جات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَتْدِيلِهِ فِي الْقَنَادِيلِ وَزِيَارَتِهِ

محمد و آل محمد پر اور آپ کے روضہ اقدس کی نورانی مشعل پر تمام قندیلوں میں اور آپ کی زیارت

فِي الزَّائِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پر تمام اہل زیارت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى زَائِرِهِ فِي الزُّوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور آپ کے زیارت کرنے والے پر زائرین میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى بَعْتِهِ فِي الْبَعُوثِ وَلِوَأَيْهِ فِي الْأَلْوِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کے لشکر پر شکر میں اور آپ کے پرچم پر پرچموں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَفَاعَتِهِ الْعُظْمَى فِي

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی شفاعت عظمیٰ پر تمام شفاعات

الشَّفَاعَاتِ وَمَقَامِهِ الْمَحْمُودِ فِي الْمَقَامَاتِ اللَّهُمَّ افسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ

میں اور آپ کے مقام محمود پر جملہ مقامات میں۔ اے اللہ فراخی و کشادگی فرما ان کیلئے اپنی جنت عدن

وَاجْزِهِ مَضَاعِقَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مَهْنَاتٍ لَهُ غَيْرِ مَكْدَرَاتٍ

میں اور جزاء دے کئی گنا خیرات کی اپنے فضل سے جو خوشگوار ہوں ان کے لیے نہ مکدر

مِنْ فَوْرِ ثَوَابِكَ الْمَحْلُولِ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ وَأَنْ تُعْطِيَهُ

اپنے فوری ثواب سے جو واجب کیا ہوا ہے (ازروئے تیرے فضل کے) اور اپنے عظیم عطا سے جو بار بار دی جانے

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْحَوْضَ الْمُرْوَدَ وَ

والی ہے اور عطا کرے انہیں مقام وسیلہ و فضیلت اور بلند درجہ اور حوض کوثر جس پر بہتت وارد ہونے والے ہوں

الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَالْعِزَّ الْمُرْوَدَ وَأَنْ تُعْطِمَ بَرَهَانَهُ وَأَنْ تُشْرِفَ

اور مقام محمود اور بہت وسیع عزت اور عظیم فرمائے ان کے برہان کو اور شرف بخشے ان کی

بِنْيَانَهُ وَأَنْ تُرْفَعَ مَكَانَهُ اللَّهُمَّ اَعْلِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ وَ

بنیادوں کو اور بلند فرمائے ان کے مکان کو۔ اے اللہ بلند فرما لوگوں کی بناؤں پر ان کی بناء کو اور

اَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزَلَهُ وَاَتَمُّ لَهُ تُوْرَةً وَاَجْرَةً مِنْ اِبْتِعَانِكَ

عزت و کرامت والا بنا ٹھکانا ان کا اپنے ہاں اور مہمانی ان کی اور کامل فرما ان کا نور اور جزا دے انہیں بیعت فرمانے کی

لَهُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ الْبِقَالَةِ ذَامِنِطِقِ عَدْلِ وَخُطَّةِ

انہیں اس حال میں کہ ان کی شہادت مقبول ہے اور قول پسندیدہ۔ سراسر عدل والی گفتگو اور واضح

فَضْلِ وَّبُرْهَانَ عَظِيْمٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

عادات اور عظیم برہان دالے ہیں۔ اے اللہ عطا فرما محمد کریم کو مقام وسیلہ و فضیلت

وَالشَّرْفَ وَالذَّرَجَةَ الْكَبِيْرَةَ اَللّٰهُمَّ اَيْلِغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِّنِّي تَحِيَّةً

اور شرف اور بہت بڑا درجہ۔ اے اللہ پہنچا محمد کریم کی روح اقدس کو میری طرف سے تحفہ

وَسَلَامًا اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكَبِيْرِي وَاَرْفَعْ دَرَجَتَهُ

اور سلام۔ اے اللہ قبول فرما محمد کریم کی شفاعت کبریٰ اور بلند فرما ان کا درجہ عالیہ

الْعَلِيَّاءِ وَاْتِهِ سُوْلَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاَوَّلِي كَمَا اَتَيْتَ سَيِّدَنَا مُوسٰى

اور عطا فرما انہیں ان کا مطلوب آخرت اور دنیا میں جیسے عطا کیا سیدنا موسیٰ کو

وَسَيِّدَنَا اِبْرٰهِيْمَ اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَغِيْطُهُ فِيْهِ

اور سیدنا ابراہیم کو۔ اے اللہ پہنچا انہیں مقام محمود پر کہ رشک کریں ان سے اس مقام

الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ عَظِّمُهُ فِي الدُّنْيَا بِاعْلَآءِ ذِكْرِهِ وَ

میں تمام اولین و آخرین۔ اے اللہ عظمت بخش انہیں دنیا میں ان کا ذکر بلند کر کے اور

اُظْهَرِ دِيْنَهُ وَاِبْقَا شَرِيْعَتَهُ وَفِي الْاٰخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي اُمَّتِهِ

دین غالب کر کے اور شریعت کو بقا و دوام دے کر اور آخرت میں اپنی اُمت میں حق شفاعت

وَاَجْزِلْ اَجْرَهُ وَمَثُوْبَتَهُ وَاَبْدُ فَضْلَهُ لِلْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ بِالْمَقَامِ

دے کر اور عظیم فرما ان کا اجر و ثواب اور ابدی بنا دے ان کے فضل کو اولین و آخرین کے لیے مقام

الْمَحْمُوْدِ وَتَقْدِيْمِهِ عَلٰى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِيْنَ بِالشُّهُودِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ

محمود کے ذریعے اور انہیں مقدم فرما کر تمام مقربین پر اپنے مشاہدہ ذات کے ساتھ۔ اے اللہ انہیں بنا

مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ

اپنے تمام بندوں سے مکرم ترین اپنے ہاں از روئے شرف و کرامت کے اور ان سے بلند تر اپنے ہاں

دَرَجَةً وَمِنْ أَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ خَطَرًا وَمِنْ أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً

از روئے درجہ کے اور ان سے عظیم تر از روئے اہمیت کے اور ان سے بلند مرتبت اپنے ہاں از روئے شفاعت کے۔

اللَّهُمَّ عَظْمُ شَانِهِ وَبَيْنَ بَرُهَانِهِ وَأَبْلَجُ حُجَّتِهِ وَأَبْلَغُهُ مَأْمُولُهُ

اے اللہ ان کی شان کو عظیم بنا اور برہان کو واضح فرما اور حجت کو روشن فرما اور انہیں ان کی امید و آرزو تک پہنچا

فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

ان کے اہل بیت اور ذریت میں۔ اے اللہ انہیں وسیلہ و فضیلت اور درجہ عالیہ

الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللِّوَاءَ الْمَعْقُودَ وَالْحَوْضَ

و رفیعہ عطا فرما اور انہیں پہنچا مقام محمود تک اور تیار پرچم اور حوض

الْمُورُودَ اللَّهُمَّ جَدِّدْ وَجْدِي فِي هَذَا الْوَقْتِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ

مورود تک۔ اے اللہ تجدید و تخرید فرما اس وقت میں اور اس ساعت میں

مِنْ صَلَوَاتِكَ التَّامَّاتِ وَتَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيَّاتِ وَرِضْوَانِكَ الْأَكْبَرِ

اپنی کامل صلوات اور پاکیزہ تحیات کی اور اپنی رضوان اکبر

الَّتِي أَدْرَأْتَنِي إِلَى أَكْمَلِ عَبْدِكَ فِي هَذَا الْعَالَمِ مِنْ بَنِي آدَمَ

و اتم و دائمی کی اپنے کامل ترین عبد کے لیے اس جہان میں بنی آدم میں سے

اللَّهُمَّ بَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِكَ هَذَا إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الْآنَ عَنْ عَبْدِكَ

اے اللہ پہنچا اپنے اس بندے کا سلام ان کی بارگاہ میں پس ان پر ہو تیری طرف اور تیرے اس عبد

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَشْرَفُ التَّسْلِيمِ وَأَزْكَى التَّحِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کی طرف سے افضل ترین صلوات اور بزرگترین سلام اور پاکیزہ ترین تحیہ و تحفہ۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَسِيلَتِهِ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کے وسیلہ پر

الْوَسَائِلِ وَحَدِيقَتِهِ فِي الْحَدَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وسائل میں اور آپ کے باغیچے پر یاغات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَنَّتِهِ فِي الْجَنَّاتِ وَفِرْدَوْسِهِ فِي

اور آپ کی آل پر اور آپ کی جنت پر جنات میں اور آپ کے فردوس پر

الْفِرَادِيسِ وَحَوْضِهِ فِي الْحِيَاضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فردوسوں میں اور حوض پر حوضوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى زَاوِيَتِهِ فِي الزَّوَايَا وَكُوْبِهِ حَوْضِهِ فِي

اور آل محمد پر اور آپ کے زاویہ و گوشہ پر گوشوں میں اور آپ کے حوض کے ہر پیالہ پر

الْكِيْزَانِ وَنَهْرِهِ فِي الْأَنْهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پیالوں میں اور آپ کی نہر پر نہروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُلَامِهِ فِي الْعُلَمَاءِ وَوَلَدِيَّتِهِ فِي الْوُلْدَانِ

آپ کی آل محمد پر اور ان کے ہر غلام پر غلاموں میں اور آپ کے ہر جنتی خادم بچے پر جنتی نابالغ بچوں میں

وَحُورِ آيَةِ فِي الْحُورِ وَعَيْنَاتِهِ فِي الْعَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور سفید روشن رنگت والی جنتی عورت پر حوروں میں اور موئی آنکھ والی جنتی عورت پر ایسے عورتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَكِهِتِهِ فِي الْفَوَاكِهِ وَكَأْسِهِ فِي

و صلوٰۃ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے میوہ پر میوہ جات میں اور پیالہ پر

الْكُؤُوسِ وَابْرِيْقِهِ فِي الْأَبَارِيْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پیالوں میں اور لوٹے پر لوٹوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُرُطُومِ اِبْرِيْقِهِ فِي الْخَرَاطِيمِ وَكُوْبِهِ

اور آپ کی آل پر اور آپ کے لوٹے کی ٹونٹی پر ٹونٹیوں میں اور گلاس پر

فِي الْأَكْوَابِ وَفِرَاشِهِ فِي الْقُرُشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گلاسوں میں اور آپ کے بچھونے پر بچھونوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرْوَاقِكُمْ فِي الْأَرْوَاقِ وَنَزَرُ بِهِ فِي الزَّرَائِعِ

اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی آرام کرسی پر آرام کرسیوں میں اور آپ کی مسند ناز پر مسندوں میں

وَنَهْرَقَتِهِ فِي التَّمَارِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور گدیوں پر گدیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِعْرَاجِهِ فِي الْمَعَارِجِ وَرُؤْيَتِهِ فِي الرَّايِنِ وَخُلُودِهِ

محمد کی آل پر اور آپ کے معراج پر معراجوں میں اور دیدار پر اہل رؤیت میں اور آپ کے خلود و دوام پر

فِي الْخُلْدَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اہل خلود میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ رِئِيسِ الْجَنَانِ وَالشَّافِعِ مِنَ النَّيِّرَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو کہ اہل جنت کے سردار ہیں اور شفیع ہیں آتشائے دوزخ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا حَجَبَ لَهُ فِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کا جمال نمایاں ہوا

الْقَدِيمِ وَأَشْرَقَ نُورُهُ إِلَى الْوُجُودِ بِلَا الْعَدَمِ وَنُورِكَ الْآتِمِّ

قدیم ترین دور میں۔ اور چمکا ان کا نور ابد تک کے لیے موجودات پر اور اپنے نور اتم

وَفَضْلِكَ الْأَعْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور فضل اعم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقَامَ الْحَقَّ وَأَذَلَّ الطَّاغُوتَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل اطہار پر جس محبوب نے حق کو قائم کیا اور طاغوت و شیطان کو ذلیل کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْأَقْطَابِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب اقطاب کے قطب

وَمَلَاذِ الْأَحْبَابِ الدَّاخِلِ إِلَيْكَ مِنَ الْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تمام احباب کی جائے پناہ ہیں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں تیرے حرم ناز کے دروازے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِأَبِ الْخَيْرَاتِ وَوَفَّقَنَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو خیرات کا دروازہ اور برکات کی چابی

الْبَرَكَاتِ وَشَمْسِ الْمَعَانِي الزَّاهِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور معانی کا روشن سورج ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَمْ يَغِبْ عَنْ حَضْرَتِكَ طُرُقَةٌ عَيْنٍ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب نہ غائب ہوئے تیری بارگاہ سے پلک چھپکنے کی دیر

وَلَمْ يَعْرِفْ غَيْرَكَ مِنَ الزَّمَانِ وَالْأَيِّنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور نہ جانا تیرے غیر کو زمان و مکان میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْمُتَوَصِّلِينَ إِلَيْكَ وَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب چشم بینا ہیں تیری ذات تک واصل ہونے والوں کی اور

نُورٍ يَهْجَةُ أَسْرَابِ الْعَالَمِ بِكَشْفِ الْأَسْتَارِ مِنْ وَصْفِكَ اللَّهُمَّ

اسرار عالم کی رونق کا نور ہیں بسبب کھولنے پردوں اور حجابات کے تیرے وصف و شان سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغُفُورِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہت بخشنے والے

السَّتَّارِ وَمُظْهِرِكَ التَّامِّ وَعَيْنِ جُودِكَ الْعَاقِرِ وَنُورِكَ الْأَفْضَلِ

پردہ پوش اور تیرے منظر کامل اور تیرا مجسم جو دعاء اور نور افضل ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَائِمِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب دائمی

النُّورِ وَوَاضِحِ الظُّهُورِ وَحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ وَذِي الْبِرَاهِينِ السَّاطِعَةِ

نور والے اور واضح ظہور والے اور مشکوک و شبہات کو قطع کرنے والا مجسم حجت اور غالب برہانوں والے ہیں

اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى أَنْ تَحْقِقَنَا فِي آثَارِنَا

اے اللہ قاب قوسین اور ادنیٰ کے مقام والے محبوب کے طفیل ہمیں ثابت و پابند بنا از روئے ذات

وَصِفَاتًا وَأَسْمَاءً وَأَفْعَالًا وَأَثَارًا حَتَّى لَا تَرَى وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَحْسُ

وصفات اور اسماء و افعال اور آثار کے تاکہ ہم نہ دیکھیں اور نہ سنیں اور نہ محسوس کریں

وَلَا نَجِدُ إِلَّا رَأْيَكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ

اور نہ پائیں مگر تجھی کو۔ اے میرے الہ اور میرے آقا بظیفیل اپنے فضل و رحمت کے بنا دے

هُوَ يَتَنَا عَيْنٌ هُوَ يَتِيهِ فِي أَوَائِلِهِ وَنَهَائِيهِ وَبُودِ خُلَّتِيهِ وَصَفَاءِ

ہمارے وجود و تشخص کو عین اپنے محبوب کے وجود و تشخص کا ابتداء و انتہاء میں بظیفیل ان کی مودت و خلعت کے اور صفاء

مَحَبَّتِيهِ وَفَوَائِحِ أَنْوَارِ بَصِيرَتِهِ وَجَوَامِعِ أَسْرَارِ سِرِّيَّتِهِ وَ

محبت کے اور ان کی بصیرت کے انوار کا شفق اور سریریت و باطن کے اسرار جامعہ کے اور

رَحِيمٍ رُحْمَائِهِ وَنَعِيمٍ نِعْمَائِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ

تمام رحیموں سے رحیم ترا اور تمام نعمتوں سے عظیم تر نعمت کے۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تیرے نبی

وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْفِرَةَ وَالرِّضَى وَ

و رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و جاہ کے طفیل مغفرت و رضا مندی اور

الْقَبُولَ قَبُولًا تَامًّا لَا تَكُنَّا فِيهِ إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ يَا نَعْمَ

قبولیت تامہ کا نہ سوچ رہیں اس بارے میں ہمارے نفوس کی طرف پلک بھینکنے کی گیر۔ اے بہتر

الْمُجِيبُ فَقَدْ دَخَلَ الدَّخِيلُ يَا مَوْلَانِي بِجَاهِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

قبول فرمانے والے پس داخل ہو چکا و ساوس ہم ہیں۔ اے میرے مولیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا فَإِنَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِ الْخَلْقِ

و سلم کے طفیل ہمارے گناہ بخش کیونکہ تمام مخلوق اول و

بِأَجْبَعِهِمْ أَوْلَاهُمْ وَأَخْرَهُمْ بَرِّهِمْ وَفَاجِرَهُمْ كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرِ

آخر۔ نیوں اور فاجروں کے گناہوں کی بخشش مانند ایک قطرہ کے ہے تیرے

جُودِكَ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ وَلَا غَايَةَ لَهُ فَقَدْ قُلْتَ وَقَوْلِكَ

وسیع جود کے سمندر میں جس کا کوئی ساحل اور کنارہ نہیں ہے۔ تحقیق تو نے فرمایا اور تیرا قول واضح

الْحَقُّ الْمُبِينُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

حق ہے " اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر عالمین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم

وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ

و علی آلہ و صحبہ اجمعین - لے میرے پروردگار میری ہر ہڈی کمزور ہو چکی اور سر مانند

الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ

آتش سفید ہو چکا بڑھاپے کی وجہ سے اور نہیں رہا میں تجھ سے طلب مدعا میں تاکام و بے مراد - لے میرے پروردگار مجھے سخت تکلیف پہنچ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ يَا

چکی اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے - لے میرے رب بیشک میں تیری نازل کی ہوئی خیر کی طرف سے فقیر و محتاج ہوں - لے

عَوْنَ الضُّعْفَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا مُنْقِذَ الْغَرَقِيِّ يَا مُنْجِيَ الْهَلْكَاءِ يَا

ناتوانوں کی عون سراسر - لے عظیم جائے امید و رجاء - لے بچانے والے غرق ہونے والوں کے - لے نجات دہندہ اہل ہلاکت کے لے

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ أَمِنِي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

بہترین مددگار - لے اہل خوف کی امان مجھے امن عطا فرما دینا و آخرت کے شر سے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ فِي

بطفیل اپنی رحمت کے - لے ارحم الراحمین - لے اللہ ہمیں توکل نصیب فرما اپنی ذات پر

جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَرُؤْيَةَ غَيْرِكَ بَعَيْنِ الْعِجْزِ وَاتِّقَانِي الدُّنْيَا

تمام احوال میں اور دیکھنا تیرے ماسوا کو عجز و ناتوانی کی آنکھ سے - اور عطا فرما ہمیں دنیا میں

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اللَّهُمَّ اعْطِنَا

اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی و نیکی اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے - لے اللہ ہمیں عطا فرما

خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَقِنَا شَرَّهُ وَهَلْكَاءَ جَمِيعِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ آمِينَ ۝

اس دن کی خیر اور بچا ہمیں اس کے شر سے اور ایسے ہی تمام راتوں اور دنوں کے شر سے آمین -

اللَّهُمَّ قَوِّنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَأَهْوِيَّتِنَا وَشَيَاطِينِنَا وَاجْعَلْنَا فِي حِرْمِكَ

لے اللہ ہمیں قوت بخش اپنے نفوس اور ان کی خواہشات پر اور اپنے شیاطین پر اور بنا ہمیں اپنی جماعت میں

وَمِنْ حَزْبِكَ وَقَرَّبُ قَلْبُ بِنَا إِلَيْكَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَارْتُقْنَا لِلِقَاءِ

اور اپنی جماعت سے اور قریب فرما ہمارے دلوں کو اپنی طرف موت سے قبل اور ہمیں نصیب فرما مخصوص ملاقات و دیدار

الْخَاصِّ قَبْلَ اللِّقَاءِ أَمِينَ اللَّهُمَّ أَيِّقِظْ قُلُوبَنَا لَكَ وَنَبِّهْنَا عَنِ

موت والی ملاقات سے قبل آمین۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو بیداری بخش اپنی ذات کیلئے اور جگا ہمیں اپنی

الْعُقَلَاتِ عَنْكَ اللَّهُمَّ اهْدِ كُلَّ ضَالٍّ وَتُبْ عَلَيَّ كُلِّ عَاصٍ وَصَبِّرْ

خصوصی توجہ سے غفلتوں کی نیند سے۔ اے اللہ ہدایت دے ہر گمراہ کو اور نظر رحمت فرما ہر عاصی پر اور صبر کی توفیق دے

عَلَى الْبَلَاءِ كُلِّ مُبْتَلَىٍّ وَوَفِّقْ الشُّكْرَ كُلِّ مُعَافَىٍّ أَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

بلیات پر ہر مبتلا کو۔ اور شکر کی توفیق دے ہر عافیت والے کو آمین۔ اے اللہ بنا ہمیں

الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَطْرِحِينَ بَيْنَ يَدَيْ قُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ

اطاعت گزار۔ اہل تسلیم و رضا اور اپنے آپ کو گرانے والے تیری قدرت کے آگے۔ اے اللہ

رَضِيئِي بِقَضَائِكَ وَصَبِّرْ نِي عَلَى بَلَائِكَ وَأَوْزِعْ عَنِّي شُكْرَ

مجھے راضی فرما اپنی قضا پر۔ صبر کی توفیق دے اپنی بلیات پر اور نصیب فرما میرے اپنا

نِعْمَائِكَ نَسْأَلُكَ تِمَامَ النِّعْمَةِ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى

شکر نعمت۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کامل نعمت، دائمی عافیت اور محبت پر ثابت

الْمَحَبَّةِ اللَّهُمَّ ارْتُقْنَا حَسَنَ مَعَامَلَتِكَ وَطِيبْ لَنَا خِدْمَتَكَ وَ

قدمی کا۔ اے اللہ ہمارے نصیب فرما حسن معاملہ اپنا۔ اور پسندیدہ ٹھہرا ہمارے بسے اپنی خدمت و عبادت

الْوُقُوفَ عَلَى بَابِكَ مَعَ جُمَلَةِ خَدَمِكَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا وَ

اور اپنے اوپر ٹھہرنا بمع اپنے تمام خدام کے۔ اے اللہ ثابت رکھ ہمارے قلوب اور

جَوَارِحَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

اعضاء کو اس دن میں اور عطا فرماتا ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اور

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ يَا حَائِلًا بَيْنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ وَالْعَذَابِ حُلِّ

بچانا عذاب دوزخ سے۔ اے اللہ اے حجاب پیدا کرنے والے کھاری اور شیریں پانیوں کے درمیان حائل ہونا

بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَخَطِكَ وَبَيْنَ الْمُنَازَعَةِ لَكَ فِي أَقْدَارِكَ وَحُلِّ بَيْنَنَا

درمیان ہمارے اور اپنی ناراضگی کے اور درمیان نزاع کرنے کے تیرے ساتھ تیری تقدیرات میں اور حائل ہونا

وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ بِدْرُنْ نَخْرٍ مِّنْ رَّحْمَتِكَ اللَّهُمَّ يَا خَالِقَ الْخَلْقِ وَ

درمیان ہمارے اور درمیان گناہوں کے اپنی رحمت کے بزخ کے ذریعے۔ اے اللہ کے مخلوق کے خالق ،

يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ خَلِّصْنَا مِنْ قَيْدِ الشِّرْكِ بِخَلْقِكَ وَأَسْبَابِكَ

اے مسبب الاسباب ہمیں خلاصی بخش شرک کی قید سے جو تیری مخلوق اور اسباب کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے

اللَّهُمَّ حَقِّقْ لِي هَذَا وَثَبِّتْهُ وَثَبِّتْنِي عَلَيْهِ اجْعَلْهُ مَوْهَبَةً لَا

اے اللہ اسے میرے لیے محقق و ثابت فرما اور مجھے اس پر ثابت رکھ۔ بنا اسے میرے لیے مہبہ نہ کہ

عَارِيَةً إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنِّي أَقْتُلُ فِي جِبَالِ دِينِكَ وَإِرَادَتِكَ إِنِّي

عاریت (مانگی ہوئی شئی) بیشک تو جانتا ہے کہ میں قتل کرتا ہوں (اپنے نفس کو تیرے دین اور ارادہ کے رسول میں تیرے

خَادِمٌ لِلْخَادِمِينَ لَكَ الزَّاهِدِينَ فِيمَا سِوَاكَ طَلِبًا لِمَرْضَاتِكَ

خادموں کا خادم ہوں جو بے نیاز ہیں تیرے ماسوا سے تیری رضا مندوں کی طلب میں۔

وَيُحَكِّ يَا غَنِيَّ الدُّنْيَا لَا تَطْنُنْ أَنْ أَشْكُرَ الْغَنِيَّ بِأَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ

افسوس ہے تیرے لیے اے دنیا دار یہ گمان نہ کرنا کہ میں دنیا دار کا شکر گزار بنوں گا بسبب اس کے کہ ہم کہتے ہیں سب تعریفیں

لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا زَاهِدِينَ فِيمَا سِوَاكَ رَاغِبِينَ

اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ بنا دے ہمیں مستغنی اپنے ماسوا سے اور راغب

فِيكَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَاتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

اپنی ذات میں تمام احوال کے اندر عطا فرما ہمیں دنیا میں اچھائی اور آخرت میں ایمان

وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ ارْتُقْنَا تَحْقِيقَ عِبُودِيَّتِكَ وَالصَّدْقِ

اور بچا ہمیں عذاب دوزخ سے۔ اے اللہ ہمیں نصیب فرما اپنی حقیقی عبودیت اور صدق و اخلاص

فِي طَلَبِكَ اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي فِيمَا يَرْضِيكَ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الدَّامِي

اپنی طلب میں۔ اے اللہ مجھے عمل پیرا فرما اپنے موجب رضا امور میں۔ پاک ہے بے نیاز جو

لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ يَرْزُقُ وَلَا يَرْزُقُ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ الصَّمَدُ

نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے جو رزق دیتا ہے مگر اسے رزق نہیں دیا جاسکتا۔ جو کھلاتا ہے مگر کھلایا نہیں جاسکتا۔ وہ

الَّذِي لَا جُوفَ لَهُ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَنَامُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

بے نیاز کہ اس کا پیٹ ہی نہیں۔ نہیں کھاتا اور نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بنا دے

مُطِئِينَ رَاضِينَ مُوَافِقِينَ مُسَلِّمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا

اصحاب الطینان و رضا اور موافق و سازگار اور اطاعت گزار اور ارباب تسلیم۔ اے اللہ ہم

نَعُوذُ بِكَ مِنْ مُشَاجَرَةٍ مُخَاطَرَةٍ الْغَيْرِيَّةِ مِنْ مُشَاوَرَةٍ مُوَامِرَةٍ

پناہ طلب کرتے ہیں تجھ سے باہمی نزاع سے جو غیریت کی وجہ سے سوچتا ہے۔ اور اس مشاورت و صلاح

الْبِجَاوَرَةِ الْمُسْتَعَانَةِ إِلَى مَصَالِحِ الْمَوَاعِدَةِ الْمُعَاوَضَةِ الْمَرَاجَعَةِ

کاری سے جس سے پناہ و استعانت طلب کی جاتی ہے طرف ان مصالح کے جن کا باہم عہد و پیمان اور تائید و تقویت کی گئی ہے جن کی طرف رجوع کیا

بِحَادِثَةِ الْبِخَافَةِ الْمَصَالِحَةِ الْبُصَاهِرَةِ الْمَسَاطِرَةِ الْمَشَاعِرَةِ

جاتا ہے بسبب پیدا ہونے خوف کے، جن پر باہم صلح اور رشتہ و پیوند اور ستر و پردہ داری اور

الْوَصَالَةِ الْإِصَالَةِ اللَّهُمَّ قَرِّبْنَا عَلَى مُجَاهِدَاتِ أَنْفُسِنَا وَأَرْزُقْنَا

وصل و اصالت کا شعور ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے نفوس کے ساتھ جہاد پر اور ہمیں رزق

وَاهِدِنَا لِلنَّاسِ وَنُورِ قُلُوبِنَا وَاجْعَلْنَا نُورًا يُسْتَضَىٰ بِنَا النَّاسُ

دے اور ہادی بنا لوگوں کے لیے، ہمارے قلوب کو منور فرما اور ہمیں نورانی بنانا کہ لوگ ہم سے نور و ضیاء حاصل کریں

وَأَسْقِنَا شَرَابَ أَنْسِكَ حَتَّىٰ نَرْتَوِي بِهِ وَيَرْتَوِي بِنَا كُلُّ ظَلِمَانٍ

اور ہمیں اپنا شراب انس و محبت پلا حتیٰ کہ ہم خود سیراب ہوں اور ہمارے ذریعے ہر پیا سا سیراب ہو سکے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّنْوِيرَ وَالتَّيْسِيرَ وَالمَعُونَةَ وَالتَّقْرِيرَ وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے نورانیت اور سہولت و اعانت کا اور تقریر و

الْحِفْظَ وَالفَوْزَ وَالرَّعَايَةَ وَالسُّتْرَ وَالتَّكْمِيلَ وَطِيبَ أَمْرِهِ السَّارِي

حفظ کا کامیابی دینے اور نگہبانی فرمانے اور پردہ پوشی و تکمیل اور ان قلوب کے جاری و ساری امر کی پاکیزگی کا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد کے توسل سے۔ اے محمد

إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَىٰ اللَّهُمَّ شَيْئًا

میں نے توجہ کی آپ کے توسل سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ پوری کی جائے۔ اے اللہ انہیں میرا شفیع بنا۔

فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی درپیش بلیات سے اور فضیلت دی مجھے

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْ لِي

بہتری مخلوق پر کامل فضیلت۔ اے اللہ مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور میری کوتاہیاں دور فرما

وَأَرْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ

اور رزق دے۔ ہدایت عطا فرما اور عافیت بخش۔ اے اللہ میری کفایت فرما اپنے حلال کے ذریعے

حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي

اپنے حرام سے اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ غنی فرما اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ میرے دل میں

قَلْبِي رَجَاءُكَ وَأَقْطَعْ رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ اكْفِنِي

اپنی امید و رجاء ڈال دے اور میری امیدیں غیر سے منقطع فرما دے۔ اے اللہ میری کفایت فرما

مِنْ كُلِّ مِهْرٍ مِنْ حَيْثُ شِئْتُ وَمِنْ أَيْنِ شِئْتُ لِذِيئِي

ہر غم و اندوہ میں ڈالنے والے امر سے جہاں سے اور جس طرح پر چاہے میرے دین کے لیے

وَلِمَا أَهْتَبِي وَلِمَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ وَلِمَنْ حَسَدَنِي وَلِمَنْ

اور مجھے غم و اندوہ میں ڈالنے والے امور کے لیے اور مجھ پر بغاوت اور حسد کرنے والوں اور میرے ساتھ

كَادَنِي بِسُوءٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعِنْدَ السُّئَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعِنْدَ

برائے کرنے والے کے لیے بوقت موت، قبر میں سوال کے وقت، میزان اعمال کے

الْمِيزَانِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ وَعِنْدَ الْحِسَابِ وَعِنْدَ الْآخِرَةِ

پاس اور پل صراط کے پاس حساب کے وقت اور آخرت میں۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً أَكْفِيهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا

اے اللہ نہ بنا کر کسی فاجر کے لیے میرے ہاں نعمت کہ مجھے بدلہ دینا پڑے اس کا دنیا

وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَكَأَنَّكَ رَاقِبَتِي مِنَ النَّارِ

و آخرت میں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنی گردن کی خلاص کا آتش دوزخ سے

وَمِنَ الْقَسْوَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَالْكَفْرِ

سنگدلی محتاجی اور ذلت و سکت اور کفر

وَالْفُسُوقِ وَالْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ وَالشَّقَاقِ وَالسُّبُعَةِ وَ

و فسق اور کبائر و صغائر اور بد بختی و شہرت اور

الرِّيَاءِ وَمِنَ الصُّمِّ وَالْبُكْرِ وَضَلَعِ الدَّائِنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

ریا کاری سے اور بہرہ پن۔ گونگاپن اور قرض کے دباؤ اور گرانباری سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا

بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّائِنِ وَغَلْبَةِ العَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

ہوں قرض اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمنوں کی شادمانی سے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطِيئَتِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ

اے اللہ میری خطا معاف فرما اور امور میں حد سے تجاوز اور ہر امر جسے تو مجھ سے بہتر

بِهِ مِنِّي فَأَغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَايَايَ وَعَبْدِي

جانتا ہے پس بخش میرے سنجیدگی اور مزاح کو اور خطا و عمد کو

وَكُلِّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا

اور ان میں سے ہر امر میرے اندر موجود ہے۔ اے اللہ مجھے بخش جو میں نے پہلے کیا اور جو

أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

بعد میں کرنا ہے اور جو چھپایا اور جو ظاہر کیا اور جسے تو مجھ سے بہتر

مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمَوْخِرُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي

جانتا ہے تو ہی ہے مقدم کرنے والا اور تو ہی موخر کرنے والا ہے۔ اے اللہ میرے لیے اصلاح فرما

دِیْنِ الَّذِیْ هُوَ عَصَمَهُ اَمْرٌ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ وَ

میرے دین کی جو میرے امور کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور درست فرما میرے لیے میری دنیا جس میں

فِيْهَا مَعٰشِيٌّ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ رَازِيْهَا مَعَادِيٌّ وَا

میری گزران ہے اور درست فرما میرے لیے میری آخرت جس کی طرف میری بازگشت ہے اور

اجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ

بنائندگی کو میری خیر و بھلائی میں اضافہ کا موجب۔ اور بنا میرے لیے موت کو

رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ

ہر شر سے راحت کا موجب۔ اے اللہ مجھے نفع دے ساتھ اس علم کے جو عطا کیا

وَعَلَّمْتَنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَاَزِدْنِيْ عِلْمًا هَلْ يَنْفَعُكَ

اور سکھلا مجھے جو نفع دے اور میرے علم میں ترقی دے۔ حمد ہے اللہ کے لیے

عَلَى كُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ

ہر حال میں اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اہل نار کے حال سے

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهٖ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ

اور میں پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جس سے پناہ طلب کی تیرے عبد خاص اور تیرے نبی نے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جنت کا اور جو قریب کرے اس کی طرف

قَوْلٍ وَّعَمَلٍ وَّاَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ

قول و فعل سے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ ہر قضاء جس کا فیصلہ میرے لیے کیا ہے

لِيْ خَيْرًا وَّاَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَ

اسے سراسر خیر بنائے۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا دین و دنیا اور

اَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْرِعْ عَوْرَاتِيْ وَاَمِنْ رَاوِعَاتِيْ

اہل و مال میں۔ اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال۔ اور خوفناک امور سے امن عطا فرما

وَأَحْفَظُنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ

اور مجھے محفوظ فرما آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں و

شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ

بائیں سے اور اوپر اور نیچے اسے اور میں تیری عظمت کے طفیل پناہ طلب کرتا ہوں

تَحْتِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ تَرَوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ

نیچے سے ہلاک کئے جانے سے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے اور عافیت کے

وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

بدل جانے سے اور اچانک انتقام کا نشانہ بننے سے اور ہر قسم کی ناراضگی سے اے اللہ مجھے حلال و پاکیزہ

رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا عَلَى الدَّوَامِ وَإِصْلًا مِنْكَ إِلَى

رزق عطا فرما ہمیشہ کے لیے جو پہنچنے والا ہو تجھ سے تیرے اس

عَبْدِكَ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ عَابِرِيَا مَنْ

عبد تک مخصوص اور عام طریقہ پر در آئیں گے خال ہو

الْكَلْفِ وَالْمِحْنِ خَالِيًا عَنْ بَوَائِقِ الدَّهْرِ وَ

تکلیف و محنت سے اور دور دور ہونے کی ہلاکتوں اور

شِدَائِدِ الْفِتَنِ نَافِعًا فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ يَا مَنْ

فتنوں کی شدتوں سے نافع ہو دین میں اور بدن میں بھی اے کہ جس کا

فَضْلُهُ عَظِيمٌ وَلَطْفُهُ عَمِيمٌ وَإِحْسَانُهُ قَدِيمٌ

فضل عظیم ہے اور لطف عام ہے اور اس کا احسان قدیم ہے

وَنَفْسُهُ كَرِيمٌ وَرَسُولُهُ رَحِيمٌ وَهُوَ قَادِرٌ

اور اس کی ذات کریم ہے اور اس کا رسول رحیم ہے اور وہ قادر و

عَلِيمٌ وَرَبُّ حَلِيمٌ أَسْأَلُكَ فَتَحَ بَابِ الْمُنَاجَاتِ

علیم اور رب حلیم ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مناجات

فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ بِالْجَهْرِ وَالْخَفَاءِ

و دُعا کا دروازہ کھولنے کا تمام عبادات و طاعات میں علانیہ میں اور اہم خفیہ

الْحَفِيَّاتِ اللَّهُ حَاضِرِي اللَّهُ نَاطِرِي اللَّهُ قَادِرِي اللَّهُ

امور میں - اللہ میرے پاس حاضر ہے - اللہ میرا ناظر ہے اللہ مجھ پر قادر ہے اللہ

مَعِيَ اللَّهُ صَلِّ عَلَيَّ وَحِيدٍ صَلَوَاتُ

میرے ساتھ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما اپنے یکتا رسول پر جس صلوٰۃ کے طفیل

تُوْحِدُنَا بِهَا وَتُحِيدُنَا بِهَا بِتَوْحِيدٍ

ہمیں یکتا بنا دے اور اللگ تھک کر دے بطفیل ان کی یکتا

وَحِيدٍ وَحْدَانِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ

وحدانیت کی توحید اور وحدانیت

وَحْدَانِيَّةِ أَحَدِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّةِ

اور وحدت و احدیت کے اور وحدیت

وَّوَأَحْدِيَّةِ وَالْهَكْمِ اللَّهُ

و واحدیت کے اور الہمتارا الہ

وَأَحَدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

واحد ہے نہیں معبود برحق مگر وہی

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

رحمن و رحیم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ

يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

جنا گیا اور نہیں اس کا کوئی مثل و مشابہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین نامان سے موت اقران ہل
ایزومنان تحفہ عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت سید محمد
مسمیٰ بہ

صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ

المجزء الحادی والعشرون ۲۱

فِي عِلْمِهِ وَعِلْمِ غَيْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَنْفَعُ خَلْقًا مِنْ خَلْقٍ إِلَّا بِالسُّبْحِ الْخَلْقِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ

حضرت خواجہ نورجان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِعُلُومِ بِسْمِ

اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن

اللَّهُمَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِفُحُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرحیم کے علوم کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فہم اور دانشوں کے طفیل

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ

تمام حمد و ثنا اللہ کے ساتھ مختص ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا بہت مہربان رحم فرمانے والا جزا کے دن

الَّذِينَ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں چلا راہ

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

راست پر۔ ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ان کی جن پر غضب کیا گیا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۝ إِنَّكَ

اور نہ ہی گمراہوں کی۔ پاک ہے تو نہیں ہے کچھ بھی علم ہمیں مگر جس کی تو نے تعلیم دی۔ بیشک تو

أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي عِلْمًا كَامِلًا نَافِعًا جَارِيًا

ہی دائمی علم و حکمت والا ہے۔ اے اللہ مجھے تعلیم دے علم کامل و نافع کی جو جاری ہو تیرے

مَنْ عَلَيْكَ الدُّنْيَى وَالْآخِرَةُ ۝ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

علم لدنی و الہامی سے از روئے ظاہر و باطن کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَقْلِ الْأَوَّلِ الْكَامِلِ وَالْعِلْمِ بِالْأَعْمَالِ

سیدنا محمد پر جو مالک ہیں عقل اول و اکمل اور اعمال کے

الْأَفْضَلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِينَةِ الْعِلْمِ وَمَرْكَزِ الْحِلْمِ

افضل علم کے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو شہر علم اور مرکز حلم و بردباری

وَالْحِكْمِ وَسُؤْلِ الْكَرِيمِ وَشَفِيعِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور حکمتوں کے مرکز، مجسم کرم رسول اور خاص و عام کے شفیع ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِصِفَةِ مَوْتِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کیفیت موت کی اپنے صحابہ کرام میں سے فوت

أَصْحَابِهِ وَمَنْ مَاتَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَعَى

ہونے والوں کی اور جو فوت ہو چکے تھے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

النَّجَاشِيَّ يَوْمَ مَرِّهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

نجاشی کی خبر وفات دی جس دن وہ فوت ہوئے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت

عَمَّارًا بِأَنْ تَقْتُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ فَمَاتَ فِي حَرْبٍ عَلَى وَ

عمار کو خبر دی کہ انہیں باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کی وفات ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور

مُعَاوِيَةَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارًا قَبْلَ

حضرت معاویہ کی جنگ (صفین) میں اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی حضرت عمار کو

حُلُولِ الْفِتَنِ أَنْ أُخْرِزَادَهُ مِنَ الدُّنْيَا شَرِبَهُ مِنْ اللَّبَنِ وَصَلَّى

فتنوں کے درپیش ہونے سے قبل کہ ان کا دنیا سے آخری زاد اور طعام دودھ کا ایک کھونٹ ہوگا۔ اور رحمت کاملہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَرَّ جَرَامٍ بِمَوْتِهَا عَلَى الشَّهَادَةِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی ام حرام کو موت شہادت کی

فَكَانَ مَا أَخْبَرَهَا بِهِ وَأَشَارَهَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

تو جس طرح آپ نے خبر دی اور اشارہ فرمایا اسی طرح ہوا۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ مُصَاهِرُهُ أَنَّه يُقَاتِلُ عَلِيًّا وَيُحَاصِرُهُ وَصَلَّى

خبر دی حضرت زبیرؓ کو جو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرب و قتال کریں گے اور صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ عَائِشَةَ تَنْفِرُ إِلَى قِتَالِ عَلِيٍّ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ترح کریں گی حضرت علی کے مقام جنگ کی طرف

وَتَسِيرُ وَيَمُوتُ حَوْلَهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور روانہ ہوں گی اور ان کے گرد مرے گی بہت سی مخلوق۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بَعْضَ صَحَابَتِهِ بِعَلَامَةِ أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ وَشَفَاعَتِهِ وَصَلِّ

خبر دی اپنے بعض صحابہ کرام کو اویس قرنی کی علامت مخصوصہ اور شفاعت کے متعلق اور رحمت کاملہ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ السَّيِّدَيْنِ أَنَّ أَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو کہ اویس سرخی مائل سیاہ آنکھوں والا

بَعِيدًا مَّا بَيْنَ الْمَنُكَبَيْنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اور چوڑے کندھوں والا ہے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ مَعْتَدِلَ الْقَامَةِ شَدِيدُ الْأُدْمَةِ ذُو رَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ يَشْفَعُ

کہ وہ میانہ قد بہت گندم گوں، رحمت و رافت والا ہے۔ شفاعت کرے گا۔

فِي كَثِيرٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اس اُمت کے بہت سے لوگوں کے حق میں اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا

فِي صَرِيحٍ خَبَرَهُ أَنَّ ضَارِبَ يَدَا قَتَبِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَصَلِّ عَلَى

صریح خبر میں کہ اویس کی ٹھوڑی سینہ کے ساتھ لگی ہوگی اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي صَحِيحِهِ أَقْوَالَهُ أَنَّ رَامَ بَيْصَرَةَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اپنے صحیح اقوال میں کہ وہ اپنی نظر کو

إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَصَلِّ عَلَى

سجدہ گاہ میں مرکز رکھنے والے اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے والے ہیں۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ زُبَيْرٍ أَنَّ زُبَيْرًا جَهْرًا أَنَّ يُقْتَلُ صَبْرًا

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابن زبیر کو علانیہ طور پر کہ وہ قتل کیے جائیں گے جس و محاصرہ کی حالت میں۔

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ وَالتَّيْنِ وَ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ جس نے قرأت کی سورہ والتین۔

الزيتون جلبت له رزقا ويسرا وصل على سيدنا محمد الذي اخبر

الزيتون کی تو کھینچ لائے گی اس کے لیے رزق اور سہولت اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

معاذ بن جبل وعرفه بالذي اخذ له الطعام من العرفه وصل

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اور انہیں پہچان کرانی اس کی جس کے لیے کھانا لیا گیا تھا بالاخانہ سے اور صلوات نازل فرما

على سيدنا محمد الذي اخبر عمار بن ياسر بما اسر ابن ابي

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو جو خفیہ منصوبہ بنایا ابن ابی منافق نے

لاصحابه بتبوك وهو سائر وصل على سيدنا محمد الذي

آپ کے صحابہ کے لیے تبوک میں جبکہ آپ جا رہے تھے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

اخبر اصحابه في حياته بنجاح كلاب جوءب على بعض

خبر دی اپنے صحابہ کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مویب میں کتوں کے بھونکنے کی بعض ازواج

زوجاته وصل على سيدنا محمد الذي اخبر ان قريشا والاحزاب

نبی پر اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ قریش اور ان کے لشکر

لايعدون له بغزو ولا حراي وصل على سيدنا محمد الذي

کبھی آج کے بعد ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

اخبرني خبيرة الكريم ان بين القائمتين من قوائم العرش

خبر دی اپنی حدیث کریم میں کہ عرش کے پایوں میں سے دو پایوں کے درمیان

خفقتان الطائر المسرع الف عام بلا امترآء وصل على سيدنا

تیز پرواز پرندے کی ہزار سال کی پرواز ہے بلاشبہ۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

محمد الذي اخبر لعمر في وصيته الاثيرة ان قاتله غلام

پر جنہوں نے بتلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی روشن وصیت میں کہ ان کو شہید کرنے والا

للمغيرة وصل على سيدنا محمد الذي اخبر المقداد بن اسود

مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوگا اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے مقداد بن اسود کو خبر دی

بِالَّذِي أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ شَرَابِهِ الَّذِي خَبَأَ عِنْدَهُ وَتَزَوَّدَ

اس کی جس نے ارادہ کیا تھا ان کے پانی سے پینے کا جو آپ نے محفوظ رکھا ہوا تھا اور زاد راہ بنایا ہوا تھا

وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَاهُ رِيْرَةَ جَهْرًا إِنَّهُ يَمُوتُ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی ابو ہریرہ کو علانیہ کہ وہ فوت ہوں گے

بِأَرْضٍ قَفْرٍ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا ذَرٍّ بَعْدَ الصَّلَاةِ

ویران علاقہ میں اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت ابو ذر کو خبر دی نماز کے بعد

أَنَّ يَمُوتُ بِأَرْضِ فُلَاةٍ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

کہ وہ وفات پائیں گے بے آب و گیاہ زمین میں اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سچی خبر دی

أَبَا أَيُّوبَ بِأَرْضِ الرُّومِ حَقًّا فَكَانَ يَدْعِي بِقَبْرِهِ هُنَاكَ وَ

حضرت ابو ایوبؓ کو روم کے علاقہ میں شہید ہونے کی تو وہاں پر آپ کی قبر کے پاس دعا مانگی جاتی ہے اور

يُسْتَسْقَى وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فَاطِمَةَ بِصَرِيحٍ

بارش طلب کی جاتی ہے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو صریح

قَوْلِهِ بِحُضُورِهِ أَجْلِهِ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فَاطِمَةَ

انداز میں قرب وصال کی خبر دی اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کو ہر دو

بِأَنَّهَا مِنْ أَوْلَى أَهْلِ بَيْتِهِ بِهِ لِحُوقَاتِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ

کہ وہ اہل بیت رسول میں سے پہلی ہوں گی آپ کے ساتھ لائق ہونے میں تو جیسے خبر دی ویسے ہی

تَحْقِيقًا وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِمَوْتِ أَهْلِ

واقعہ میں اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کرام کو

بِئُرْمَعُونَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكُونَهُ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا

بئر معونہ والے حضرات کی شہادت کی قبل اس کے کہ وہ جانیں اپنے شہادت پانے کو اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ بَيْرِ مَعُونَةَ وَأَعْتَجَبَ أَنْهُمْ حَمَلُوا إِلَى الْجَنَّةِ

محمد پر جنہوں نے خبر دی بئر معونہ کے شہداد کی اور تعجب فرمایا اس پر کہ انہیں اٹھایا گیا جنت کی طرف

عَلَى اسْرَةِ الذَّهَبِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَوْتِ ابْنِ

سونے کے تختوں پر اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے عبد اللہ بن

رَوَاحَةَ الشَّهِيدِ وَبِأَخْذِ رَأْيَيْهِ خَالِدُ بْنُ وَلِيدٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

رواحہ رضی اللہ عنہ کی خیر شہادت دی اور پرچم کو خالد بن ولید کے ہاتھ میں لینے کی اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّ خَالِدًا الرَّأْيِيَّةَ مِنْ

محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہے کہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے

غَيْرِ أَمْرِهِ فَفَتِحَ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

بغیر آپ کے انہیں امیر بنانے کے پس اللہ نے ان کو فتح دی ہے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

جَعْفَرًا يُطِيرُ فِي السَّمَاءِ بِجَنَاحَيْنِ مُضْرَجَيْنِ بِالدَّمَاءِ وَصَلَّ

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آسمان میں محو پرواز ہیں دونوں آلود پروں کے ساتھ۔ اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَا أَخْفَى الْكُفَّارُ مِنَ الْكَلَامِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کفار کی خفیہ گفتگو کے متعلق جو تھی آپ کے (غلاموں پر)

فِي فَتْحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلشَّامِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

شام کے فتح ہو جانے کے (مژدہ سے) متعلق۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بِمَقَالَةِ ابْنِ سَلُولٍ قَبْلَ أَنْ يُسْمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ وَ

خبر دی ابن سلول کے قول کی قبل اس کے سننے کے اس سے۔ اور

صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْمَكْرَمِينَ أَنَّ قَرْمَانَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اپنے اصحاب کرام کو کہ قرمان

يَقْتُلُ نَفْسَهُ بِالسِّكِّينِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اپنے آپ کو قتل کرے گا سنجہ کے ساتھ۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ أَبَا مَطْعُونٍ فِي عِدَادِ الْأَمْوَاتِ فَمَا بَلَغَ مَنَزِلَهُ حَتَّى مَاتَ

ابو مطعون اموات کی گنتی و شمار میں ہے تو وہ اپنے گھر پر نہیں پہنچے تھے کہ فوت ہو گئے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَسْرَتَادِ أَشْعَثَ ابْنِ

اور صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اشعث بن قیس کے مرتد ہو جانے کی اور جو سو سے اسے ابلیس لعین نے ڈالا تھا۔ اور صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا

قَيْسٍ وَمَا أَلْقَى إِلَيْهِ اللَّعِينُ الْإِبْلِيسُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَمْرَةَ يَحْرُقُ بِالنَّارِ فَمَاتَ فِيهَا مِنْ

محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت سمرہ آگ میں جل کر مرے گی تو وہ مرے اسی میں غیر اپنے قصد و ارادہ کے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ يُحْشَرُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

خبر دی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن

فَأَسْتَشْهِدُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

تو وہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ

ضُرْسٌ بَعْضُ جُلَسَاءِهِ فِي النَّارِ كَجَبَلٍ أَحَدٍ فَكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَارْتَدَّ

کہ آپ کے بعض ہم نشینوں کی ڈاڑھ آتش دوزخ میں جبل احد کی مانند ہوگی تو وہ اس کے بعد کافر و مرتد ہو گیا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الرِّيحَ هَاجَتْ لِهَوْتِ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ یہ آندھی منافق کے مرجانے پر جیل

مُتَافِقٍ فَصَدَقَ خَبْرَهُ الصَّادِقُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہے تو آپ کی یہ خبر صادق سچی نکلی۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَخْبَرَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ فِي الدَّارِ أَنَّ قَاتِلَةَ يَلْبِجُ فِي النَّارِ وَصَلِّ عَلَى

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ گھر میں موجود تھے کہ ان کا قاتل نار جہنم میں داخل ہوگا۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ حَذِيفَةَ ابْنَ يَمَانَ بِمَا يَكُونُ فِي آخِرِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلادیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جو کچھ بعد والے زمانہ میں ہونے والا تھا

الزَّمانَ فَكانَ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنِ الْحَسَنِ

تو وہ اسی طرح ہوا۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق

بِالتَّعْيِينِ أَنَّ اللَّهَ يُصَلِّحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

خصوصی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ صلح کراوے گا ان کی بدولت اہل اسلام کے دو عظیم گروہوں میں

وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِقُدُومِ الْعِيرِ قَبْلَ مَجِيئِهِ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی تھائی کہ قافلہ قریش کی آمد کی خوشخبری سنانے والے کی

الْبَشِيرِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِصَارِعِ

آمد سے پہلے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی بدر کے میدان میں کفار کی

الْكُفَّارِ فَكَانَتْ حُفْرَ الْقَرَارِ لَهُمْ فِي النَّارِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قتل گاہوں کی تو وہ مقامات ہو گئے ان کے لیے دوزخ میں استقرار پانے والے گڑھے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْكُبْرَى بِفَتْحِ أَمْرِ الْقُرَى وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا

جنہوں نے خبر دی اپنے بزرگ صحابہ کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ حَدِيثَهُ بِنِ يَعْلَى بْنِ يَعْزَبَةَ أَنَّ خَيْرَ نَفْسٍ عِنْدَهُ الْجَنُّ لَيْلًا

محمد پر جنہوں نے خبر دی حدیث بن یعلیٰ کو جو کچھ بتلایا تھا اسے جن نے آپ کے متعلق رات کو۔

وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ عَمِيرٍ بِمَا

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی رافع بن عمیر کو جو

رَأَى فِي مَنَامِهِ فَكَانَ سَبَبَ إِسْلَامِهِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دیکھا انہوں نے خواب میں اور ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِأَسْمِ وَهَيْبِ بْنِ السَّمَاءِ وَقُدُومِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ

جنہوں نے خبر دی وہیب بن سماع کے نام کی اور اس کی آمد کی اس کے

وَصُورِهِ إِلَيْهِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي

پہنچنے سے قبل۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اس کافر کے متعلق جس نے

حَبَانَفْسَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَرَاهُ حِينَ يُخْطَبُ وَيَسْمَعُهُ

اپنے آپ کو جمعہ کے دن پوشیدہ رکھا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے وقت دیکھے اور سنے

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَعْضَ حُقَاتِ الْبُؤَادِي أَنَّ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے خیردی بعض باویہ نشین برہنہ پا کو کہ

نَاقَتَهُ ذَاهِبَةٌ بِبَطْنِ الْوَادِي وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اس کی اونٹنی فلاں وادی کے درمیان میں جا رہی ہے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے اطلاع دیدی

بِكِتَابِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَيَسْمَعُهُ وَصَلَّى

حاطب بن ابی بلتعه کے خط کی قبل اس کے کہ اسے دیکھیں اور سنیں اور صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِإِشَارَةِ أَبِي لُبَابَةَ حِينَ حَدَّرَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خیردی ابولبابہ کے اشارہ سے متعلق جبکہ انہوں نے ڈرایا تھا

أَصْحَابَهُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ

اپنے ساتھیوں کو۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خیردی اپنے نگوکار

الْأَبْرَارِ بِمَا بَيَّتَهُ الْكُفَّارُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيْمَانَ

اصحاب کو اس کی جو مشورہ کیا رات میں کفار نے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خیردی

الْمُنَافِقِينَ قَبْلَ الْحَلْفِ وَالْيَمِينِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

منافقین کی قسموں کی ان کی یمن اور حلف سے پہلے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَيَقْدَمُ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلسَانِ

محمد پر جنہوں نے خیردی کہ عنقریب ان کے پاس آئے گا وہ مرد کہ جو شیطان کی زبان سے

شَيْطَانٍ فَظَهَرَ مِنْ حِينِهِ وَأُسْتَبَانَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بوتا ہے تو وہ اسی وقت ظاہر ہوا اور نمودار ہو گیا اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ لَهُ وَعَلَى

جنہوں نے خیردی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے کہ اللہ انہیں اور ان کے ہاتھوں پر

يَايَهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى سِرِيرًا صَحِيحَةً مِنْ قَبْلِ نَزْلِهَا

فتح دے گا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دیکھی اسی صحیحہ کی چارپائی

شَهْرَيْنِ بِحَدِّ قَاتِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارًا

دو ماہ کی مسافت سے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی عمار کو

بِأَنَّ تَقْتُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ فَمَاتَ فِي حَرْبٍ عَلِيٍّ وَمَعَادِيَةَ

کہ انہیں باغی جماعت قتل کرے گی تو وہ شہید ہوئے حضرت علی و حضرت معاویہ کی جنگ صفین میں

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَوْتِ ابْنِ أَيُّوبَ بِأَرْضِ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سچی خبر دی ابویوب انصاری کے ارض روم میں

الرُّومِ حَقًّا فَكَانَ يُدْعَى بِقَبْرِهِ هُنَاكَ وَيُسْتَسْقَى وَصَلِّ عَلَى

وفات پانے کی تو وہاں ہی ان کی فرار پر دعا مانگی جاتی تھی اور بارش طلب کی جاتی تھی۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَوْلَادًا وَآخِرًا بِمَوْتِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلا دیا اول سے آخر تک ان کی موت کے متعلق جو مرے گا

الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كَلِمَاتًا

اہل اسلام میں سے کافر ہو کر۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ انہوں نے جب بھی

سَأَلَ رَبَّهُ أَعْطَاهُ وَبَلَغَهُ فِي ذَلِكَ سُؤْلَهُ وَرَضَاهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے رب سے سوال کیا تو اس نے عطا فرمایا اور انہیں پہنچا اپنے مطلوب و محبوب امزنگ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كَلِمَاتًا سَأَلَ رَبَّهُ بِهَا يَسْأَلُ الْمَحَبُّ عَنْ مَحْبُوبِهِ بَلَّغَهُ

محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ انہوں نے جب بھی اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا جو طلب کرتا ہے محب اپنے محبوب سے تو اللہ نے پہنچایا

اللَّهُ فِي ذَلِكَ غَايَةَ مَطْلُوبِهِ وَمَحْبُوبِهِ وَأَخْبَرَ قُرَيْشًا بِالَّذِي

انہیں اس معاملہ میں غایت مطلوب و مقصود تک۔ اور خبر دی قریش کو اس شخص کی کہ

شَرَدَلَهُ مِنْ عَيْرِهِمُ الْبَعِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھاگ گیا اس کا اونٹ قافلہ سے (شب معراج)۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ قُرَيْشًا أَنَّ الْقَافِلَةَ يَقْدُمُهُمْ

و آل محمد پر جنہوں نے خبر دی قریش کو کہ قافلہ آئے گا اس حال میں کہ سب سے پہلے

بِغَيْرِ أَيْضٍ وَفُلَانٌ عَلَيْهِ رَاكِبٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سفید اونٹ ہوگا اور فلان شخص اس پر سوار ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِرُؤْيَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے بتلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا خواب

وَ أَخْبَرَ أَبِي بَكْرٍ بِمَا أَوَّلَ الرَّاهِبِ رُؤْيَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور بتلایا انہیں جو تعبیر کی تھی ان کے خواب کی راہب نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبِي بَكْرٍ بِمَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی ابو بکر صدیق کو جو انہیں

قَالَ لَهُ الْكَاهِنُ إِنَّ رُؤْيَاكَ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کہا تھا کاہن نے کہ تیرا خواب بے حقیقت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

التَّقْفِيَّ وَالْأَنْصَارِيَّ بِالْمَرَامِ وَأَخْبَرَ بِالْحَوَادِثِ الَّتِي لَحِقَتْ

تقفی اور انصاری کو ان کے مقصد کی اور خبر دی ان حادثات کی جو لاحق ہوں گے

بِأَهْلِ بَيْتِهِ الْعِظَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَ

آپ کے اہل بیت عظام کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيَّ

آل محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے

عَلِيَّةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ شُتَّ أَسْبِيْرِمُ بَنِي فُلَانٍ

ہاتھوں پر ہوگی اور فرمایا ابو ہریرہ نے اگر میں چاہوں تو ان کا نام لے کر بتلا دوں کہ وہ فلان

وَبْنِي فُلَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
 فُلاں کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل
مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَانَ يُفْتَحُ لِبَيْتِهِمْ يَكُونُ فِيهِمْ وَاحِدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ
 پر جنہوں نے خبر دی کہ فتح دی جائے گی ہر اس لشکر اسلام کو جس میں ایک صحابی بھی ہو گا
وَأَخْبَرَ صَفِيَّةَ بِمَارَاتٍ فِي الْمَنَامِ أَنَّ فِي حُجْرِهَا الْقَمَرَ اللَّهُمَّ
 اور خبر دی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو جو اس نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گود میں چاند ہے۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ
 صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَرْمِي بِسُجُنَيْقٍ وَأَخْبَرَ هَوْلَاءَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ طَرَحُوا
 بیت اللہ الحرام پر پتھر پھینکے جائیں گے منجھتیق کے ساتھ اور یہود خیر کو بتلایا کہ انہوں نے
فِي الشَّاةِ السَّمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
 س بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل
مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَارَةِ مَعَاوِيَةَ بْنِ سَفْيَانَ وَأَخْبَرَ الْيَهُودَ
 پر جنہوں نے خبر دی حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے امیر المسلمین بننے کی اور خبر دی ان یہودیوں کو
الَّتِي طَرَحُوا السَّمَّ فِي الشَّاةِ أَنَّ أَبَاكُمْ فُلَانٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 جنہوں نے بکری کو زہر آلود کیا تھا کہ تمہارا باپ فُلاں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْمَقْتُولَ
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ مقتول
فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْقَاتِلِ يَعْنِي عِكْرَمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ
 جنت میں ہو گا اپنے قاتل کے ساتھ یعنی حضرت عکرمہ بن ابی جہل۔ اے اللہ صلوٰۃ و
سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَلْمَةَ
 سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

حِينَ أَهْدَى لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاتِي مِنَ الْبُسْكِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ يَمُوتُ وَ

کہ جب بطور ہدیہ نجاشی کی طرف کستوری کے کئی اوتھے بھیجے کہ نجاشی فوت ہو جائے گا اور

تُرَدُّ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

یہ ہدیہ واپس کر دیا جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ قَتْلِ نَزِيدٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ وَجَعْفَرَ

کی آل پر جنہوں نے خیر دیدی حضرت زید۔ حضرت ابن رواحہ اور حضرت جعفر کے شہید ہو جانے

وَ أَخْبَرَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا قَبْلَ إِتْيَانِ الْخَبْرِ اللَّهُمَّ

کی اور خیر دی اس گھڑی کی جس میں شہید کئے گئے ان کی خبر آنے سے قبل۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیر دی

حُذَيْفَةَ بِمَا أَسْرَفِي نَفْسَهُ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ أَرِنِي آيَةَ اللَّهِ

حضرت حذیفہ کو اس قول کی جو انہوں نے چھپا رکھا تھا کہ اے اللہ مجھے آیت و نشانی دکھلا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیر دی

تَيْمِ الدَّارِيَّ بِقِصَّتِهِ وَأَخْبَرَ أَبَا قَتَادَةَ بِأَن تَكُونُ مُعْجَزَةً فِي بَيْضَانِ

تیم داری کو انہیں پیش آنے والے واقعہ کی اور خیر دی حضرت ابوقتادہ کو کہ ان کے پاس موجود آپ کے وضو کے برتن کی وجہ معجزہ طاری

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیر دی

أَخْبَرَ عَمِيرًا بِقَتْلِهِ عَصَاءَ بِنْتِ مَرْوَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حضرت عمیر کو ان کے عصاء بنت مروان گستاخ نبی کے قتل کرنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَنَافِقًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیر دی کہ ایک منافق نے

قال إن محمدا يزعم أنه نبي يُخبر عن السماء ولا يدري أين ناقته على الأرض الآن اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد

ان کی اونٹنی اس وقت زمین کے قطعات میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔

وعلى آل سيدنا محمد الذي أخبر بالشهادة لنعمان بن بشير

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو شہادت کی

وأخبر فضالة بما زاد من قبله لطواف الكعبة اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

اور خبر دی فضالہ کو جو اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا طواف کعبہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت معاذ بن جبل

جبل بالأسير وأخبر يزيد بن أرقم بالعمى اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

جبل بالأسیر و خبر زید بن ارقم کو نابینا ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی اپنے چچے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے چھپائے

العباس اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

الذی أخبر بان يظهر في ثقيف كذاب ومبير وأخبر أبا أيوب

جنہوں نے خبر دی کہ ظاہر ہوگا قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب (مختار) اور دوسرا ظالم (حجاج) اور خبر دی حضرت ابو ایوب کو

بالأسير اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

تیبی کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت سعد بن ابی وقاص سے ان کے ظاہر ہونے کی

مِنْهُ وَإِصَابَةَ نَفْعِهِ قَوْمًا وَضَرْبَهُ آخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ان کی طرف سے ایک قوم کو نفع پہنچنے کی اور دوسرے فریق کو نقصان و ضرر پہنچنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِقَتْلِ كِسْرَى

فرما سیدنا محمد پر و آل محمد پر جنہوں نے خیردی کسری (شاہ فارس) کے قتل ہو جانے کی

وَأَخْبَرَ بِمَا أَسْرَأَ إِلَيْهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور خیردی اس کی جو ابن زبیر نے بطور راز اسے کہا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْقَتْلِ مُبِيرَ بْنَ

محمد و آل محمد پر جنہوں نے خیردی قتل ہو جانے کی حضرت زبیر بن

الْعَوَامِ وَأَخْبَرَ بِالْمَرَامِ وَإِبْصَةَ بَنِ مَعْبِدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

العوام کو اور خیردی و ابصہ بن معبد کو ان کے قلبی مقصود کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنِ فَتْحِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خیردی جنگ

غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

خندق میں فتح کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا السَّحَابَ يُبْطِرُ وَإِذَا فِي الْيَمِينِ

محمد پر جنہوں نے خیردی کہ یہ بادل بارش برسائے گا یمن کی ایک وادی میں

وَأَخْبَرَ بِأَنْ تُقْسَمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَتُونُ كِسْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور خیردی کہ اللہ کی راہ میں تقسیم ہوں گے کسری کے خزانے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ أُمَّتِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیردی کہ میری امت کے لیے

سَتَكُونُ لَهُمْ أَنْبَاطٌ يَغْدُو وَاحِدُهُمْ فِي حُلَّةٍ وَيُرْوَحُ فِي آخِرِي

پرے تھے ہوں گے ان کے درو دیوار پر۔ ان میں ایک شخص صبح کرے گا ایک پوشاک میں اور شام کرے گا دوسری میں

وَتَوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ صُحْفَةً وَتَرْفَعُ أُخْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور رکھا جائے گا اس کے سامنے ایک پیالہ اور اٹھایا جائے گا دوسرا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي غَلَّ خُرُزَ الْيَهُودِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی اس شخص کے متعلق جس نے بطور خیانت لے لیے تھے

بِخَيْبَرٍ وَأَخْبَرَ بِسَارَامِ الْأَعْرَابِيِّ لِقَتْلِ ابْنِ سَفِيَّانَ اللَّهُمَّ صَلِّ

خزراہیہود خیبر میں۔ اور خبر دی اعرابی کے ابوسفیان کو قتل کرنے کے عزم و ارادہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْقَتْلِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے شہادت کی خبر دی عمار بن یاسر

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَأَخْبَرَ أَنَّ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ شَرُّ الْبَشَرِ صَلِّ وَسَلِّمْ

رضی اللہ عنہ کو اور بتلایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا شرمسار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ مِصْرَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے مصر فتح ہونے کی خبر دی

وَأَخْبَرَ أَنَّ قُرْمَانَ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور قزمان کے دوزخی ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِحُدُوثِ أَمْرِ فِي خُرَاعَةَ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی بنی خزاعہ میں حادثہ رونما ہونے کی

وَأَخْبَرَ سَبِيحًا أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَكْلَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور خبر دی سبیح کو کہ اسے اکلہ (اعضاء کا گوشت کھانے والی بیماری) گرفت میں لے گی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنِ وَقْعِ الْفِتْنَةِ خِلَالَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی فتنہ کے واقع ہونے کی مدینہ منورہ کے

بُيُوتِ الْمَدِينَةِ كَوَقْعِ الْبَطْرِ وَأَخْبَرَ عَنِ غَسْلِ الْمَلَائِكَةِ حِظْلَةَ الْأَمِيرِ

گھروں میں مانند گرنے بارش کے قطرات کے اور خبر دی ملائکہ کے حضرت حنظلہ کو غسل دینے کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

بِفَتْحِ يَوْمِ الْفُرْقَانِ وَأَخْبَرَ بِأَسْمَاءٍ مِنْ مَّاتَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْأَعْدَاءِ

فتح کی بدر کے دن اور خبر دی بدر کے دن مرنے والے اعداء کے ناموں کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَنْ يُظْفِرُوا عَلَى رَأْسِ بَيْرٍ وَكَذًا

خبر دی اپنے بعض صحابہ کرام کو بدر کے دن کہ وہ غالب آئیں گے کنوئیں کے اوپر اور ایسے ہی

بِخَبَرِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دشمنوں کے متعلق اطلاع دی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ الرُّومِ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَلَكًا نَصَرَ أَبَا الْيَسْرِ إِذَا

پر جس محبوب نے خبر دی روم کے فتح ہونے کی اور خبر دی کہ ایک فرشتے نے ابو الیسر کو امداد دی جبکہ

أَسْرَ الْعَبَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انہوں نے (بدر میں) قید کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَثْبَانِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَأَخْبَرَ

پر جنہوں نے خبر دی حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی کی آمد کی اور خبر دی

بِمَوْتِ هُوَذَةَ الْحَنْفِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہووذہ حنفی کی موت کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الْيَهُودِيَّةَ بِمَارَاتٍ فِي الْمَنَامِ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی یہودی عورت کو اس کے خواب سے متعلق

وَأَخْبَرَ بِقُدُومِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور خبر دی وائل بن حجر کے (قبول اسلام کے لیے) آنے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِأَنْ يُسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کے انکار استقبال کرنے کی

لِلصُّعُودِ عَلَى الْعَقْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پہاڑی راستہ پر چڑھتے وقت - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ عَمَّارًا يَطْلُبُ الْمَاءَ عِنْدَ الْقَتْلِ وَيُعْطِي

کی آل پر جنہوں نے خیر دی کہ عمار پانی طلب کریں گے قتل ہونے کے وقت اور دیا جائے گا

الْمَاءَ الْمَخْلُوطَ بِاللَّبَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

انہیں دودھ جس میں پانی ملا ہوگا - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ يُلْبِسُ عُثْمَانَ قَبِيصًا وَ أَنَّهُمْ

کی آل پر جنہوں نے خیر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ قمیص پہنائے گا اور بعض لوگ

يُرِيدُونَ خَلْعَهُ مِنْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس قمیص کے ان پر سے اتارنے کا ارادہ کریں گے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِشَهَادَةِ عُثْمَانَ وَأَنَّ عُثْمَانَ يُقْتَلُ

کی آل اطہار پر جس محبوب نے خیر دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اور ان کے شہید ہونے کی

عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قرآن کریم کی تلاوت کے دوران - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ دَمَ عُثْمَانَ يَقْطُرُ عَلَى قَوْلِهِ

آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خیر دی کہ حضرت عثمان کا خون چپکے گا اللہ تعالیٰ کے اس قول

تَعَالَى فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر پس عنقریب اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا آپ کی ان سے اور وہی سنتے جانے والا ہے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ ذَهَابِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے خیر دی بجا وہ نشین عورت کے

الطَّيِّبَةِ بِكِتَابٍ حَاطِبٍ إِلَى أَهْلِ الْبَلَدَةِ الْأَمِينَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خطے جانے کی حاطب کی طرف سے بلد امین (مکہ) والوں کی طرف - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا كُفَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے خبر دی کہ ان پر یہ افترا کرنے والے

أَمْرٌ مِّنْ افْتَرَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَأَخْبَرَ عَنْ وَقْعَةِ صِفِّينَ اللَّهُمَّ

کے امر سے کفایت کر دی گئی ہے کہ مجھے آپ نے بھیجا ہے اور خبر دی آپ نے صفین کی جنگ کی - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ مَعَاوِيَةَ لَا تُغْلَبُ وَأَخْبَرَ أَنَّ التُّرُكَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ اللَّهُمَّ

کہ بیشک حضرت معاویہ مغلوب نہیں ہوں گے اور بتلایا کہ ترک عربوں سے قتال کریں گے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی حضرت

بِشَهَادَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَ بِأَنَّ عَمَّارًا مَّرَعَ الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اور خبر دی کہ حضرت عمار نے شیطان کو بچھاڑ دیا ہے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

عَمَّارًا بِأَنَّ يَبْنَعَهُ مَانِعٌ مِّنْ إِخْرَاجِ الْمَاءِ مِنَ الْبَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حضرت عمار کو کہ انہیں رکاوٹ درپیش ہوگی کنوئیں سے پانی نکالنے میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِمَا قَالَتْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کرام کو اس شخص

لَهُمْ زَوْجَةٌ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ لَا يَتَرَدُّ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ إِلَّا قَلِيلًا فَمَاتَ

کی زوجہ کے قول کی جو بہت کم آتا تھا آپ کی مجلس شریف کی طرف پس وہ فوت ہو گیا

وَدَخَلَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور جنت میں داخل ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبَا سَفْيَانَ يَأْتِي لِتَجْدِيدِ الْعَهْدِ وَأَخْبَرَ عَنِ

پر جنہوں نے خبر دی کہ ابوسفیان تجدید عہد کے لیے آئے گا اور خبر دی اس عورت کے متعلق

الْمَرْأَةِ مَعَ مُزَادَتِي الْمَاءِ عَلَى النَّاقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو پانی کی دو بڑی مشکیں لیے اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنِ فَتْحِ الْيَمَنِ وَالْمَدَائِنِ

محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی یمن اور مدائن کے فتح ہونے کی

وَأَخْبَرَ عَمَّا هُوَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ اللَّهَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور خبر دی ہر اس امر کی جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الرُّومَ ذَاتَ قُرُونٍ إِلَى

محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اہل روم متعدد جماعتوں والے ہوں گے

أَجْرَالِدَّاهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بمیشہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کو کہ داخل ہو گا ان پر جنتی آدمی

مِنْ هَذَا الْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس دروازہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ أَرْضِ الْعَجَمِ وَأَنَّ فِيهَا الْحَمَامَاتِ وَأَخْبَرَ

آل پر جنہوں نے خبر دی بحی علاقہ کے فتح ہونے کی اور اس میں حماموں کی موجودگی کی اور خبر دی

فَرَّقَ إِيمَاءَ الْقِيَامَةِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرقہ کو جو کچھ ہاتف غیبی نے اسے بتلایا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ ذُبَابَ بَنِ الْحَارِثِ بِقَوْلِ الْجَنِيِّ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیردی ذباب بن الحارث کو جن کے قول کی

وَكَسِرَ الصَّخْرَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يُحَارِبُهُ الزُّبَيْرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور بت توڑنے کی اور خیردی کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت زبیر جنگ کریں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیردی حضرت عبد الرحمن

بْنَ عَوْفٍ بِرِسَالَةِ عَثْكَلَانَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ آيَاتَهُ فَأَسْلَمَ

بن عوف کو عثکلان کے خط کی اور پڑھے ان پر اس کے اشعار پس وہ اسلام لانے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّىٰ تَخْتَضِبَ

جنہوں نے خیردی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ آپ کی مجلس میں حاضر تھے کہ وہ فوت نہیں ہونگے یہاں تک کہ رنگین

لِحَيْتِهِ مِنْ دَمِ هَامِيَةٍ وَأَخْبَرَ بِمَقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَمَضْجِعِهِ وَحَلِّ

ہوگی ان کی ڈاڑھی ان کے سر کے خون سے اور خیردی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اور ان کی جائے شہادت

مَوْتِهِ وَمَوْضِعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور موت کے محل و مقام کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ تَلِدُ أَمِيرًا يَأْخُذُ بِثَارِ الْحُسَيْنِ

کی آل پر جنہوں نے خیردی کہ حضرت ام الفضل جنم دیں گی ایسے امیر کو جو حسین کے قتل کا بدلہ لے گا

وَأَخْبَرَ بِفَتْحِ عَمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور خیردی عمان کے فتح ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمِيرًا بِمَا شَارَطَهُ صَفْوَانٌ وَبِمَا قَصَدَ مِنْ

کی آل پر جنہوں نے خیردی عمیر کو جو شرط طے کی تھی اس سے صفوان نے اور اس نے جو آپ کے شہید کرنے کا قصد

قَتْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 کر رکھا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر
الَّذِي أَخْبَرَانِ رَاكِبِ النَّاقَةِ أَبُو خَيْثَمَةَ وَأَخْبَرِيَانِ يَطْهَرُ فِي
 جنہوں نے خیردی کہ اونٹنی سوار ابو خیثمہ ہے اور خیردی کہ ظاہر ہو گا
الْيَمَامَةِ كَاذِبٌ يَدْعِي النُّبُوَّةَ فَيُقْتَلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
 یمامہ میں کاذب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا پس قتل کیا جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانِ أَبَا مَطْعُونٍ
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیردی کہ ابو منطعون
مِّنَ الْأَمْوَاتِ فَمَا بَلَغَ مَنَزِلَهُ حَتَّى مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
 اموات سے ہیں پس وہ نہ پہنچے اپنی منزل تک حتیٰ کہ مر گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَتْهُ عَمِيْسٌ
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیردی حضرت اسماء بنت عمیس کو
بِأَنَّ زَوْجَهَا جَعْفَرٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 کہ ان سے شادی کریں گے حضرت جعفر پھر حضرت ابو بکر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ اے اللہ صلوٰۃ و
سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانِ مَلِكًا
 سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیردی کہ ایک فرشتہ نے
سَرَ السَّائِبِ وَأَخْبَرُ سَرَاقَةَ بِنَ مَالِكِ أَنَّهُ يَلْبِسُ سِوَارَ كَسْرِي
 سائب کو راز کی بات بتلائی اور خیردی کہ سراقہ بن مالک پہنیں گے کسری کے کٹن۔
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
الَّذِي أَخْبَرَانِ وَوَلَدَ الْعِيَّاسِ يَمْلِكُونَ أضعافَ مَلِكِ بَنِي أُمَيَّةَ
 جنہوں نے خیردی کہ حضرت عباس کی اولاد کئی گنا زیادہ عرصہ حکومت کریں گے نسبت بنو امیہ

فِي الْوَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کی مخلوق میں حکمرانی کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْمَدِينَةَ سَعْرِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جنہوں نے خبر دی کہ مدینہ عنقریب خالی ہو جائے گا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الدِّمَاءَ تَغْمِرُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ مقتولین کے خون ڈھانپ لیں گے

أَجَارَ الزَّيْتِ فَوْقَ فِي وَقْعَةِ الْحَرَّةِ وَأَخْبَرَ عَنُ وَقُوعِ الطَّاعُونَ

روغنی آلود نظر آنے والے پتھروں کو پس حرہ کے واقعہ میں یہ غیبی خبر پوری ہو گئی اور خبر دی مدینہ میں طاعون کے

فِي الْمَدِينَةِ الْمَطَهَّرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

و وقوع پذیر ہونے کی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْبَرَامِ لَوَائِلَةَ ابْنِ الْأَسْقَعِ وَأَخْبَرَ بِمِقَالَةَ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی وائیلہ بن اسقع کو اس کے مقصد کی۔ اور خبر دی ابن سلول کے

ابْنِ سَلُولٍ قَبْلَ أَنْ سَمِعَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قول کی سننے سے قبل۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كِرْكِرَةَ فِي النَّارِ وَأَخْبَرَ عَنُ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ کرکہ خادم آگ میں ہے۔ اور خبر دی

فَتْحِ الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شام کے فتح ہونے کی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ مَّعْشَرِ الْقُرَيْشِ بِمَا قَالَ يَوْمَ

پر جنہوں نے خبر دی قریش کی جماعت میں سے ہر ایک کو اس کے قول کی فتح مکہ کے

فَتْحِ مَكَّةَ وَأَخْبَرَ رَجُلًا بِمَا حَدَّثَتْ نَفْسُهُ أَنْ لَيْسَ فِي هَذَا الْجُمُعَةِ

دن اور خبر دی اس شخص کو جس کے نفس نے اس کو دوسو سو ڈالا کہ اس جماعت میں اس سے بہتر

أَحَدٌ مِّنِّي أَوْ لِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کوئی شخص نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يُدْفَنُ وَمَعَهُ كَالْمَصْبَاحِ

پر جنہوں نے خبر دی کہ ان کے بعض صحابہ کو اس حال میں دفن کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ چراغ کی مانند نور ہوگا

فَأَضَاءَ مَعَهُ فِي قَبْرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پس وہ اس کے ساتھ قبر میں روشنی دے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَنَّ الَّذِي حَلَفَ لِمُرَاتِهِ فِي بَيْتِهِ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اس شخص کے متعلق جس نے قسم اٹھائی اپنی بیوی کے لیے گھر میں

وَحَنَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور حانت ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ ظُهُورِ فِتْنٍ بِالْعِرَاقِ وَأَخْبَرَ طَلْحَةَ بِالْقَتْلِ

جنہوں نے خبر دی عراق میں خارجیوں کے فتنہ کے ظہور کی اور خبر دی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ عُمَرَ يُخْرِجُ الْيَهُودَ مِنْ خَيْبَرَ وَأَخْبَرَ نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ

خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکال دیں گے یہودیوں کو خیبر سے اور خبر دی نوفل بن الحارث کو

بِالرَّمَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیزوں کے متعلق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِأَنَّ إِدْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ وَمَا لِقَاءَهُ الْهَاتِفُ الْيَهُودِ

جنہوں نے خبر دی اشعث بن قیس کے مرتد ہو جانے کی اور جو ہاتف غیبی نے اس کو کہا۔ اور

أَخْبَرَ بِأَيِّفَاءِ الدُّبِّ بِمَا كَفَلَ لِأَهْبَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خبر دی بھیڑیے کے پورا کرنے کی اس عمدہ کفالت کو جو اہبان سے کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عُمَرَ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ان میں ایسے شخص

تَجْمَعُ عَلَيْهِ الْأَحْزَابُ يَعْنِي أَبَاسُفِيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

ہیں جن پر تمام عساکر کفار جمع ہو جائیں گے یعنی ابوسفیان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ رَافِعَ بْنَ عَمِيرٍ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی رافع بن عمیر کو

بِمَارَأَىٰ فِي الْمَنَامِ وَأَخْبَرَ بِفَتْحِ مَكَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

جو کچھ اس نے دیکھا تھا خواب میں اور خبر دی فتح مکہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْقَتْلِ فِي الْعِرَاقِ عَلِيًّا

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عراق میں شہید کئے جانے کی

وَأَخْبَرَ خَزِيمَ بْنَ يَعْلَىٰ بِمَا أَخْبَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الدَّيْجُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور خبر دی خزیم بن یعلیٰ کو جو کچھ انہیں بتلایا تھا جن نے شب تاریک میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَاهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابوہریرہ

بِقَدْوَمِ غُلَامِهِ وَأَخْبَرَ بَعْضَ جَارِهِ بِمَا أَسْرَمَ مِنْ إِسْلَامِهِ اللَّهُمَّ

ان کے غلام کی آمد کی اور خبر دی بعض پڑوسیوں کو جو اس نے چھپایا یعنی اپنے اسلام کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَن

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَزْوَاجَهُ الطَّاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عبدالرحمن بن عوف کی کھجوروں سے اور اپنی ازواج مطہرات کو بطور ہدیہ دئے جانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَدِيَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی عدی

بَن حَاتِمِ أُمَّكَ كُنْتَ مَرْبَاعًا مِّنْ قَوْمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بن حاتم طائی کو کہ تو تھا اپنی قوم سے چھارمی وصول کرنے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِاتِّخَاذِ بَنِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی بنو امیہ کے بنائینے سے

أُمَّيَّةَ مَالِ اللَّهِ دَوْلًا وَأَخْبَرَ بِفَتْحِ أَيْلَةِ أَصْحَابَةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ کے مال کو ذاتی دولت و ملکیت اور خبر دی اپنے صحابہ کو ایلہ کے فتح ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مَقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت مقداد بن الاسود کو

بِالَّذِي أَرَادَ أَنْ يُشْرِبَ شَرَابَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس شخص سے متعلق جس نے ارادہ کیا ان کا شراب پینے کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولَ أَهْلِ الْيَمَنِ وَالطَّائِفِ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اہل یمن اور طائف کے ایچی کو

بِمَا سَبَعُوا مِنْ الْهَاتِفِ فِي شَأْنِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو سنا اس نے ہاتف سے آپ کی شان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنِّي وَفِي

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ ابن زبیری آیا ہے اور اس کے

وَجْهَهُ نُورُ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

چہرے میں نور الاسلام ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْأَنْصَارَ يَقْتُلُونَ فَيَكُونُونَ كَالْبِلَدِ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ انصار کم ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ ہوں گے مانند نمک کے

فِي الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

طعام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانِ الْأَنْصَارَ يَقْلُونَ بَعْدَهُ أَثَرَةً فَأَصَابَتْهُمُ

پر جنہوں نے خیر دی کہ انصار کم ہوتے جائیں گے از روئے ایشار و ترجیح کے تو پہنچی انہیں یہ پریشانی

فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے ایام امارت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَانَ يُقْدَمُ عَلَيْهِ رَجُلٌ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیر دی کہ آئے گا ان کے پاس ایک شخص

يَتَكَلَّمُ بِلسَانِ شَيْطَانٍ فَظَهَرَ فِي الْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ جو کلام کرے گا شیطان کی زبان سے تو وہ ظاہر ہو گیا اسی لمحے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ رَجُلَيْنِ بِأُغْتِيَا بِهِمَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیر دی دو شخصوں کو ان کے نیت کرنے کی

سَلْمَانَ وَأَخْبَرَ وَأَفْدَا كِسْرِي بِمَا أَضْمَرَ مِنْ خَيْرِ الطَّائِرِ اللَّهُمَّ

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی اور خیر دی کسری کے نمائندے کو جو اس نے چھپا رکھی تھی پرندے کی خیر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیر دی

فَاطِمَةَ أَنَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ قَائِمَانِ فِي خَطِيرَةِ بَنِي النَّجَّارِ

حضرت سیدہ زہراء رضی اللہ عنہا کو کہ حسین رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں بنو النجار کے احاطہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ بَلَاءَ تَصِيبُ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے خیر دی کہ مصیبت پیش آئے گی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ حَبِيبَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیر دی حبیب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیر دی

بَن مَالِكٍ بِمَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنْ حَالِ ابْنَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بن مالک یعنی کو جو اس نے دل میں چھپا رکھا تھا اپنی بیٹی کی لاچاری کا حال۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

بِأَن يُدْفَنَ عَنْ عُنْدَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ

کہ دفن کئے جائیں گے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يَمُوتُ بِأَرْضِ الرُّومِ بِلَادِ رَيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی کہ حضرت ابو ایوب فوت ہوں گے روم کے علاقہ میں بلاشبہ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

عَلِيًّا بِأَنَّ مَضْرًا صَاحِبَ الْبَيْرِ وَأَخْبَرَ بِظُهُورِ قَوْمٍ يَبْغُضُونَ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مضر کی آمد کی جو کنوئیں کا مالک تھا اور خبر دی ایسی قوم کے ظاہر ہونے کی جو بغض رکھیں گے

أَصْحَابَهُ الْكِرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَعَلِيٍّ فِي ذَلِكَ

آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی جنگ جمل کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس میں غالب

الْحَرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ ابْنَ كَعْبٍ بِالَّذِي جَاءَهُ فِي صِفَةِ الْكَلْبِ اللَّهُمَّ

خبر دی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی (حقیقت کی) جو آیا ان کے پاس کتے کی صورت میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ صَاحِبَةَ الْجَمَلِ تَنْجُو بَعْدَ مَا قَرِبَتْ بِالْهَلَكَةِ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ

اونٹ پر سوار ہونے والی نجات پائے گی بعد ہلاکت کے قریب پہنچنے کے اور خبر دی اپنے صحابہ کو

أَنَّ دَحِيَّةَ يَدْخُلُ الْآنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کہ دحیہ کلبی ابھی داخل ہونے والا ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ بِأَيِّ مَرَضٍ يَمُوتُ وَأَخْبَرَ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو بکر کو کہ آپ کس مرض سے فوت ہوں گے اور آپ

أَنَّ مَسْجِدَهُ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی مسجد آگ سے جلائی جائے گی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ أَصْحَابَهُ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے ابن ابی الحقیق یہودی کے قتل ہو جانے کی خبر دی اپنے اصحاب

الْأَطْهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اطہار کو۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا ذَرٍّ بِأَنْ يُقْتَلَ ابْنُهُ وَأَخْبَرَ بِمَا هَمَّ عَلَى الْعُقَبَةِ

جنہوں نے خبر دی حضرت ابو ذر کو ان کے بیٹے کے قتل ہونے کی اور خبر دی جو ارادہ کیا پہاڑی راستہ میں آپ پر حملہ

وَالْمُنَافِقُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

منافقین نے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِنَصْرِ الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

پر جنہوں نے خبر دی ملائکہ کی نصرت کی احد کے دن عبد الرحمن بن عوف کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِفَقْدِ بَصِيرَةِ لَمَّارِ أَيُّ جِبْرِائِيلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خبر دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بصارت کے زائل ہونے کی جب دیکھا انہوں نے جبیر بن نفیل کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِوُقُوعِ

الرِّدَّةِ بَعْدَ مَوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيَّامِ رَيْعِيشٍ وَحَيْدًا وَيَمُوتُ وَحَيْدًا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَعْدًا لَا يَمُوتُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيَّامِ

بِأَخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِأَنَّ يَمْلِكُ

جَارِيَةً مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يُولَدُ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَارِيَةِ

عَلَامٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَعْدًا لَا يَمُوتُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيَّامِ

بِأَخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِأَنَّ يَمْلِكُ

جَارِيَةً مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يُولَدُ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَارِيَةِ

عَلَامٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَعْدًا لَا يَمُوتُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيَّامِ

بِأَخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِأَنَّ يَمْلِكُ

جَارِيَةً مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يُولَدُ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَارِيَةِ

عَلَامٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَعْدًا لَا يَمُوتُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيَّامِ

بِأَخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِأَنَّ يَمْلِكُ

جَارِيَةً مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يُولَدُ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَارِيَةِ

عَلَامٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ إِيْيَانِ وَفِدَائِ عَبْدِ الْقَيْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنہوں نے خبر دی عبد القیس کے وفد کی آمد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِخُرُوجِ الْأَسْوَدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے اسود غسی کے

الْعَنَسِيِّ وَأَخْبَرَ أَنَّ فَيْرُونَ يُقْتَلُ الْأَسْوَدَ الْكَذَّابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ظہور اور دعوائے نبوت کی اطلاع دی۔ اور بتلایا کہ فیروز دہلی قتل کرے گا اسود کذاب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی اس شخص کی جس نے

عَلَىٰ الْبُرْدَةِ مِنَ الْمَغَانِمِ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يُقْتَلُهُ ابْنُ مُلْجَمٍ اللَّهُمَّ

چراغ چادر اموال غنیمت سے اور خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم شہید کرے گا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

أَمِيَّةَ ابْنَ خَلْفٍ بِالْقَتْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

امیہ بن خلف کافر کے قتل ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَرْتِحَالِ الطَّعِينَةِ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّىٰ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی عورتوں کے سفر کرنے کی حیرہ سے حتیٰ کہ

تَطُوفَ بِالنَّعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَتَقْدَسُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کعبہ کا طواف کریں گی در آنجا لیکہ اس طویل سفر میں انہیں ڈریں گی مگر اللہ تعالیٰ و تقدس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اہل مدینہ کو

يَوْمَ دَخَلَهَا عَمَّا أَكَلُوا الْبَارِحَةَ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ رِيْرَةَ بِالْأَسِيرِ اللَّهُمَّ

جس دن آپ اس میں داخل ہوئے جو انہوں نے کھایا گذشتہ رات اور خبر دی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو قیدی کی حقیقت کی کہ وہ شیطان

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَنِي

عَامِرِ بْنِ ثَابِتٍ وَرُقَيْدَةَ وَأَخْبَرَ بِقُدُومِ وَقْدِ الْأَشْعَرِيِّينَ
بن ثابت اور ان کے رفقہ کی شہادت کی اور خیردی قبیلہ اشعر کے وفد کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ جَمَالَاتِ حَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَّاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ
جنہوں نے خیردی حارث بن ابی ہزار کے اونٹوں کی۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

أَنَّ نَزِيدَ بْنَ صَوْحَانَ يَسْبِقُهُ عَضُوقَمْنَهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَبِعَتْ
کہ زید بن صومان کا ایک عضو ان سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا پس ان کا ہاتھ

يَدَا فِي الْحَرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلِكَ بِمَقْوَقِسٍ لَا يَبْقَى وَأَخْبَرَ
کی آل اطہار پر جس آقا نے خیردی کہ ملک اب مقوقس کے پاس نہیں رہے گا اور خیردی

مَعْشَرَ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ يَا بَنَ صُورِيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَيْنَ قَالِ
ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیردی اس منافق کی جس نے کہا تھا

لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ اللَّهُمَّ
نہ نکلو جہاد کے لیے شدید گرمی میں اور خیردی اپنے صحابہ کو بعض غزوات میں کہ وہ

يَلْقَوْنَ عَدُوًّا غَدًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر ملاقات کریں گے دشمن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَثْيَانِ الْمَلَأَكَةِ بِالْكَفْرِ وَالْحَنُوطِ لِأَمْرِ هَذَا

پر جنہوں نے خبر دی ملائکہ کے کفر اور خوشبو لانے کی اس

الصَّبِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بچے کی والدہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي اسْتَأْجَرْتَهُ قُرَيْشٌ لِّقَتْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے خبر دی اس شخص کے متعلق جسے قریش نے آپ کے شہید کرنے کیلئے اجرت پر لیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ الْحِيرَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حیرہ کے فتح ہونے کی

وَأَسْرِ شِيَمَاءَ رَاكِبَةً عَلَى الْبَغْلَةِ الْبَيْضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور شیماء کے سفید نچر پر سواری کی حالت میں قید ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَبَا حَذِيفَةَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے ابو حذیفہ کو شہادت

بِالشَّهَادَةِ فَأَدْرَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی خبر دی تو انہوں نے اسے پالیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ أَصْحَابَهُ الْكِرَامِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی سمندر والے غزوہ و جہاد کی اپنے صحابہ کرام کو

وَأَخْبَرَ بِالتَّطَاوُلِ فِي الْبَنِيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور خبر دی عمارات میں ایک دوسرے پر بالادستی کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ وَفَدَّ عَبْدَ الْقَيْسِ بِجَرَحٍ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی وفد عبد القیس کو ایک شخص کی پنڈلی کے زخمی

السَّاقِ بَعْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہونے کی شراب پینے کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَطَّلِعَ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی اپنے اصحاب کو کہ ابھی رونما ہو گا

عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان پر ایک بدوی شخص اس صحراء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

سُفْيَانَ بِمَا تَفَكَّرَ مِنْ تَطْلِيْقِ زَوْجَتِهِ لِإِشَاءِ السِّرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

ابو سفیان کو جو اس نے سوچا تھا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا بسبب اس کے راز فاش کرنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَدْرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی مکہ کے

مَكَّةَ أَفْلَاحَ كَيْدِهَا يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَعَمْرُ بْنُ الْعَاصِ

اپنے جگر کے ٹکڑوں کے پھینکنے کی یعنی حضرت خالد بن الولید۔ حضرت عمرو بن العاص اور

وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کی مدینہ منورہ (بعض ایمان آمد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِإِشَارَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی ابولبابہ کے اشارہ

أَبِي لُبَابَةَ حِينَ حَدَّارَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَخْبَرَ بِقَتْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

کی جبکہ انہوں نے ڈرایا بنو قریظہ کو قتل کے ساتھ اور خبر دی ابن زبیر کے شہید ہونے کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِخُرُوجِ وَلَدِ الْعَبَّاسِ الرَّايَاتِ السُّودِ وَأَخْبَرَ بِالْأَخْبَارِ

جنہوں نے خبر دی حضرت عباس کی اولاد کے سیاہ پرچموں کے ساتھ نکلنے کی اور خبر دی ان اخبار

الَّتِي أَخْبَرَتْ بِهَا الْيَهُودُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کے متعلق جن سے یہود نے لوگوں کو مطلع کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ السَّفِينَةَ بِمَا فَعَلَ بِهَا

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت سفینہ کو کہ کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ

الْأَسَدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شیر نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنْ خَبَرِ الطَّائِرِ

پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو بکر کو جو انہوں نے دل میں چھپا رکھی تھی پرندے کی خبر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِوُقُوعِ الْمَوْتَانِ بَعْدَ فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ اللَّهُمَّ

جنہوں نے خبر دی بکثرت اموات کے وقوع پذیر ہونے کی بیت المقدس کی فتح کے بعد۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّهُ سَتَخْدِمُ أُمَّتِي بَنَاتِ الرُّومِ وَفَارِسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی کہ عنقریب خدمت کریں گی روم و فارس کی بیٹیاں میری امت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

بِتَسَلُّطِ شَرَارِ الْأُمَّةِ عَلَى خِيَارِهَا حِينَ سُبِيَ أَوْلَادُ فَارِسَ

امت کے شریروں کے مسلط ہونے کی بہترین افراد امت پر جبکہ قیدی بنائی جائے گی فارس

وَالرُّومَ وَاسْتَخِدْ مَوْلَاهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

روم کی اولاد اور ان کو خادم بنایا جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الْمُنْفِقِينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِمَا قَالُوا

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی منافقین کو غزوہ تبوک میں اس کی جو انہوں نے کہا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ شَيْبَةَ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُظْهِرْهَا عَلَى

خبر دی شیبہ کو ان اشیاء کی جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں اور کسی پر انہیں ظاہر نہیں

أَحَدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ ضَرْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَحَدٍ فَارْتَدَّ

جنہوں نے خبر دی شیبہ کو کہ اس کی ڈاڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بڑی ہوگی پس وہ مرتد ہو گیا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بِقُدُومِ عِكْرَمَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُهَاجِرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خبر دی عکرمہ بن ابی جہل کے خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی حالت ایمان میں اور حالت ہجرت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَسْمِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

وَهَبِ ابْنَ السَّبَاعِ وَقَدْ أُوْمِرَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

وہب بن سباع کے نام کی اور اس کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ أَنَّكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ جس آقا نے خبر دی محمد بن مسلمہ کو کہ تو

تَقْتُلُ عَدَا قَاتِلِ أَخِيكَ كَنَانَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قتل کرے گا کل اپنے بھائی کے قاتل کنانہ کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِنَاءِ بَعْدَادٍ وَأَخْبَرَ بِالْبُرْصِ

اور آپ کی آل اطمہار پر جس آقائے خیردی بغداد کی تعمیر کی اور خیردی برص میں مبتلا ہونے کی

رَجُلًا مِنْ وَفْدِ بَنِي النَّخَعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

وفد بنی نخع کے ایک فرد کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَاهُ بِرَأْيِهِ أَنَّهُ يَمُوتُ بِأَرْضِ

آپ کی آل پر جنہوں نے خیردی ابو ہریرہ کو کہ وہ وفات پائیں گے بے آب و گیاہ

قَفْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زمین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَعْرَابِيًّا أَنَّ فِي مِثْمَنَتِكَ ظُبْيَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے خیردی اعرابی کو کہ تیرے پھیلے اور زنبیل میں ہرنی ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِمَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطمہار پر جنہوں نے خیردی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

قَالَ الْحَفْشَانُ لِبِتْلِكَ الظُّبْيَةَ وَأَخْبَرَ بِالَّذِي غَلَّ الشُّبْلَةَ يَوْمَ

کہا ہرنی کے دو بچوں نے اس ہرنی کو اور خیردی بڑی چادر چرانے والے کی خیر کے

خَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

دن۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقائے

أَخْبَرَ بِقَتْلِ أَهْلِ جَرَشٍ وَأَنْبَاءٍ وَأَخْبَرَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي قُتِلُوا

خیردی اہل جرش کے قتل ہونے کی اور خیردی اس وقت کی جس میں قتل کئے

فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِأَنَّ الْأَرْضَ أَكَلَتْ مَا فِي سَفَرِ الْعَهْدِ وَأَلْقَتْ أَسْمَهُمْ

جنہوں نے خبر دی کہ دیمک نے کھالیابے قریش کے عہد نامہ کو ہمیں طور پر اور باقی چھوڑا ہے صرف اللہ تعالیٰ

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے نام کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ بِلَالَ أهدَا الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے خبر دی کہ بلال کو تھپکی دی ہے شیطان نے (سلانے کیلئے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي غَزْوَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی غزوة

تَبُوكَ بِهَيْبِ الرِّيحِ الشَّدِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تبوک میں شدید آندھی کے چلنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو

الشَّيْخِ الْيَمَنِيِّ الَّذِي أَعْطَاهُ الْأَشْعَارَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

شیخ یمنی کے متعلق جس نے انہیں اشعار عطا کئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ فَاطِمَةَ بِحُضُورِ مَوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خبر دی حضرت سیدہ فاطمہ زہراء قرب وفات کی رضی اللہ عنہا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ أَوَّلَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقائے خبر دی کہ اہل بیت سے اول

أَهْلِي لِحُوقَاتِي لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فرد از روئے لاحق ہونے کے ساتھ میرے البتہ فاطمہ زہراء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّهُ يُتَوَفَّى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے بتلادیا کہ ان کی وفات

يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

سوموار کے دن ہوگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْمَغِيبَاتِ وَبِصِفَةِ مَوْتِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی امور غیبیہ کی اور صحابہ کرام میں سے

مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمَنْ مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فوت ہونے والوں کی اور جو فوت ہو چکے ان کی کیفیت موت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی عمار کو کہ

بِأَن تَقْتُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ فَمَاتَ فِي حَرْبٍ عَلِيٌّ وَمَعَاوِيَةُ

انہیں باغی جماعت قتل کرے گی تو انہوں نے وفات پائی حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ صفین میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَرَامَ بِمَوْتِهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فَكَانَ مَا أَخْبَرَهَا

جنہوں نے خبر دی ام حرام کو شہادت کی موت کی پس وہی ہوا جس کی آپ نے اسے خبر دی

بِهِ وَأَشَارَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور اشارہ فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِعَلَامَةِ

آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی اپنے بعض صحابہ اور قرابت داروں کو اویس

أُوَيْسَ الْقُرْنِيِّ وَشَفَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

قرنی کی علامت اور شفاعت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیردی عبداللہ بن زبیر کو علانیہ کہ

أَنَّهُ يُقْتَلُ صَبْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

وہ حالت حبس میں قتل ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ قَرَعَ وَالتَّيْنِ وَالزُّيْتُونَ

آل محمد پر جنہوں نے خیردی کہ جو شخص والتین والزیتون کو پڑھے گا

جَلِبَتْ لَهُ رِزْقًا وَيُسِّرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو وہ اس کے لیے فراواں رزق اور آسانیاں مہیا کرے گی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَرَفَةَ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیردی حضرت معاذ بن جبل کو اور تعارف کرایا

بِالَّذِي أَخَذَ لَهُ الطَّعَامَ مِنَ الْعُرْفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس شخص کا جس نے لے لیا ان کا غدہ بالا خانہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیردی عمار

بْنَ يَاسِرٍ بِمَا أَسْرَأَ ابْنَ أَبِي لَاصِحَابِهِ يَوْمَ تَبُوكَ وَهُوَ سَائِرٌ وَ

بن یاسر کو جو دل میں چھپایا ابن ابی نے آپ کے اصحاب کے لیے تبوک کے دن جبکہ آپ جا رہے تھے اور

أَخْبَرَ بِاسْمِ مَنْ سَأَلَ مَرَّكَ بَعْدَ أَنْ كَفَاهُ اللَّهُ شَرَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

خیردی اس شخص کے نام کی جس نے آپ کے ساتھ غدر کا قصد کیا تھا بعد اس کے کہ اللہ نے آپ کو کفایت فرمائی اس کے شر سے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خیردی

أَوْلَا وَأَخِيرًا يَمُوتُ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا اللَّهُمَّ

اول و آخر ان کی جو مریں گے اہل اسلام سے حالت کفر میں۔ اے اللہ

أَوْلَا وَأَخِيرًا يَمُوتُ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا اللَّهُمَّ

اول و آخر ان کی جو مریں گے اہل اسلام سے حالت کفر میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِمَوْتِ أَهْلِ بَيْرِ مَعُونَةَ قَبْلَ أَنْ يُعْرِفُوا

خبر دی اپنے صحابہ کو بیر معونہ والوں کی شہادت کی پہلے اس سے کہ صحابہ

ذَلِكَ أَوْ يَدْرِكُونَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اسے جانیں اور اس کا ادراک کریں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ بَيْرِ مَعُونَةَ وَأَعْجَبَ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی بیر معونہ والوں کے متعلق اور تعجب فرمایا

أَنَّهُمْ حَبِلُوا إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى أَسْرَةِ الذَّهَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کے اٹھائے جانے پر جنت کی طرف سنہری تختوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَوْتِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی عبد اللہ

ابْنِ رَوَاحَةَ الشَّهِيدِ وَيَأْخُذُ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ

بن رواحہ کی شہادت کی اور خالد بن الولید کے پرچم تھامنے کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّ خَالِدًا أَخَذَ الرَّايَةَ مِنْ غَيْرِ

خبر دی کہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ خالد نے پرچم اسلام تھام لیا ہے بغیر

أَمْرِهِ فَفَتِحَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے امر کے اور ان کو فتح دی گئی ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ جَعْفَرَ أَيُّطِيرُ فِي السَّمَاءِ بِجَنَاحَيْنِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ جعفر رضی اللہ عنہ آسمان میں پرواز کر رہے ہیں اپنے دو خون آلود

مُضَرَّحِينَ بِالدِّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بازوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَا أَخْفَى الْكُفَّارُ مِنَ الْكَلَامِ مَرَّيْنِ

آپ کی آل پر جنہوں نے بتلا دیا جو کچھ مخفی رکھا اپنے کلام سے کفار نے آپ کے

فَتْحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

شام کو فتح کر لینے کے بارے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْمَكْرَمِينَ أَنَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اپنے اصحاب کرام کو کہ قرمان

قَرْمَانَ يَقْتُلُ نَفْسَهُ بِالسَّكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے آپ کو قتل کر ڈالے گا حنجر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَمْرَةَ يَحْرُقُ بِالنَّارِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت سمرہ آگ میں جل کر مرے گی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ يَحْشُرُ مَعَ الشُّهَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خبر دی کہ ثابت بن قیس کا حشر شہداء کے ساتھ ہو گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيْمَانِ الْمُنَافِقِينَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی منافقین کی جھوٹی قسموں کے متعلق

قَبْلَ الْحَلْفِ عَلَيْهَا حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ عَلَى وَعَلَى يَدَيْهِ

ان کے حلف اٹھانے سے قبل اور خبر دی حضرت علی کو جبکہ آئے آپ کی خدمت میں کہ یقیناً اللہ مجھے فتح دے گا اور تمہارے ہاتھوں پر فتح ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

اَخْبَرَ اصْحَابَهُ بِنَبَاحِ كَلَابِ الْحَوْءِ عَلٰی بَعْضِ نَرُوْجَاتِهِ

خبر دی اپنے صحابہ کو حوہب کے کتوں کے پھونکنے کی بعض ازواج مطہرات پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنْ عَائِشَةَ تَنْفِرُ اِلَى قِتَالِ عَلِيٍّ وَتَسِيْرُ وَيَمُوْتُ

جنہوں نے خبر دی کہ عائشہ صدیقہ نکلیں گی اور روانہ ہوں گی حضرت علی کے قتال کی طرف اور وفات پائیں گے

حَوْلَهَا خَلِقٌ كَثِيْرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ان کے گرد بہت سے لوگ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ فِي الدَّارِ اَنْ قَاتِلَهُ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت زبیر کو جبکہ وہ گھر میں موجود تھے کہ ان کا قاتل

يَدْجُرُ فِي النَّارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

جہنم داخل ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ حَذِيْفَةَ بِنَ الْيَمَانِ بِمَا يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

محمد پر جنہوں نے خبر دی حذیفہ بن یمان کو ہراس واقعہ کی جو ہوگا ان کے بعد والے زمانہ میں

فَكَانَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

پس اسی طرح ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ بِقُدُوْمِ الْعِيْرِ قَبْلَ مَجِيْئِ الْبَشِيْرِ وَاَخْبَرَ

پر جنہوں نے خبر دی قریش کے قافلہ کی خوشخبری دینے والے کی آمد سے قبل اور خبر دی

بِفَتْحِ اَمْرِ الْقُرَى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِبَصَارِ الْكُفَّارِ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی میدان بدر میں کفار کی قتل گاہوں کی تو

فَكَانَتْ حُفْرَ الْقَرَارِ لَهُمْ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہو گئے وہ مقامات ان کے لیے آتش دوزخ میں قیام پذیری کے گڑھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أُسَيْدُ بْنُ حَضِيرٍ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ دَنَّتْ تَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ وَهُوَ يَقْرَأُ

خبر دی حضرت اُسید بن حَضِير کو کہ ملائکہ قریب آگئے تھے ان کی قراءت سنتے ہوئے جبکہ وہ تلاوت کر رہے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بِالَّذِي خَبَأَ نَفْسَهُ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَرَاهُ حِينَ

خبر دی اس کافر شخص کے متعلق جس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا جمعہ کے دن تاکہ آپ کو دیکھے

يَخْطُبُ وَيَسْمَعُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

خطبہ دیتے وقت اور خطبہ سنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَعْضُ حُفَاةِ الْبَوَادِي أَنَّ نَاقَتَهُ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی بعض بادیه نشین برہنہ پا کو کہ اس کی اونٹنی

الذَّاهِبَةُ بِبَطْنِ الْوَادِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وادی میں جا رہی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِكِتَابِ ابْنِ بَلْتَعَةَ قَبْلَ

اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی حاطب بن ابی بلتعہ کے خط کی قبل

أَنْ يَّرَاهُ وَيَسْمَعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس کے کہ اسے دیکھیں اور سُنیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِإِشَارَةِ أَبِي لُبَابَةَ حِينَ حَدَّثَهُ

آل محمد پر جنہوں نے خبر دی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے اشارہ سے متعلق جبکہ ڈرایا انہوں کے

صَحَابَهُ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْأَبْرَارَ بِمَا بَيْتَهُ الْكَفَّارُ اللَّهُمَّ

اپنے ساتھیوں کو اور خبر دے دی آپ نے اپنے اصحاب ابرار کو جو رات کو منصوبہ بنایا کفار نے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ إِقْتَحِمِ الْأَجْبَةَ تَرَى عَجِيبًا اللَّهُمَّ صَلِّ

فرمایا حضرت ابوذر کو جنگل میں داخل ہو جاؤ تم عجیب منظر دیکھو گے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ نُورٍ وَرِيحِ اللَّهِ صَلِّ وَ

خبر دی کہ پہلا آسمان نور اور ہوا سے بنا ہے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ كَالْمِرَاةِ الْمُصْفَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بتلایا کہ چوتھا آسمان صاف شفاف شیشہ کی مانند ہے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی

أَنَّ فِيهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ عَدَدَ الَّتِي فِي السَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ

کہ ان دونوں میں فرشتے اتنی تعداد میں ہیں جتنے دیگر سماوات میں ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ لَمْ يَرْفَعُوا أَبْصَارَهُمْ مِنْذُ

خبر دی کہ پانچویں آسمان والوں نے اپنی نظریں بند نہیں کیں اللہ تعالیٰ سے حیا

خُلِقُوا حَيَاءً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی وجہ سے جب پیدا کئے گئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْبَبَ أَنْ فِي الْكُرْسِيِّ لَوْلَا

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ کرسی خداوند تعالیٰ میں ہر ایک موتی ایسا ہے کہ نہیں

يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمَتِهَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جانتا اس کی مقدار کی عظمت کو مگر اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْبَبَ أَنْ السَّمَاءُ السَّادِسَةُ كَلُونَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ چھٹا آسمان زمّت میں سرنج

الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ وَفِيهَا الْكُرُوبِيُّونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سونے کی مانند ہے اور اس میں مقرب فرشتے کروبیون موجود ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْبَبَ أَنْ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس آقا نے خبر دی کہ

الْعَرْشِ خُلِقَ مِنَ التُّورِ السَّاطِعِ وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ اللَّهُمَّ

عرش کو غالب نور اور چمکتی ضیاء سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَحْبَبَ أَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ مَوْضِعٌ أَنْبَلَةٌ إِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ

جس محبوب نے خبر دی کہ آسمانوں میں آنکلی کے سرے جتنی بھی جگہ نہیں مگر اس میں فرشتے

سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سجود یا رکوع میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْبَبَ أَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ ثَمَانِينَ أَلْفَ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی ہے کہ عرش اعظم کے گرد اسی ہزار

سَرَادِقٍ وَأَنَّ الْعَرْشَ خُلِقَ مِنْ جَوْهَرَةٍ خَضْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر دے ہیں اور عرش سبز جوہر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ

بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ خَفَقَانُ الطَّائِرِ الْمُسْرِعِ

عرش کے پایوں میں سے دو پایوں کے درمیان تیز پرواز پرندے کی

أَلْفَ عَامٍ بِلَا امْتِرَاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہزار سال پرواز کی مسافت ہے بلا شیبہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَلَائِكَةٌ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش کے گرد ایسے ملائکہ ہیں

عَلَىٰ خِيُولٍ مِّنْ رَّيْحٍ بِأَيْدِيهِمْ حِرَابٌ مِّنْ نُورٍ يَّحْتُونُ

جو ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں نورانی نیزے ہیں جو ملائکہ کو

الْمَلَائِكَةَ عَلَى التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تسبیح پر آمادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ لِلْعَرْشِ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش کی

أَلْفَ لِسَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ہزار زبانیں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ الْعَرْشَ يُسَبِّحُ بِاللَّهِ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش اعظم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے

بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ وَالْبَيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تمام لغات اور انواع بیان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش اعظم

يُسَبِّحُ لِلَّهِ بِأَلْفِ نَوْءٍ مِّنَ النَّسِيبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتا ہے ہزار قسم کی تسبیحات کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ الْعَرْشَ يُكْسَىٰ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ لَوْنٍ مِّنْ تَوْبَةٍ

عرش کو ہر دن ہزار قسم کے انوار پہنائے جاتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ إِسْرَافِيلَ يَتَصَاغَرُ أَحْيَانًا مِّنْ

اطہار پر جس محبوب نے خبر دی ہے کہ حضرت اسرافیل بسا اوقات اللہ کی

هَيْبَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَصِيرُ مِثْلَ الْعَصْفُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بیت سے سگڑ سمٹ جاتے ہیں حتیٰ کہ چڑیا کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے

أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ عَلَى الرِّيحِ اللَّهُمَّ

خبر دی کہ عرش پانی پر ہے اور پانی ہوا پر ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ مِنَ الْيَاقُوتِ

جس محبوب نے خبر دی کہ پانچواں آسمان سُرخ یاقوت سے ہے

الْأَحْمَرِ وَأَهْلَهَا رَافِعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّهْلِيلِ وَ

اور اس پر بسنے والے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کا ذکر بند

التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آواز سے کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش کے گرد

مَدِينَةٌ مِّنْ مَّنْ بَنَىٰ هُوَ شَرِّهَا أَدْفَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خالص کستوری سے بنا ہوا شہر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَوْلَ

محمد و آل محمد پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش کے گرد

الْعَرْشِ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ عَالِمٍ وَأَخْبَرَ أَنَّ الْحُورَ أَكْثَرُ

چھ لاکھ جہان ہیں اور خبر دی کہ حوریں زیادہ تعداد میں ہیں

مِنْ بَنَاتِ آدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آدم کی بیٹیوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ سِتُّونَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش اعظم کے گرد ساٹھ

أَلْفٍ عَالِمٍ يَسْتَغْفِرُونَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَيَلْعَنُونَ

ہزار جہان ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر کے مجبوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان سے

لِبُغْضِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بعض رکھتے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْعَرْشِ مِثْلَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش میں مانند تعداد اس مخلوق

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا خشکی اور تری میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْمَلَكُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ ملائکہ

تَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آرتے ہیں زمین کی طرف عید الفطر اور عید الفضحیٰ کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَنَا أَنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ مِّنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ الْكَرَامِ فِيمَا بَيْنَ

خبر دی کہ عرش اعظم کے حاملین ملائکہ میں سے ہر فرشتے کے

كَعْبِيهِ إِلَى قَدَمَيْهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِينَ أَلْفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جنہوں سے قدموں تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَحَمَلَةِ الْكُرْسِيِّ سَبْعِينَ حِجَابًا

کہ حاملین عرش اور حاملین کرسی کے درمیان ستر حجاب

مِّنْ ظُلْمَةٍ وَسَبْعِينَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ظلمت سے ہیں اور ستر حجاب نور سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ اگر

لَوْلَا الْحِجَابُ لَأَحْتَرَقَ حَمَلَةُ الْكُرْسِيِّ مِّنْ نُورِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ

حجابات نہ ہوتے تو حاملین کرسی جل جاتے عرش کے حاملین کرام ملائکہ کے

اَلْکِرَامِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

نورسے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ غَلْظَ كُلِّ حِجَابٍ مِنْهَا مَسِيْرَةٌ

کے آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ ہر حجاب کی موٹائی پانچ سو سال کی

خَمْسِيْۤاتٍ عَامٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مسافت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ سَاَلَ

آل محمد پر جس آقا نے خبر دی کہ بعض ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے

اللّٰهُ اَنْ يُرِيَهُ مُقَدَّارَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ فَخَلَقَ لَهُ ثَلٰثِيْنَ اَلْفَ

سوال کیا کہ اُسے عرش عظیم کی وسعت دکھلانے تو اللہ نے اس میں تیس ہزار

جَنَاحٍ فَطَارَ ثَلٰثِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَلَمْ يَقْطَعْ قَائِمَةٌ مِّنْ قَوَائِمِ

پر پیدا کئے پس اس نے تیس ہزار سال پرواز کی اور نہ طے کر سکا عرش کریم کے پایوں میں سے

الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

ایک پائے کی مسافت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ الزَّنْبَجَرَ مِنْ وُلْدِ حَامٍ اللّٰهُمَّ

سیدنا محمد کے آل پر جنہوں نے خبر دی کہ زنجی لوگ حام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے آل پر جنہوں نے

اَخْبَرَ اَنَّ نُوْرَ الْعَرْشِ خُلِقَ قَبْلَ الْكَرْسِيِّ بِالْفِيْ عَامٍ اللّٰهُمَّ

خبر دی کہ عرش کا نور کرسی (کے نور) سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے آل پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ مَقَامَ جِبْرِائِيلَ فِي وَسْطِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام سدرۃ المنتہی کے درمیان میں ہے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ مِقْدَارَ الْقَلَمِ الَّذِي يَكْتُبُ أَعْمَالَ الْإِنْسَانِ مِثْلَ مَسِيرَةِ خَمْسِ

کہ مقدار اس قلم کی جو مخلوق کے اعمال لکھتی ہے پانچ

مِائَةٍ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سوسال کی مسافت کے برابر ہے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ نُورَ الْعَرْشِ لَوْ ظَهَرَ لِأَهْلِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ اگر عرش کا نور اہل دنیا پر

الدُّنْيَا وَاسْتَهْلَ لَضَعْفُ نُورِ الشَّمْسِ مَعَهُ كَمَا يَضَعْفُ

ظاہر اور نمودار ہو تو یقیناً کتر ہو جائے گا آفتاب کا نور اس کے سامنے جیسے کہ ضعیف و

ضَوْءُ السِّرَاجِ مَعَهَا أَوْ أَقْلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خفیر ہوتی ہے چراغ کی روشنی سورج کے سامنے بلکہ اس سے بھی کتر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ قَائِمَةٍ مِّنْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے خبر دی کہ کرسی کے پایوں میں سے ہر پایہ

قَوَائِمِ الْكُرْسِيِّ طُولُهَا مِثْلُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ

کی درازی زمین اور آسمانوں کی مجموعی مقدار کی مانند ہے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي جَوْفِ الْكُرْسِيِّ كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضِ

کہ تمام آسمان اور زمینیں کرسی کے اندر یوں ہیں جیسے کہ چٹیل میدان میں

قَدَاةَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

انگوٹھی کا حلقہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ الْكُرْسِيَّ يَحْمِلُهُ اَرْبَعَةٌ اَمْلَاكٌ لِكُلِّ مَلِكٍ

پر جس آقا نے خبر دی کہ کرسی کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک کے چار

اَرْبَعَةٌ وَّجُوهُ نُورٌ هُمْ يَتَلَاوُا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

منہ ہیں جن کا نور چمکتا دمکتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ اَقْدَامَهُمْ عَلٰی

محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے خبر دی کہ ان کے قدم اس

الصَّخْرَةَ الَّتِي تَحْتِ الْاَرْضِ السَّابِعَةَ السُّفْلٰی اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پتھر پر ہیں جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا مِّنْهُمْ عَلٰی صُوْرَةِ اٰدَمَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ ان میں سے ایک فرشتہ آدمی کی صورت پر ہے

وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ وَالْمَطْرَ مِنْ السَّنَةِ اِلَى السَّنَةِ لِاَنَّ اَمَّ اللّٰهُمَّ

اور وہ طلب کرتا ہے رزق اور بارش مخلوق کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے

اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا مِّنْهُمْ عَلٰی صُوْرَةِ الثَّوْرِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ

خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ بیل کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے

مِنَ السَّنَةِ اِلَى السَّنَةِ لِاَنَّ اَمَّ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ایک سال سے دوسرے سال تک چار پاویں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا مِّنْهُمْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ

عَلَى صُورَةِ السَّبْعِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ أَيْضًا لِلْوَحُوشِ وَالْهَوَامِّ

دندہ کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے جنگلی جانوروں اور زہریلے جانوروں کے لیے بھی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا مَلَكًا مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ النَّسْرِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ

جنہوں نے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ گدھ کی صورت پر ہے جو کہ پرندوں کے لیے

أَيْضًا لِلظَّيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رزق طلب کرتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ الرُّوحَ لَوْ سَمِعَ تَسْبِيحَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَاصْغَا

پر جس آقائے خبر دی کہ اگر روح اعظم کی تسبیح زمین والے سنیں اور اس کی طرف کان لگائیں تو

إِلَيْهِ لَخَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَا بَتَلَعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ان کی روہیں اجسام سے باہر آجائیں اور اگر وہ چاہے تو تمام آسمانوں اور زمین کو نگل جائے منہ

مِنْ أَحَدٍ شَدِيقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی ایک جانب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ الرُّوحَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ

آپ کی آل اطہار پر جس آقائے خبر دی کہ روح اعظم جب ذکر باری تعالیٰ کرتا ہے تو

خَرَجَ مِنْ فِيهِ قِطْعٌ مِّنْ نُورٍ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الْعِظَامِ

اس کے منہ سے نور کے عظیم قطعات برآمد ہوتے ہیں جو عظیم پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ مَسِيرَةُ سَبْعَةِ أَلْفِ عَامٍ

جنہوں نے خبر دی کہ روح اعظم کے قدموں کی جگہ سات ہزار سال کی مسافت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ أَلْفَ جَنَاحٍ عَلَى الْوَيْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

يَقُومُ الرُّوحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفًّا وَجَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ صَفًّا اللَّهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

أَخْبَرَ أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً لَوَّانٌ وَاحِدًا مِنْهُمْ نَزَلَ إِلَى الدُّنْيَا لَمَّا

وَسِعَتْهُ مِنْ عَظَمَتِهِ وَكِبَرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَحْتِ

الْعَرْشِ مُكْرَمًا لَدَيْهِ ذَوَاتُ أَيْبَةٍ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْعَرْشِ تَحْتِ

كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهَا مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ أَلْفَ جَنَاحٍ عَلَى الْوَيْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِإِسْرَافِيلَ إِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ جَنَاحٍ بِالنَّارِ

جس آقا نے خبر دی کہ اسرافیل کے بارہ ہزار پر ہیں موتیوں اور

الْيَاقُوتِ مَكَلَّدِينَ كُلُّ جَنَاحٍ مِّنْهَا يَسُدُّ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ

یاقوت سے جڑے ہوئے جن میں سے ہر ایک پر مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ کو ڈھانپ سکتا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِإِسْرَافِيلَ جَنَاحًا بِالشَّرْقِ وَجَنَاحًا بِالمَغْرِبِ

جس آقا نے خبر دی کہ اسرافیل کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں

وَبِجُلَاهُ تَحْتَ الأَرْضِ السَّابِعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور اس کے دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ إِسْرَافِيلَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ اسرافیل علیہ السلام

إِذَا سَبَّحَ عَطَّلَ عَلَى المَلَائِكَةِ تَسْبِيحَهُمْ بِحَسَنِ صَوْتِهِ اللَّهُمَّ

جب تسبیح کے تو معطل کر دیتا ہے دوسرے ملائکہ پر ان کی تسبیح اپنے حسین آواز کی وجہ سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ وَرَاقَةٍ سِدْرَةٌ المُنْتَهَى أُمَّةٌ تُسَبِّحُهُمْ

خبر دی کہ سدرۃ المنتہی کے ہر پتے کے نیچے ایک اُمت ہے جن کی تسبیح یہ ہے

سُبْحَانَ ذِي العِزَّةِ وَالبَهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پاک ہے عزت و تورانیت کا مالک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِجِبْرِيلَ جَلَاحًا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ جبرئیل کے لیے بہت سی گھنگریاں ہیں

لِكُلِّ جُلُجِلٍ مِّنْهَا صَوْتُ لَا يَشْبَهُهُ إِلَّا خَرَّ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن میں سے ہر ایک کی آواز دوسری کے مشابہ نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ مِنْ دُرِّ بَيْضَاءَ وَالْقَلَمَ الْمُنِيرَ مِنْ

کہ لوح محفوظ سفید موتی سے ہے اور روشن قلم بھی نوری

جَوْهَرٍ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جوہر سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ جُلُجِلٍ مِّنْهَا مَحْشُورٌ بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ

پر جنہوں نے خبر دی کہ ان میں ہر گھنگری بھری ہوئی ہے کستوری اور عنبر سے۔

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ دَفَّتِي اللَّوْحِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ اللَّهُ

جس آفتانے خبر دی کہ لوح محفوظ کی دونوں جانبیں سُرخ یاقوت سے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے

أَخْبَرَ أَنَّ عِذَاءَ الْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خبر دی کہ ملائکہ کی غذا تسبیح ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے خبر دی کہ آسمان اول کے ملائکہ کی

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ اللَّهُ

تسبیح یہ ہے۔ پاک ہے ملک شہادت اور ملک غیب کا مالک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّبَّانِيِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس آقائے

أَخْبِرَانِ تَسْبِيحِ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ

نبردی کہ دوسرے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے۔ پاک ہے مالک عزت

وَالْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور تسلط و غلبہ کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبِرَانِ تَسْبِيحِ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ

کی آل اطہار پر جس آقائے نبردی کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح

الثَّلَاثَةِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

یہ ہے۔ پاک ہے دائمی حیات والا جو نہیں مر سکتا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبِرَانِ تَسْبِيحِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقائے نبردی کہ چوتھے

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ

آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے۔ بہت منزہ اور مقدس ہے ہمارا پروردگار اور تمام ملائکہ اور

وَالرُّوحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

روح اعظم کا پروردگار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبِرَانِ تَسْبِيحِ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ

آل اطہار پر جس آقائے نبردی کہ پانچویں آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے

وَسُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالتَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پاک ہے وہ جس نے برف اور آگ کو جمع فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبِرَانِ تَسْبِيحِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے نبردی کہ چھٹے آسمان کے ملائکہ کی

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ كُلِّ

تیسع یہ ہے۔ پاک ہے شہنشاہ جو بہت مقدس ہے جو ہر شئی کا

شَيْءٍ وَرَأَيْهِ النُّشُورَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رب ہے اور اسی کی طرف ہے قبروں سے اٹھنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ ساتویں آسمان کے ملائکہ کی تسبیح

السَّابِعَةِ سُبْحَانَ خَالِقِ الثُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

یہ ہے۔ پاک ہے نور کا خالق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ سمندروں پر مامور ملائکہ

الْبَحَارِ سُبْحَانَ مَنْ يُذْهِبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ اللَّهُمَّ

کی تسبیح یہ ہے۔ پاک ہے جو لے جاتا ہے رات کو اور لاتا ہے دن کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے

أَخْبَرَنَا الْبِعْرَاجِ أُرْسِلَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ مَنْضُودًا بِاللُّوْلُؤِ وَ

خبر دی کہ شب امراء سیڑھی بھیجی گئی فردوس اعلیٰ سے جو مرصع تھی لؤلؤ اور

الْيَاقُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

یاقوت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ عَالَمًا الدُّنْيَا

آل اطہار پر جس محبوب نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے چالیس جہان ہیں جن میں سے

مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ بِلا أَرْتِيَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دنیا ایک جہان ہے بلا شہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَلْثَانًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے عین سو

عَالِمٍ حُفَاةٌ عَرَاةٌ لَا يَدْرُونَ مَنْ خَلْفَهُمْ وَسُتُونَ عَالِمًا

جہان میں برہنہ پا اور برہنہ تن نہیں جانتے اپنے پیچھے والوں کو اور ساٹھ جہان میں

يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جو لباس پہنتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي خَيْرَةِ اللَّوَرِيِّ مَا الْعِمَارَةُ مِنَ

آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا مخلوق کو خبر دیتے ہوئے کہ آبادی کا تناسب

الْخَرَابِ إِلَّا كَفُسْطَاطٍ فِي أَرْضِ صَحْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دیرانے کے ساتھ وہی ہے جو نیمہ کا وسیع صحراء کے ساتھ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَفَتْحِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی جزیرہ عرب فتح ہونے

جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَالَتْ عُمَيْرَةُ بِنْتُ أَبِي الْحَكَمِ بِدُعَائِهِ إِلَىٰ

کی اور ماہل ہوئی عمیرہ بنت ابی الحکم اپنے باپ کی طرف آپ کی دعا

الْأَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَا فِي الْمَدِينَةِ شَعْبٌ وَلَا ثَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ

پر جس آقا نے فرمایا کہ نہیں ہے مدینہ میں کوئی پہاڑی راستہ اور نہ پہاڑوں کا درمیان راستہ مگر اس پر

مَلَكَانَ وَمُطَرِبَهُ يَلَادُ وَفِدَا سَلَامَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

دو فرشتے ہیں اور بارش عطا کئے گئے آپ کے وسیلہ سے وفد سلامان کے علاقے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ أَصْحَابَهُ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی اپنے صحابہ کو ایک

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی اپنے صحابہ کو ایک

سَفِيَاءَكُمْ يَفْقَدُونَ الْمَاءَ فِي غَدٍ وَقَامَ بِهِ الطَّيِّبُ لِعْتَبَةِ بْنِ فَرْقِدٍ

سفر میں کہ وہ کل پانی کو حاصل نہیں کر سکیں گے اور آپ کی وجہ سے عتبہ بن فرقہ کو خوشبو حاصل ہوئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي عَطِشَ حِينَ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَنَبِعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ

جو آقا پیاسے ہوئے جب طائف سے لوٹے تو پھوٹ پڑا آپ کی انگلیوں کے

الْمَاءُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ اللَّهُمَّ

درمیان سے پانی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي كَلَّمَ عَقِيلُ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ بِهِ الْجَبَلُ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس آقا کے طفیل کلام کیا عقیل بن ابی طالب کے ساتھ پہاڑ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا

لِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ سَأَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ وَيَدْعُوَهُمْ

عروہ بن مسعود کو جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف لوٹنے کی اجازت طلب کی اور انہیں دعوت دینے کی

إِلَى الْإِسْلَامِ إِنْ فَعَلْتَ فَأَتَهُمْ قَاتِلُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

طرف اسلام کے کہ اگر تو نے ایسے کیا تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے پاس درخت حاضر ہوا

إِلَيْهِ شَجَرَةٌ حِينَ قَالَ لَهَا عَقِيلُ بِأَمْرِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ يَدْعُوكَ

جب کہ اسے عقیل نے آپ کے حکم سے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ تجھے بلاتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا

زَادَ عَمْرًا بِأَمْرِهِ مِنَ الثَّمَرِ الْقَلِيلِ أَرْبَعًا مِائَةً رَأَيْبُ اللَّهُمَّ صَلِّ

کے حکم سے حضرت عمر نے قلیل سے زیادہ چار صد سواروں کو اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَوْمًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا نے فرمایا ایک دن

لِأَصْحَابِهِ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ مِّنْ هَذَا الْوَادِي رَجُلٌ فَأَشْرَفَ

اپنے صحابہ کو کہ نمودار ہو گا تم پر اس وادی سے ایک عظیم انسان تو

عَلَيْهِمْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نمودار ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ بِكَتْرِ أَبِي الْحَقِيقِ بِخَيْرٍ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے خبر دی ابو الحقیق یہودی کے خزانہ کی خیر میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَشْبَعَ ثَلَاثَةَ رَجَالٍ فِي يَوْمٍ ثَمَّ عَشْرَةٌ فِي الثَّانِي بِسَبْعِ

جس آقا نے سیر فرمایا تین آدمیوں کو ایک دن میں پھر دس آدمیوں کو دوسرے دن میں

تَمَرَاتِ بِلَالٍ فِي السَّفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دوران سفر حضرت بلال کی سات کھجوروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ لِبُهَيَّةِ الْبَكْرِيَّةِ سِتُونَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا کی دعائے برکت سے بھئیہ بکریہ کے ساٹھ فرزند

وَلَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پیدا ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي ارَادَ ابُو جَهْلٍ رَمَى الصَّخْرَةَ اِلَيْهِ فَانْقَلَبَتْ عَلٰى صَدْرِهِ

جس محبوب کی طرف ابو جہل نے پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تو وہ اس کے سینے

وَيَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور ہاتھوں پر اٹ گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ صَبِيٌّ ابْنُ شَهْرَبِيْنٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

پر کہ جس آقا کے ساتھ دو ماہ کے بچے نے کلام کیا اور انہیں سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارِبَهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا کی بدولت رواں دواں

الْفَرَسُ الْاَعْجَبُ لِجُعَيْلِ الْاَشْجَعِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

ہو گیا انتہائی دہلا اور لاغر گھوڑا جعیل اشجعی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَبِحَ بِهِ بِذَلِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت نفع اندوز ہوا اس گھوڑے

الْفَرَسِ جُعَيْلِ الْاَشْجَعِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

کے ساتھ جعیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ اِذَا هُمْ اَرْبَدُ ابْنُ قَيْسٍ اَنْ يُّضْرِبَهُ وَجَدًا

آل اطہار پر کہ جس محبوب کو جب اربد بن قیس نے تلوار مارنے کا قصد کیا تو پایا

بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آپ کے اور اپنے درمیان عامر بن طفیل کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَلَكَ بِدُعَايِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد آل پر جس آقا کی دُعا سے ہلاک ہو گیا

اَرْبَدٌ بِالصَّاعِقَةِ وَعَامِرٌ بِالطَّاعُونَ فَاسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تَبْحُو

اربد بجلی کے کڑکے کے ساتھ اور عامر طاعون کے ساتھ پس میں سوال کرتا ہوں اے اللہ کہ مٹا دے

مِنْ قَلْبِي كُلِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ وَأَنْ تَحْشُو قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَ

میرے دل سے ہر وہ شئی جسے تو ناپسند فرمائے اور بھروسے میرے دل کو اپنی خشیت

مَعْرِفَتِكَ وَرَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ وَالْعَافِيَةَ

معرفت اور خوف کے ساتھ اور اپنے ہاں کی نعمتوں میں رغبت اور امن و عافیت کے ساتھ

وَأَعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَاتِ مِنْكَ وَالْهَيْبَةَ الصَّوَابَ

اور مہربانی فرما ہم پر اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ اور ہمیں الہام فرما صواب

وَالْحِكْمَةَ فَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ الْخَائِفِينَ وَإِنَابَةَ الْبُخْبِتِينَ وَ

اور حکمت کا۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اہل خوف کے علم اور اہل تواضع کی انابت کا اور

إِخْلَاصَ الْمُؤَقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتَوْبَةَ الصَّادِقِينَ وَ

اہل یقین کے اخلاص کا اور اہل صبر کے شکر اور صدیقین کی توبہ کا۔

اللَّهُمَّ لَبِّبْكَ لَبِّبْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ

اے اللہ میں حاضر بارگاہ ہوں اور تیری عبادت و خدمت کرتا ہوں اور خیر تمام تیرے قبضہ میں ہے اور تیری طرف

وَأِلَيْكَ اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ أَوْ

سے ہے اور تیری طرف اس کی بازگشت ہے۔ اے اللہ میں نے جو قول کیا یا حلف اٹھایا یا

نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمِشِيَّتِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا بَشَيْتُ

کوئی نذرمانی تو تیری مشیت و ارادہ ان تمام کے آگے ہے۔ جو تو نے چاہا

كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَا يَكُونُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ إِنَّكَ

وہ موجود ہوا اور جس کا وجود نہ چاہا تو وہ موجود نہیں ہوگا اور نہیں طاقت و قوت مگر تیری توفیق سے بیشک

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ

تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا اور تیرے ساتھ ایمان لایا

وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ

تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے مخاصمت کی اور تیری طرف

حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ

فیصلہ کے لیے رجوع کیا پس مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کئے یا بعد میں کئے اور جو خفیہ طور پر کئے

وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ

یا علانیہ طور پر کئے اور جو میں نے حد سے تجاوز کیا اور جسے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہی

الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

مقدم کرنے والا اور مؤخر کرنے والا ہے نہیں معبود برحق مگر تو اور نہیں قوت و طاقت مگر

بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَوْمَ أَحَدٍ إِنَّ قُرَيْشًا بَعْدَ هَذَا كَأَنَّ

محمد پر جس آقا نے فرمایا احد کے دن کہ قریش اس کے بعد نہ

يُنْصَرُونَ وَلَا يَغْلِبُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

نصرت دے جائیں گے اور نہ ہی غالب آئیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَقَصَ الطَّعَامُ بِأَكْلِهِ وَسَكَنَ جِرَاءُ

آپ کی آل اطہار پر نہ کم ہوا کھانا آپ کے کھانے سے اور ساکن ہو گیا کوہ حراء۔

بِرُكُضِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آپ کے ایڑی مارنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَ الْمَعْوِزَ رَاعِيًا قَصْدًا ذُبْحًا مِنْ أَجْلِ اللَّهِ

پر کہ آپ کی وجہ سے کلام کیا بکری نے چرواہے کے ساتھ جس نے قصد کیا اس کے ذبح کرنے کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے دیکھے

فَوْقَ رَأْسِ نَضْرِبِ بْنِ الْحَارِثِ حَيَاتٍ سُودٍ فِي الْهَوَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نضرب بن الحارث کے سر پر سیاہ سانپ ہوا میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا

لِخُرَيْمِ بْنِ أَوْسٍ حِينَ اسْتَوْهَبَهُ شِيْمَاءُ هِيَ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

خریم بن اوس کو جبکہ اس نے آپ سے شیماء کے ہمہ کا مطالعہ کیا کہ یہ تیرے بیٹے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَاقَصَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا کے طفیل نہ کم ہوا

مِنْ قُرْبَةِ الْغُلَامِ الْأَسْوَدِ بِهَذَا الْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیاہ قام غلام کی مشک سے پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا جَلَسَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب کے کپڑوں پر کبھی کبھی

الذَّبَابُ عَلَى ثِيَابِهِ وَمَا ضَعُفَ الْمَرْكَبُ الَّذِي رَكِبَ عَلَيْهِ

نہ بیٹھی اور نہ ناتواں و لاغر ہوئی وہ سواری جس پر آپ سوار ہوئے

وَمَا شَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور نہ بوڑھی ہوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيَّضَ أُذَانَ الْغَنَمِ وَأَبْرَءَ سَاقَ عَلِيِّ بْنِ

کی آل اطہار پر جس محبوب نے سفید فرمادئے بھیڑ بکریوں کے کان اور درست فرمادی علی بن حکم کی

الْحَكَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پنڈلی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَوَى أَهْلَ الصُّفَّةِ وَأَبَاهُ رِيَّةً إِذَا جَلَسَ

اطہار پر جس محبوب نے سیراب فرمایا اہل صفہ کو اور ابو ہریرہ کو جبکہ بیٹھے تھے

لِلْجُوعِ عَلَى الطَّرِيقِ بِقَدَحٍ مِّنَ اللَّبَنِ الَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ

بھوک کی شدت کی وجہ سے راستہ پر ساتھ دودھ کے پیالہ کے جو بطور ہدیہ آپ کو پیش کیا گیا تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي دَلَّ طَائِرُ حَيْنٍ سَقَطَ عَبَّاسٌ بْنُ مِرْدَاسٍ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

کہ جس محبوب کی طرف رہنمائی کی پرندے نے جبکہ وہ گرا عباس بن مرداس پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے

أَحْيَى عَنَاقَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيَّنَ الذُّبَّ شَانَهُ لِلرَّاعِي

زندہ فرمائی انصاری کی نوخیز بکری اور بیان کی بھیڑیے نے آپ کی شان چرواہے کے سامنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ لِهَذَا الرَّاعِي عُدُّ إِلَى غَنِيمِكَ تَجِدُهَا بِوَفْرِهَا

جس محبوب نے فرمایا اس چرواہے کو تو اپنی بھیڑ بکریوں کی طرف لوٹے گا تو پائے گا انہیں وافر مقدار میں

فَوَجَدَهَا كَذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تو اس نے انہیں ایسے پایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَكَ لَحْمَ الشَّاةِ الَّتِي أَخَذَتْ بِغَيْرِ

آپ کی آل پر جس محبوب نے ترک فرمایا اس بکری کے گوشت کو جو لی گئی تھی

إِذْنِ الْمَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مالک کی اجازت کے بغیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الصَّنَمَ بِرِسَالَتِهِ عَبَّاسٌ بْنُ مِرْدَاسٍ

آل محمد پر کہ جن کی رسالت کی خبر دی بت نے عباس بن مرداس کو

وَبَقِيَ بِدُعَائِهِ الْخَلَافَةُ فِي عَقِبِ الْعَبَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور باقی رہی آپ کی دعائے مبارک سے خلافت حضرت عباس کی اولاد میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُرِيحُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے منہ مبارک سے

مِنْ فِيهِ لِلنَّوْمِ رَاحَةٌ الطَّعَامِ اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

محبوس ہوتی نیند کے وقت طعام کی خوشبو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَخْرَجَ السِّحْرَ مِنْ بَيْتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے نکالا سحر (کے مادہ) کو

ذُرْوَانَ وَطَالَ بِهٖ عُمَرُ ابْنُ الْيَسْرِ وَقَالَ لَا مِحْرَامَ بِنْتِ

ذروان نام والے کنوئیں سے اور لمبی ہوئی آپ کی برکت دعا سے عمر ابو الیسر کی اور فرمایا ام حرام بنت

مِلْحَانَ اَنْتِ مِنَ الْاَوْلِيْنَ اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ملحان کیسے کہ تو پہلے سمندری جہاد کرنے والے گروہ سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَشْبَعَ بِصَاعٍ مِنَ التَّمْرِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے سیر فرمایا چار سیر کھجوروں سے

جَيْشَهٗ وَكَانَ لَا يَتَمَرَّقُ كُلُّ لِيَاسٍ لَيْسَهٗ اللُّهُمَّ صَلِّ وَ

اپنے سارے لشکر کو اور نہیں پھٹتا تھا کوئی لیا س جسے آپ زیب تن فرماتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے فرمایا

لِعَلِيٍّ اِنَّكَ تُقَاتِلُ الْهَارِقِيْنَ مِنَ الدِّيْنِ وَيُقْتَلُ فِيْهِمْ رَجُلٌ

حضرت علی کو بیشک تم قتال کرو گے دین و طاعت سے نکلنے والوں کے ساتھ اور قتل کیا جائے گا ان میں

اَسْوَدٌ اَحْدَى عَصْدِيْهِ مِثْلُ ثُدْيِ الْمَرْأَةِ تَدْرُدُ اللُّهُمَّ صَلِّ

سیاہ نام شخص جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی مانند ہو گا اور لرزتا ہو گا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَتَرَتْهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں چھپایا

الْأَشْجَارِ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ لِقَضَائِهِ حَاجَتِهِ وَفَارَ الْمَاءُ مِنْ بَيْدِ الْحَدِيدِيَّةِ

درختوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر قضائے حاجت کے وقت اور اُبنے لگا پانی حدیبیہ والے کنوئیں سے

لَمْ يَضْبُطْهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کی کلی کی وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْحَسَنِ لَعَلَّ اللَّهُ يُصَلِّحُ بِهِ بَيْنَ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت

فَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

صلح کراوے گا اہل اسلام کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَضَاءَ بِهِ كَالْمِرْآةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت چمک اٹھا مانند آئینہ کے

وَجْهَهُ قَتَادَةُ بْنُ مِلْحَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قتادہ بن ملحان کا چہرہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِمُرَّائِي يُوبَ وَقَدْ أَصَابَهَا

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے دعا فرمائی اُمّ ایوب کے لیے جن کو پہنچی تھی

كَسْرٍ فَصَحَّتْ وَقَامَتْ إِلَيْهِ فِي الْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

شکستگی (عضو میں) پس درست ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی ان کی طرف فوراً۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْقَى الْحَيَّةَ بِأَمْرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے امر و حکم سے سانپ نے گرا دی

السَّهْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

اپنی زہر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ أَنَا مَعَ كُلِّكُمْ عِنْدَ الْمَنَاضِلِ لَجْمِعٍ مَنْ أَسْلَمَ

پر جنہوں نے فرمایا کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں تیر اندازی کے مقابلہ کے وقت قبیلہ اسلم کی جماعت کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي نَفَى الْمَرَضَ مِنْ وِلْدَانِ قَيْسِ بِالدُّعَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہوں نے دور فرمایا ولید بن قیس سے مرض کو دُعا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ اٹھایا عقاب

عُلَابٌ خَفِيهٌ فَفَضَّهٗ فِي الْهَوَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نے جن کے خفین کو پس جھاڑا انہیں ہوا میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ

تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالَهُمُ الشُّعْرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تم جنگ کرو گے اس قوم کے ساتھ کہ جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَاحَتْ بِهِ فَاطِمَةُ الزُّهْرَاءُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے لیے اطہار عم و اندوہ کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي ضَرَبَ عَلِيًّا بِالرَّجْلِ إِذْ كَانَ شَاكِيًا فَمَا اشْتَكَى الْوَجْعَ

کہ جس آقا نے حضرت علی کو پاؤں کی ٹھوک ماری جب کہ آپ بیمار تھے تو کبھی درد کی شکایت نہ ہوئی انہیں

بَعْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اس کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِحَدِيْفَةِ مَا حَاجَتْكَ عَفْرًا لِلَّهِ

آل پر جنہوں نے فرمایا خدیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہے تیری آمد کا مقصد بخشے اللہ تعالیٰ

لَكَ وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تجھے اور تیری امتی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ إِلَيْهِ تَخْلَعُهُ لِدَا عُوْتِهِ وَشَهِدَا

کی آل پر کہ جن کی بارگاہ میں کھجور حاضر ہوئی ان کے بلانے پر اور گواہی دی

صَمَّ حَصِيْنٍ بِنُبُوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حصین کے بت نے آپ کی نبوت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ وَافِدُ السِّبَاعِ وَشَكِي

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی خدمت اقدس میں درندوں کا نمائندہ حاضر ہوا اور شکایت کی

إِلَيْهِ جَمَلٌ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کی خدمت میں اونٹ نے غزوة ذات الرقاع میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَالَ بِهِ عُمُرٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی برکت دعا سے دراز ہو گئی

أُمٌّ حَارِثَةَ وَأُخْتَهُ وَيَبْنُ لِأَبِي سَفِيَانَ مَا قَالَ فِي شَانِهِ

ام حارثہ کی اور ان کی بہن کی عمر اور بیان فرمایا آپ کے جو کچھ کہا تھا ابو سفیان نے آپ کی شان میں

لِرَوْجَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی بیوی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَ فِي أَثَرِ الْعُرَيْنِيِّنَ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ وَقَالَ لَبَّيْكَ

آل پر جنہوں نے بھیجا اہل عربینہ کے پیچھے کرز بن جابر کو اور فرمایا آپ نے مدینہ میں لبتیک

لَبَّيْكَ لِرَاجِزِ بَنِي كَعْبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں حاضر ہوں واسطے نبی کعب کے فریادی کے (مکہ میں) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ مِنَ الدَّاعِي

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا نماز عصر ادا کرنے کے بعد کون ہے دعا کرنے والا

عَلَىٰ هَذَا الْكَلْبِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسُنْدِي حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَتَوَكَّلُ

اس کتے کے خلاف۔ اے میرے الہ اور سید و سند مجھ پر واجب ہے کہ میں نہ شکایت کروں

إِلَّا إِلَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي لَا زِمَ لِي عَلَيْكَ أَنْ لَا أَتَوَكَّلُ

مگر تیری بارگاہ میں۔ اے میرے الہ اور سید و سند مجھ پر لازم ہے کہ نہ توکل کروں

إِلَّا عَلَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَاجِبٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَتَوَجَّهَ

مگر تجھی پر۔ اے میرے الہ اور سید و سند مجھ پر واجب ہے کہ نہ توجہ کروں

إِلَّا إِلَيْكَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَيَأْمَنُ إِلَيْهِ يَلْجَأُ

مگر تیری ہی طرف۔ اے کہ جس پر توکل کرتے ہیں اہل توکل اور پناہ و سہارا حاصل کرتے ہیں طرف اس کے

الْخَائِفُونَ يَا مَنْ بِكَرَمِهِ وَجَمِيلِ عَوَائِدِهِ يَتَعَلَّقُ الرَّاجُونَ يَا

اہل خوف۔ اے کہ جس کے کرم اور جمیل انعامات کے ساتھ چمٹتے ہیں امیدوار لوگ۔ اے کہ

مَنْ بِسُلْطَانِ قَهْرِهِ وَعَظِيمِ رَحْمَتِهِ وَبِرَّهْ يَسْتَعِيثُ الْمَضْطَرُونَ

جس کے غلبہ قہر اور عظیم رحمت اور احسان کے ساتھ مدد طلب کرتے ہیں مجبور لوگ

يَا مَنْ بُوْسَعِ عَطَائِهِ وَجَمِيلِ فَضْلِهِ وَنِعْمَائِهِ تَبْسُطُ الْأَيْدِي

اے کہ جس کی وسیع عطا اور فضل جمیل اور نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں۔

وَيَسْأَلُ السَّائِلُونَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ

اور سوالی سوال کرتے ہیں۔ اے میرے الہ اور سید و مولیٰ مجھے بنا اپنے اوپر

تَوَكَّلَ عَلَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي لَا تُخَيِّبْ رَجَائِي

توکل کرنے والوں سے۔ اے میرے الہ اور سید و سند میری امید کو رسوا نہ کرنا

إِذَا صُرْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسُنْدِي أَمِنْ خَوْفِي

جب میں تیری بارگاہ میں منتقل ہوں، اے میرے الہ اور سید و سند میرے خوف کو امن

إِذَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْكَمَالَ بِالْوَصَالِ

بنا دینا جب میں پہنچوں تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کمال وصل کا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا ضَالُّونَ فَاهْدِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا فَقْرَاءُ فَارْزُقْنَا اللَّهُمَّ

اے اللہ ہم گمراہ ہیں لہذا ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں لہذا ہمیں غنی بنا۔ اے اللہ

إِنَّا مَذْنُوبُونَ فَاعْفُرْ لَنَا يَا نُورُ يَا هَادِي يَا غَنِي يَا قَوِي اللَّهُمَّ

ہم گنہگار ہیں لہذا ہمیں بخش۔ اے نور۔ اے ہادی۔ اے غنی۔ اے قوی۔ اے اللہ

بِرُوحِ مَنَّكَ أَيُّدُنَا اللَّهُمَّ مِنْ عِلْمِكَ الْمَكْنُونِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ

اپنے مخصوص روح کے ساتھ ہماری تقویت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مخفی علم سے سکھلا۔ اے اللہ

وَعَلَى دِينِكَ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ تَبَتُّنَا اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ

اور اس دین پر جس کو تو نے پسند فرمایا ہے ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ اور بنا ہمیں ان لوگوں سے

سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى اللَّهُمَّ أَحْيِنَا فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنِينَ

کہ سبقت لے گئی ان کے لیے تیری طرف سے نیک جزا۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دُنیا میں حالت ایمان

طَائِعِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ تَائِبِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

و طاعت پر۔ اے اللہ ہمیں وفات دینا حالت اسلام اور توبہ پر۔ اے اللہ بنانا ہمیں

عِنْدَ السُّؤَالِ ثَابِتِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ

سوال کے وقت ثابت قدم۔ اے اللہ بنانا ہمیں بڑی گھبراہٹ کے دن

مِنَ الْأَمْنِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ الْكِتَابَ بِالْيَمِينِ

امن والوں سے۔ اے اللہ ہمیں بنانا ان لوگوں سے جو نامہ اعمال پکڑیں گے دائیں ہاتھ سے

اللَّهُمَّ ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ ادْخُلْنَا

اے اللہ ثابت رکھنا ہمارے قدموں کو صراطِ مستقیم پر۔ اے اللہ ہمیں داخل

بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ نَجِّنَا بِحَبْلِكَ وَعَفْوِكَ

فرمانا اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جناتِ نعیم میں۔ اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما اپنے علم اور عفو کے طفیل

مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَنْ كَرِبَ اللَّيْمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

عذابِ الیم اور قابلِ طاعتِ درد و کرب سے دُنیا و آخرت میں۔ اے اللہ

إِنَّا صَبَحْنَا لَا نَمْلِكُ إِلَّا نَفْسَنَا دَفْعًا وَلَا رَفْعًا وَلَا خَيْرًا وَلَا نَفْعًا

ہم نے صبح کی اس حال میں کہ نہیں مالک اپنے لیے دفاع کے اور ترقی کے اور نہ ضرر کے اور نہ نفع کے

فُقَرَاءُ لَا شَيْءَ عَلَيْنَا ضِعْفَاءُ لَا قُوَّةَ لَنَا وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ

فقیر ہیں کوئی شئی ہماری نہیں تا تو ان ہیں کوئی قوت ہم میں نہیں اور ہے خیر تمام تیرے دست قدرت میں

وَأَمْرُ كُلِّ شَيْءٍ رَاجِعٌ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِمَا أَمَرْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ

اور ہر چیز کا معاملہ تیری طرف لوٹنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے اس کی جس کا امر فرمایا۔ اے اللہ

أَعْنَانَا عَلَى مَا كَلَّفْتَنَا اللَّهُمَّ أَغْنِنَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ

ہماری اعانت فرما اس پر جس کا مکلف ٹھہرایا اے اللہ ہمیں غنی فرما ہر چیز سے اپنے فضل کے ساتھ۔ اے اللہ

اجْبُرْ مَا فَاتَ مِنَّا بِكَرَمِكَ وَعِنَايَتِكَ اللَّهُمَّ أَيَّدْنَا بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْكَ

پورا فرما جو فوت ہوا ہم سے ساتھ اپنے کرم و عنایت کے۔ اے اللہ ہمیں تقویت بخش اپنی طرف توجہ کی

بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَنُصْرَتِكَ بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ

اپنی طاقت و قوت اور قدرت و نصرت کے ساتھ بطفیق حرمت نبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَمَا قَصُرَتْ هَمَّتْنَا عَنْهُ يَا رَبَّنَا وَرَأَيْنَاهُ لَمْ

علیہ وسلم کے۔ اے اللہ جس سے ہماری ہمت و طاقت قاصر ہے اے ہمارے رب اور ہم نے دیکھا کہ نہیں

تَبْلُغُهُ مَسْأَلَتْنَا مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرَانِ

پہنچا اس تک ہمارا سوال یعنی وہ خیر اور بھلائی کہ جس کا وعدہ دیا تو نے مخلوق میں سے کسی کو اور وہ خیر کہ تو

مُعْطِيَهُ أَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ فَإِنَّا نَرْغِبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ

عطا فرمائے گا اپنے بندوں میں سے کسی کو تو یقیناً ہم بھی رغبت رکھتے ہیں تیری طرف اس میں۔ اور میں سوال کرتا ہوں

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلْبُ قُلُوبِنَا بِقَلْبِكَ فِي اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي

تجھ سے اے دلوں کو تبدیل کرنے والے تبدیل فرما ہمارے قلوب کو ذات باری میں مستغرق قلب والی تبدیل کی طرح۔ اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ صُحْبَةَ الْخَوْفِ وَعُغْلِبَةَ الشُّوقِ وَثُبَاتَ الْعِلْمِ وَدَوَامَ

تجھ سے سوال کرتا ہوں خوف و خشیت کی ہمراہی اور شوق کے غلبہ۔ علم کے ثبوت و تحقق اور دوام

تجھ سے سوال کرتا ہوں خوف و خشیت کی ہمراہی اور شوق کے غلبہ۔ علم کے ثبوت و تحقق اور دوام

الفکر اللہم اِنِّیْ اَسْئَلُكَ سَبِیْلَ اَئِمَّةِ الْمُتَّقِیْنَ بِسْمِ اللّٰهِ وَهِنَ

فکر کا۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے متقی آئمہ کے راستہ کا، اللہ کے نام کے ساتھ اور

اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلِیْتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ حَسْبِی اللّٰهُ اَمِنْتُ بِاللّٰهِ

اللہ سے اور اللہ پر ہی چاہیے کہ توکل کریں اہل ایمان۔ کافی ہے مجھے اللہ۔ میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ

رَضِیْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ فِیْ كُلِّ الْاُمُوْرِ مَعَ اللّٰهِ الرَّحْمٰ

راضی ہوا اللہ کے ساتھ۔ میں نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اے اللہ

فَوْقَ كُلِّ شَیْءٍ عَلُوًّا رَفِیْعًا فَاجْعَلْنِیْ عَلِیًّا عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ

ہر شے سے اوپر ہے تیری رفعت و برتری پس بنا مجھے بھی بلند مرتبت ہر شے پر

حَتّٰی الْوِلَایَةِ الْقُطْبِیَّةِ وَالْاَوْتَادِیَّةِ ثُمَّ مِنْهَا اِلَى الْعُرْفَانِ فِی

حتیٰ کہ ولایت قطبیہ اور اوتادیہ پر پھر وہاں سے عرفان کے

الْمُشَاهَدَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ الَّتِیْ اِحْتَوَتْ بَیْنَ تِلْكَ الْعُكْسَاتِ

مختلف قسم کے مشاہدات پر جو سمٹے ہوئے ہیں ان عکسوں اور پرتوں کے درمیان

حَتّٰی اَعَابِنَهَا مَعَ الْعَجَائِبِ فِی الْهَوَآءِ وَالْبَدَاِیِعِ فِی الْاَرْضِ

حتیٰ کہ میں ان کا معائنہ کروں معجزات کے عجائبات کے اور زمین کے بدیع اور انوکھے امور کے

وَلَا تُقَصِّرْنِیْ عَلٰی عَلُوْدُوْنِ عَلِیٍّ اَنْتَ الْعَالِیُّ الْمُبْتَلٰی اَجْعَلْنِیْ

اور مجھے بند اور منحصر نہ فرما نا ایک قسم کی بندی پر سوائے دوسری کے تو ہی علی الاطلاق بلند و برتر ہے۔ بنا دے مجھے

شَبِیْہًا بِالْعُلُوِّیَّاتِ حَتّٰی الْعَقْلِ الْاَوَّلِ مِنْ غَیْرِ قُصُوْرٍ فِی

مشابہ علویات کے ساتھ حتیٰ کہ عقل اول کے بغیر کسی تصور و کوتاہی کے سلسلہ میں

السَّلْسِلَةِ مَعَ بَقَاءِ الْقُوَّةِ فِی الْاِعَادَةِ وَالتَّكْرُرِ فِیْ ذٰلِكَ مِنْ غَیْرِ

مع باقی رہنے قوت اعادہ و تکرار کے اس راستہ میں بغیر

تَوَقُّفٍ وَاِهْمَالٍ بَلْ بِطَیِّ زَمَانِیْ اَوْ مَكَانِیْ فِی الصُّعُوْدِ وَالْهَبُوْبِ

توقف کے اور مہمل رکھنے کے بلکہ ساتھ سمٹنے زمان یا مکان کے اوپر جانے اور نیچے اترنے میں

بِخِيَالٍ صَحِيحٍ بَلْ بِفِعْلٍ لَهَا أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى تَصْعِيدِ الْكَيْفِ

ساتھ خیال صحیح کے بلکہ ساتھ فعل کے کیونکہ تو قادر ہے کثیف کے اوپر لے جانے اور

تَهْبِطِ اللَّطِيفِ يَا عَلَامَ الْغُيُوبِ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِّنْ حِفْظِ

لطیف کے نیچے سے آنے پر اے سب غیوب کا علم کامل رکھنے والے جس کے حفظ سے کوئی شے تجاوز نہیں کر سکتی

عِلْمِي بِتَعْلِيمَاتٍ لَّدُنِّيَّةٍ مُّطَابِقَةٍ لِّمَا فِي غَيْبِكَ وَسِرِّكَ مِنْ

مجھے لدنی تعلیمات عطا کر جو مطابق ہیں تیرے علم غیب کے اور تیرے بھیدوں کے

مَوْضُوعَاتِكَ الْمَطْلُوقَةِ وَاصْطِلَاحَاتِ كَلِمَةٍ مَّرْبُوطَةٍ بِهَا

اپنی وضع کردہ مطلقہ اشیا میں اور اصطلاحات کلمہ میں کہ ربط دی گئی ہیں ان کے ساتھ

مِثَالَاتٍ وَجُزْئِيَّاتٍ وَشَوَاهِدَاتٍ تَقَرَّرَتْ فِي أَذْهَانِ عِبَادِكَ

مثالیں اور جزئیات اور شواہدات جو قرار پذیر ہیں تیرے مخلص بندوں کے ذہنوں میں

الْمُخْلِصِينَ مِنَ الْيَقِينِيَّاتِ الصَّادِقَةِ عَلَيْهَا أَوَّلًا وَآخِرًا

یقینیات سے کہ صادق ہیں ان پر اول و آخر میں اس

مِنْ حَيْثُ أَتَاهِي فَأَجْعَلُهَا لِهَذَا الْعَبْدِ الدَّلِيلَ بِالْفِعْلِ

جسٹیت سے کہ وہ (شواہدات وغیرہ) یقینیات صادق ہیں پس بنا اس عاجز بندے کے لیے عملی طور

مَلَكَةَ الْإِنْصَافِ وَالْإِتِّصَالِ بِمُقَدِّمَاتِ أَوْلِيَةٍ ثُمَّ مَشْهُورَاتِ

پر استعداد انصاف و اتصال کی ساتھ مقدمات اولیہ پھر مشہورات مسلمہ

مُسْلِمَاتٍ بِحَيْثُ تَحْصُلُ لَنَا مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَى شَرْطٍ أَوْ عَلِيَّةٍ

کے اس جسٹیت سے کہ حاصل ہوں ہمیں کسی شرط اور علت پر توفیق کے بغیر

بَلْ اجْعَلْ جَوْهَرِي وَنَفْسِي النَّاطِقَةَ مَتَّبِعَ بَحُورِ الْعُلُومِ الْغَيْبِيَّةِ

بلکہ بنا دے میرے جوہر اور نفس ناطقہ کو منبع علوم غیبیہ کے سمندروں کا

الَّتِي الْبَسْتَنَا بِهَا وَعَلَّمْتَنَا بِتَكْوِينِ الْمَخَارِجِ بِإِرْشَادِ الْمُرْشِدِينَ

جو تو نے ہمیں مانند لباس کے محیط کئے اور تعلیم دی ہمیں مخارج کی کیفیات متعین کرنے کی بسبب مرشدین کی رہنمائی

لِلْمُسْتَرشِدِينَ بِإِطْلَاقِكَ لَهَا حَيْثُ شِئْتَ ثُمَّ فَهَّمْنِي مَا فِي ذَاتِكَ

کے واسطے طالبانِ رشد کے بسبب اطلاق فرمانے تیرے انہیں جہاں کہ چاہے۔ پھر سمجھائی مجھے جو تیری ذات میں

مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ عُلُومٌ غَيْبِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ لَمْ تَنْتَقِشْ فِي اللُّوحِ

علوم جو کہ علوم غیبیہ مطلقہ ہیں کہ نہیں نقش پذیر ہوئے لوح

الْمَحْفُوظِ مَحْفُوظًا فِي قَلْبِ عَبْدِكَ هَذَا وَفِي خَزَائِنِ الْحِسِّ

محفوظ میں محفوظ بناتے ہوئے اپنے اس بندے کے دل میں اور اس کے خزانہ حس میں

مُتَمَرِّفًا تَفْصِيلًا جُزْئِيًّا حَيْثُ شَاءَ مِنْ غَيْرِ فَايْتٍ وَلَا مَنْسِيٍّ

تصرف کرتے ہوئے ان میں ہر ہر جزئی میں تفصیلی طور پر بغیر کسی کے فوت ہوئے اور بھولنے کے

بِحَيْثُ إِذَا كُرِّرَتْ عَادَتْ وَأَسْتَحْضَرْتُ حَتَّى نَسَلَكَهَا فِي

اس حیثیت سے کہ جب تکرار کئے جائیں تو لوٹ آئیں اور مستحضر ہو جائیں حتیٰ کہ جاری کریں ہم انہیں

طَرِيقٍ شَفِيهِةٍ قَلِيلَةَ الْحُرُوفِ كَثِيرَةَ الْمَعَانِي بِحَيْثُ نَدِيرَهَا

ایسے مختصر طریقہ پر جو قلیل حروف اور کثیر معانی والا ہو اس حیثیت سے کہ ہم پھیریں انہیں

مِنْ كُلِّ وَضْعٍ عَلَى حَرْفٍ وَوَاحِدٍ حَتَّى يَتَمَّ كُلُّ بَيْتٍ مِّنَ الْأَدْبِيَّةِ

ہر وضع و کیفیت سے حرف واحد پر حتیٰ کہ تمام و کامل ہو جائے ہر بیت از روئے ادبیت کے

الْأَدْبِيَّةِ ثُمَّ الشَّرْعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ يَا خَالِقَ الْأَنْطَاقِ وَالْكَلِمَاتِ فِي

جو آہ ہے از روئے مقصود کا پھر از روئے شرع و دین کے اے پیدا کرتے والے نطق اور کلمات کے

الْمَخَارِجِ وَالْمَفْهُومَاتِ مَعَ رِعَايَاتِ الْقَوَائِنِ فِي الْقُلُوبِ

مخارج میں اور مفہومات کے بمع رعایت قوانین کے قلوب میں

كَوْنَهَا فِي قَلْبِي وَارْكَزَهَا فِي نَفْسِي مُوَصَّلَةً إِلَى تَصَدِيقَاتِ فَلَكِيَّةِ

موجود کر انہیں میرے قلب میں اور مرکوز کر انہیں میرے نفس میں درآئیں ایک واصل کرنے والے ہوں فلی تصدیقات

وَتَصَوُّرَاتِ فَلَكِيَّةِ وَقَضَايَا عَرَشِيَّةِ وَبَدَائِعِ زُبُرِيَّةِ حَتَّى

فلی تصورات، عرش قضا یا اور کتابی بدائع تک حتیٰ کہ

أَسْتَغْنِي مِنْ غَيْرِكَ سِوَى الْهَامِكِ ثُمَّ خَصَّصْتَنِي بِعُلُومٍ أَوْدَعْتَنِي

میں بے نیاز ہو جاؤں ماسوا سے سوائے تیرے الہام کے۔ پھر مجھے مخصوص فرما ان علوم کے ساتھ جو تو نے ودیعت فرمائے

فِي قَلْبِ خَيْرِ الْكَائِنَاتِ وَأَبِ الْأَرْوَاحِ وَنَحْنُ مِنْ أُمَّتِهِ وَأَوْفَقْتَنِي

پس سید کائنات اور مبدء الارواح کے قلب اقدس میں جبکہ ہم آپ کی امت سے ہیں اور مجھے توفیق دے

عَلَى إِزَالَةِ مَوَانِعِ طُرُقِهَا وَحَوَادِثِ دَهْرِهَا وَجَوَابِ أَسْرَارِهَا

ان کے طرق میں موانع زائل کرنے اور حوادث دہر دور کرنے کی اور ان کے اسرار کھینچنے والوں پر کنٹرول کی۔

إِلَهِي أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْمُعَدِّينَ لِذَلِكَ

اے میرے الہ تو قادر ہے مجھے اس کی استعداد والوں سے بنانے پر

الْمُؤَفِّقِينَ بِأَنْفَالَاتِ لَاهُوتِكَ وَرَأَى مُحَدِّدِ الْجِهَاتِ فَلَكَ

اور توفیق پانے والوں سے ساتھ اپنے لاهوتی عطیات کے جو محدد جہات فلک الافلاک کے

الْأَفْلَاقِ نَاطِرًا مُصَدِّقًا حِينَ التَّصَرُّفَاتِ بِتَصَرُّفَاتِكَ إِلَى

پرے ہیں دیکھتے ہوئے اور تصدیق کرتے ہوئے تصرفات کے دوران ساتھ اپنے تصرفات کے طرف

تَفَكُّرَاتِكَ وَاجْعَلِ الْأَجُودَ النَّعَالَةَ الْعَلَّامَةَ النَّظَاقَةَ

اپنے تفکرات کے اور بناوے عمدہ گھوڑے نعل بند، امتیازی علامات والے، کمر بند والے کو

مُسَخَّرَةً لِفَقِيرِكَ وَعَبْدِكَ الْحَقِيرِ وَتَلَطَّفْ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ

مسخر واسطے اس اپنے فقیر اور عبد حقیر کے اور لطف و کرم فرما مجھ پر مختلف قسم کے

إِلْهَامَاتٍ وَخَوَابِرِ الْعَادَاتِ مَنَاعَةً حَرَّاقَةً لَهُمْ وَمُؤَمَّرَةً

الہامات اور کرامات کے ساتھ جو روکنے، جلانے والے ہوں

الْأَخْلَاقِ وَالْمُتَوَجِّهِينَ إِلَيْكَ بِحُسْنِ النِّيَّاتِ كَسَارَةً

اخلاق اور مخلص متوجہ الی اللہ لوگوں کے دشمنوں کے عزائم کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہوں

لِمُقَدِّمَاتِ الْمُتَغَلِّبِينَ فِي الْجَلَالِ بِالْقَيْلِ وَالْقَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

واسطے مقدمات ان لوگوں کے جو غلبہ پانے والے ہوں جلال و رعب میں ساتھ قیل و قال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَرَتْ فِيهِ

کامل نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس محبوب کے منہ مبارک میں چمکا

قَطْرَةٌ مِّنْ بَحْرِ الْعِلْمِ الْأَنْزَلِيِّ وَأَعْطَى لَنَا عُلُومًا مِّنْ الْهَامِ عِلْمِ

ایک قطرہ علم ازل کے سمندر سے اور عطا فرما ہمیں علوم علم ازل

الْأَزَلِّ وَالْأَبَدِ نَعْلَمُ بِهَا عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

واپد کے الہام سے جن کے سبب معلوم کر لیں اولین و آخرین کا علم۔ اے اللہ رحمت کاملہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ رِقَائِقَ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہیہ فرمائے

عُلُومَ الْأَنْزَلِ وَالْأَبَدِ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ دَقَائِقَ فَهُوَ مِ الْكَثْرَةِ وَ

علوم ازل واپد کے اسرار اور تعلیم دی انہیں کثرت و

الْوَحْدَةِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا مِّنْ عُلُومِ كُلِّهِ وَقُدْرَةً مِّنْ

وحدت کے فنوم و اذبان کے دقائِق کی اور عطا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام علوم سے علم اور قدرت

عُلُومِ كُنْ فَيَكُونُ وَمِنْ عُلُومِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَهِي لَوْ لَا

کن فیکون کے علوم سے اور ماکان و ما یكون کے علوم سے۔ اے میرے الہ اگر میں

جَهَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا شَكَوْتُ عَثْرَاتِي وَلَوْلَا نَسِيتُ لِمَا ذَكَرْتُ

جاہل نہ ہوتا اپنے معاملہ سے تو شکایت نہ کرتا اپنی لغزشوں کی اور اگر نہ بھولتا جو یاد کئے میں نے

مِنَ الْإِفْرَادِ مَا سَفَحْتُ مِنْ عِبْرَاتِي فَأَصْلِحْ مَشَاتَاتِ الْعَثْرَاتِ

افراد سے تو نہ بہاتا اپنے آنسو پس اصلاح فرما دے میری مختلف قسم کی لغزشات سے

بِمُرْسَلَاتِ الْعِبْرَاتِ وَهَبْ لِكَثِيرِ السَّيِّئَاتِ وَلِقَلِيلِ الْحَسَنَاتِ

بطفیل ان بہتے آنسوؤں کے اور بخش دے بہت گناہوں والے اور نچھوڑی نیکیوں والے کو

إِلَهِي أَخْرَسَتِ الْبَعَاصِي لِسَانِي فَمَا لِي مِنْ وَسِيلَةٍ مِّنْ عَمَلٍ

اے میرے الہ گونگا کر دیا ہے گناہوں نے میری زبان کو پس نہیں کوئی میرا وسیلہ عمل سے

وَلَا شَفِيعَ سِوَى الْأَمَلِ إِلَهِي أَقْصَيْتَنِي الْحَسَنَاتِ مِنْ جُودِكَ

اور نہ کوئی شفیع سوائے آرزو و امل کے۔ اے میرے اللہ اور کر دیا مجھے نیکیوں نے تیرے جود و

وَكْرَمِكَ وَأَلْقَيْتَنِي السَّيِّئَاتِ بَيْنَ عَفْوِكَ وَمَغْفِرَتِكَ إِنَّ رَحْمَتَكَ

کرم سے اور پھینک دیا مجھے برائیوں نے تیری عفو اور مغفرت کے درمیان بے شک میری امید

لَا يَنْقُطُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ كَمَا أَنَّ خَوْفِي لَا يَزِيدُنِي مِنْكَ

تجھ سے منقطع نہیں ہوگی اگرچہ میں تیری نافرمانی ہی کروں جیسے کہ میرا خوف تیری ذات سے مجھ سے زائل نہ ہوگا

وَإِنْ أَطَعْتُكَ إِلَهِي لَا أَسْتَطِيعُ حَوْلًا عَنْ مَعْصِيَتِكَ إِلَّا

اگرچہ تیری اطاعت کروں۔ اے میرے اللہ میں طاقت نہیں رکھتا معصیت سے ہٹنے کی مگر

بِعِصْمَتِكَ وَلَا قُوَّةَ لِي عَلَى الطَّاعَةِ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ مَنْ هُوَ فِي

تیرے بچانے کے سبب۔ اور نہیں قدرت مجھ میں طاعت پر مگر تیری توفیق سے، جو تیرے

قَبْضَةِ قَهْرِكَ كَيْفَ لَا يَخَافُ وَمَنْ هُوَ دَائِرَتِي دَائِرَةٌ لَدَاتِكَ

قبضہ قہر میں ہے وہ کیسے خوف نہ کھائے اور جو محور گردش ہے تیری لذات (دیدار) کے

أَيْنَ يَذْهَبُ إِلَهِي أَنَا مَسْلُوبُ الْإِرَادَةِ عَارٍ عَنِ الْمَشِيئَةِ

دائرہ میں وہ کہاں جائے۔ اے میرے اللہ میں ارادہ سے خالی، مشیت سے عاری،

عَاجِزٌ عَنِ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ تَعَاظَمْتُ عَلَى الْكِبَرَاءِ وَالْعُظْمَاءِ

طاقت و قوت سے عاجز ہوں، تو عظیم تر ہے کبراء و عظماء پر

فَأَنْتَ الْعَظِيمُ الْكَبِيرُ وَتَكْرَمْتَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ فَأَنْتَ

پس فقط تو ہی عظیم و کبیر ہے اور تو ہی نے جود و کرم فرمایا فقراء اور اغنیاء پر پس تو ہی

الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ وَمَنْنْتَ عَلَى الْعُصَاةِ وَالطَّائِعِينَ لِسَعَةِ رَحْمَتِكَ

غنی و کریم ہے اور احسان فرمایا تو نے عاصیوں اور سرکشوں پر اپنی وسیع رحمت کے سبب

فَأَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تَعْلَمُ سِرَّنَا وَجَهْرُنَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ

پس تو ہی رحمن و رحیم ہے تو جانتا ہے ہمارے خفیہ و علانیہ کو اور تو زیادہ جانتا ہے ہم کو

مَنَافَاتِ الْعَلِيمِ لَا تَدْبِيرُ لِلْعَبْدِ مَعَ تَدْبِيرِكَ وَلَا ارَادَةَ لَهُ

ہم سے پس فقط تو ہی علیم ہے۔ نہیں تدبیر بندے کی تیری تدبیر کے ساتھ اور نہ ارادہ

مَعَ مَشِيَّتِكَ وَتَقْدِيرِكَ لَوْلَا وَجُودُكَ لَمَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَاتُ

اس کے لیے تیری مشیت و تقدیر کے ساتھ۔ اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو مخلوقات موجود نہ ہوتی

وَلَوْلَا حِكْمَةُ صُنْعِكَ لَمَا عَرَفْتِ الْمَصْنُوعَاتُ خَلْقَتِ الْأَدْمِيَّ

اور اگر تیری صنعت میں حکمت نہ ہوتی تو مصنوعات کا عرفان نہ ہوتا۔ تو نے پیدا فرمایا آدمی کو

وَبَلَوْتَهُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ أَبْرَزْتَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ

اور اسے آزمایا حسنات و سیئات کے ساتھ۔ ظاہر کیا تو نے اسے اس جہان میں

لِبِعْرِفَتِكَ وَحَبَبْتَهُ عَنْ بَاطِنِ الْأَمْرِ بِظَاهِرِ الْمَرِيَّاتِ وَ

اپنی معرفت کے لیے اور حجاب میں رکھا اسے باطن امر سے ظاہری محسوس اشیاء کے ساتھ اور

كَشَفْتَ لِمَنْ شِئْتَ عَنْ سِرِّ السُّجُودِ فِيهِذَا أَشْهَدُ

کشف فرمایا جس کے لیے چاہا توحید کے راز حقیقت کو تو اسی کی گواہی دے رہے ہیں

الْكُوفُ وَالشُّكُوفُ وَالكَائِنَاتُ وَأَشْهَدُ تَهَبُّهُ عِنْدَ حَضْرَاتِ

وجود، ایجاد و خلق اور کائنات شاید بنایا تو نے انہیں ساتھ اس امر کے اپنی بارگاہے

قُدْسِكَ بِلَطَائِفِ مَعَانِي سِرِّكَ الْبَاطِنِ فِي مَظَاهِرِ الْمَظَاهِرِ

مقدس میں اپنے مخفی راز کے لطیف معانی کے ساتھ مظاہر کے ظواہر میں ساتھ

بِأَنْوَاعِ تَجَلِّيَّاتِ قُدْسٍ وَحَدِيثِكَ وَمَحَبَّتِكَ فِي حَضْرَةِ

مختلف قسم کی تجلیات کے اپنی مقدس وحدت اور محبت سے اپنی بارگاہ

وَحَدِيثِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّحْمَنُ وَأَنَا الْعَاصِيُ فَمَنْ يَدْعُ

وحدت میں۔ اے اللہ تو رحمن ہے اور میں گناہگار ہوں تو کسے پکارے

الْعَاصِيُ إِلَّا الرَّحْمَنَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَصِيرُ وَأَنَا الْأَعْمَى

عاصی سوائے رحمن کے اے رب۔ اے اللہ تو دیکھنے والا ہے اور میں اندھا ہوں

فَمَنْ يَدْعُ الْأَعْمَى إِلَّا الْبَصِيرَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَافِظُ

تو کے پکارے اندھا سوائے بصیر کے ہے رب۔ اے اللہ تو حافظ و نگہبان ہے
وَأَنَا الْمَحْفُوظُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَحْفُوظَ إِلَّا الْحَافِظَ يَا رَبُّ

اور میں محتاج حفاظت ہوں تو کسے پکارے محتاج حفاظت سوائے محافظ کے ہے رب
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْفَتَّاحُ وَأَنَا الْمَفْتُوحُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَفْتُوحَ

اے اللہ تو فتح دینے والا ہے اور میں فتح کا طالب ہوں تو کسے پکارے طلب کار فتح
إِلَّا الْفَتَّاحَ يَا رَبُّ وَبِحُرْمَةِ الْأَدْعِيَّاتِ افْتَحْ لَنَا بَابَ

سوائے فتح بخشنے والے کے۔ اے رب تعالیٰ ان دعاؤں کے طفیل ہمارے لیے کھول دے اپنی
الْعِنَايَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَوَفِّقْنَا لِلطَّاعَاتِ

عنايات اور کرامتوں کا دروازہ۔ اور ہمیں توفیق دے طاعات

وَالْعِبَادَاتِ وَاحْفَظْنَا مِنَ

و عبادات کی اور محفوظ رکھ ہمیں

الْأَفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ إِلَهِي أَنْتَ

آفات و بلیات سے۔ اے میرے الہ تو ہی

الْوَاحِدُ فِي ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ

یگانہ ہے اپنی ذات و صفات میں

بِالْوَهَيْتِكَ يَا وَاحِدًا أَحَدًا

ساتھ اپنی الوہیت کے، اے واحد۔ اے احد

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ

فرمادیکئے وہ اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جنا۔ نہ وہ

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

جنا گیا۔ اور نہیں اس کا کوئی مشابہ و مماثل۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین نامان سے متاثرات اقران ہل
ایزومنان تحفہ عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول یارگاہ کوین حضرت محمد ﷺ
مسکتی بہ

مجموعۃ الرسول

الجزء الثانی والعشرون ۲۲

فِي مُعْجَزَاتِهِ وَخَوَارِقَاتِهِ ﷺ

لَا تُصَلِّ عَلَى خَلْقٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت خواجہ خواجگان محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِقُدْرَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِبَرَکَةِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قدرت کے اور بظیفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِهَيْبَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِکَرَامَةِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہیبت کے اور بظیفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِسِیَاسَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرامت کے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نگہبانی و نگرانی کے

الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

تمام ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بہت رحمت والا مہربان روز جزاء کا مالک ہے

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

ان صفات مختصہ والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ہمیں راہ راست پر چلا راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اللّٰهُمَّ

ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی - اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ خَتَمَ اللّٰهُ

رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے دل نور پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی

قَلْبَهُ بِخَاتَمِ مَنْ نُورِ اللّٰهِ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ اسْتَشْفٰی

نورانی مہر کے ساتھ - اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ شفا پائی

مِنْ فَضْلِ وَضُوْعِهِ مَا یَزِیْدُ مِنَ الْفَیْنِ وَنَبَتْ تَحْتَ جَبِیْنِهِ

آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے دو ہزار سے زائد حضرات نے اور آگاہ سبزہ ان کی جبین اقدس کے نیچے

الْکَلَاءِ ۝ وَاِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْحَجَرُ الْجَلْمُودُ وَلَمْ یَسْ بِکِفِّهِ ضَرْعٌ

اور موم ہو گیا آپ کے قدم اقدس کے نیچے سخت پتھر اور آپ نے چھوا اپنی ہتھیلی سے

شَاةُ أُمَّ مَعْبِدٍ فَعَادَ ضَرْعَهَا أَحْفَلُ مَا يَكُونُ وَأَجُودَ اللَّهِمْ صَلِّ

آم معبد کی بکری کے تھنوں کو تو ہو گئے بھر پور دودھ کے ساتھ اور بہت عمدہ تمام اوقات سے لے کر اللہ رحمت کاملہ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَوَى الْفَأْوَ نِصْفَ أَلْفٍ مِّنْ سَبِيلٍ وَرَوَى

فرمایا سیدنا محمد پر جنہوں نے سیراب فرمایا پندرہ سو صحابی کو بچے کھچے قلیل پانی سے اور سیراب فرمایا

الرَّكْبَ بَعْدَ التَّهْلِ بِالْعَلْلِ وَخَاطِبُهُ الْبُعَيْرُ وَكَلِمَةُ الذَّنْبِ وَطَرَاؤُ

سواروں کی جماعت کو پہلی بار پیئے کے بعد دوسری بار پلا کر اور کلام کیا آپ کے ساتھ اونٹ نے اور گفتگو کی آپ سے بھیڑیئے نے اور

عَرْشِ الرَّحْمَنِ بِلَا امْتِرَاءٍ وَتَحَرَّكَ بِهِ جَبَلٌ جِرَاءَ اللَّهِمْ صَلِّ عَلَى

عرش رحمن کے نقش و نگار نے بلا شک و شبہ اور جھوٹے لگا آپ کی تشریف آوری اکی و جبر سے کوہ حراء لے کر اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا شَرِبَ ابْنُ سِنَانٍ دَمَهُ يَوْمَ أَحَدٍ لَمْ تَعُدْ

سیدنا محمد پر کہ جب پیالہ بن سنان خدری نے آپ کے رزخ سے بہنے والے خون کو احد کے دن تو کبھی نہ پوئی

عَلَيْهِ ضَرَاؤُتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَلِمَتُهُ الْحُثِّيُّ وَرَأْيُهَا وَأَجَابَتُهُ لَمَّا

ان پر ان کی مضر بیماری بعد ازاں اور کلام کیا آپ سے تپ نے اور آپ نے اس کو دیکھا اور اس نے قبول کیا جو

أَمْرَهَا بِهِ وَنَهَاها وَأَخْبَرَتْهُ فَرَسُ النُّعْمَانِ الْبَلْقِيَّ أَنَّ مِنْ أَهْلِ

آپ نے حکم فرمایا اور منع کیا اور عرض کی آپ کو نعمان کی چٹلی گھوڑی نے کہ جو شخص بھی آپ پر ایمان

بِهِ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَدَلَّ الذَّنْبُ عَلَيْهِ الرَّاعِي وَحَرَكَهُ لِلْقَدُومِ

لانے گا نہ گمراہ ہو گا اور نہ بد بخت رہے گا اور آپ کی طرف رہنمائی کی بھیڑیئے نے چرواہے کو اور آپ کی خدمت میں حاضر

عَلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ وَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْأَسَدَ بِالسَّلَامِ مَعَ سَفِينَةَ الْهَمَامِ

ہونے پر آواہ کیا مکہ سے اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف شیر کو ساتھ سلامتی کے بلند ہمت سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَظْهَرَ

لے اللہ رحمت کاملہ نازل فرمایا سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے ذریعے ظاہر فرمائے

اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَالْخَوَارِقِ الْعَادَاتِ وَصَلَّى

اللہ تعالیٰ نے معجزات و کرامات اور خلاف معمول افعال و اعمال اور رحمت نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ نَاقَتُهُ الْعُضْبَاءُ وَنُصِرَ بِرِيحِ

سیدنا محمدؐ پر جن سے کلام کیا ان کی اونٹنی عضباء نے اور جنہیں مدد دی گئی باد صبا کے

الصَّبَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ وَأَقْرَأَ

ساتھ - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جن سے حجر اسود نے کلام کیا اور آپ کی

بِرِسَالَتِهِ وَوَحَّدًا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ جَبَلٌ ثَبِيرٌ

رسالت کا اقرار کیا اور توحید کا - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جن سے کلام کیا کوہ ثبیر اور

وَجِرَاءٌ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُمِيَتْ الْكَلْثُومُ فِي نَحْرِهَا

کوہ حراء نے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر کہ چوٹ لگی کلتوم کو سینہ میں اور

وَبَصَقَ عَلَيْهَا فَبَرَأَتْ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ الشَّاةُ

آپ نے اس پر لعاب دہن والا تو وہ تندرست ہو گئی اور صلوات نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جن سے کلام کیا

الْمَسْمُومَةُ وَسَمَّى اللَّهُ أُمَّتَهُ أُمَّةً مَّرْحُومَةً وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

زہر آلود بھری نے اور اللہ نے نام دیا آپ کی امت کو امت مرحومہ کا - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْوُحُوشُ تَبْدَأُ نَاقَتَهُ بِالْكَلَامِ وَتُخْبِرُهَا أَنَّهَا

محمدؐ پر کہ جنگلی جانور ابتداء کرتے تھے ان کی اونٹنی کے ساتھ کلام میں اور اسے خبر دیتے تھے کہ وہ

لَهُ وَظَلَّتْهُ الْعِغَامُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ تَلْتَبِسُ مِنْهُ الْأَمَانُ وَالْبُرُكَةُ وَ

آپ کی سواری بنے گی اور سایہ کیا آپ پر بادلوں نے فتح مکہ کے دن در آنجا لیکہ طلب کرتے تھے آپ امان و برکت اور

كَانَ يُعْطَى عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَةَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ عطیات دیتے تھے مانند ایسے شخص کے جسے فاقہ سے اندیشہ نہ ہو اور رحمت نازل فرما سیدنا محمدؐ پر

الَّذِي رَجَفَ الْمَنْبَرُ تَحْتِ أَقْدَامِهِ شَوْقًا لِكَلَامِهِ وَإِعْلَابًا بِهِ وَبِئْسَ

کہ جھومنے لگا منبر شریف آپ کے قدموں کے نیچے آپ کے کلام اور تعظیم کی شوق میں اور اظہار کیا آپ کے سامنے

لَهُ الْبَعِيرُ أَشْوَاقَهُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَكَى إِلَيْهِ الْبَعِيرُ

اونٹ نے اپنے شوق و ذوق کا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جن کی بارگاہ میں اونٹ نے شکایت کی

وَأَعْتَرَفَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ وَقِلَّةِ الْعَلْفِ وَاسْتَأْذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ أَنْ

اور اقرار کیا عمل کی کثرت اور چارہ کی قلت کا اور اذن طلب کیا ان سے درخت نے ان کی طرف

تَمِيلُ نَحْوَهُ وَتَنْظُرُهُ وَشَهِدَ بِتَصْدِيقِهِ قَبْرُ الزَّادِ وَسُوقُهُ وَ

مائل ہونے اور انہیں دیکھنے کا۔ اور گواہی دی ان کی صداقت کی زادراہ والی کھجوروں اور ستونے اور

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَالَهُ بِرِسَالَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ مَلِكِ

رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے ملک جبار کا رسول برحق ہوتے کی گواہی دی رات کے موکل

اللَّيْلِ وَمَلِكِ النَّهَارِ وَكَلَّمَتْهُ صَخْرَةُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ حِينَ صَعِدَ

فرشتے نے اور دن کے موکل فرشتہ نے اور کلام کیا ان سے بیت المقدس کے پتھر نے جبکہ آپ نے اس پر

عَلَيْهَا وَجَلَسَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ اللَّهُ بِأَحِبِّ

قدم رکھا اور تشریف فرما ہوئے اس پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں ندا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں محبوب ترین

الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ وَمَا اسْتَقْبَلَهُ حَجْرٌ وَلَا مَدَارٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا اسْلَمَ عَلَيْهِ

نام کے ساتھ اور نہ سامنے آیا آپ کے کوئی پتھر اور ڈھیللا اور نہ درخت مگر آپ کو سلام پیش کیا

وَلَمَّا شَرَدَ لَهُ الْبُعَيْرُ وَانْتَضَرَهُ حَبْسَتُهُ بِخَطَامِهِ الشَّجَرَةُ وَلَمَّا

اور جب بھاگ گیا آپ کا اونٹ اور آپ نے اس کا انتظار کیا تو اسے اس کی مہار کے ذریعے روک لیا درخت نے اور

وَضَعَتْ يَدَاهُ بِطَعَامِ الْجَفْنَةِ وَهُوَ قَلِيلٌ كَانَ النَّاسُ يَتَعَاقِبُونَ

اور جب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا پیالے والے قلیل طعام پر تو صحابہ کی جماعتیں یکے بعد دیگرے اس کو کھاتی رہیں

عَلَيْهِ إِلَى اللَّيْلِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اتَّهَ الْبُعَيْرُ

رات تک اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی خدمت میں اونٹنی حاضر ہوئی

تَشَكُّوا الظِّمَاءَ وَضَرَّهَا فَأَرَوَاهَا وَأَمْرُوتَهُ مِنْ ثَدْيِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ

پیا س اور اس کے ضرر کی شکایت کرتے ہوئے تو آپ نے اس کو سیراب فرمایا اور اس نے آپ کو اپنے دودھ سے سیراب کیا اور اس

ذَلِكَ لَهَا فِيهِ قَطْرَةٌ وَأَشْبَعُ مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مِنْ قَدَحٍ

قبل اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور سیر فرمایا اہل صفہ کے سوانہ سرو کو ایک پیالہ

وَاحِدًا وَصَحِيفَةً وَأَشْبَعُ أَرْبَعًا رَاكِبٍ أَوْ زَادَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ

یا صحیفہ سے اور سیر فرمایا چار سو بلکہ ان سے بھی زائد سواروں کو چار سیر سے

وَأَشْبَعُ ثَمَانِ عِيَالٍ مِّنْ كَتِفِ مَعْرَ أَوْ شَاةٍ وَأَشْبَعُ جَيْشَهُ بِصَاعٍ

اور سیر فرمایا آٹھ محتاجوں کو بکری کے شانے سے اور سیر فرمایا اپنے لشکر کو ایک صاع (چار سیر کا پیمانہ)

مِّنْ تَمْرٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي آمَنَ عَلَى دُعَائِهِ الْجِدَارُ

کھجوروں سے۔ اور رحمت نازل فرمائی سیدنا محمد پر جن کی دعا پر آمین کہی دیوار نے

وَخَائِطُ الْبَيْتِ وَالْدَّارُ وَتَقَلَّ عَلَى شَجَّةِ ابْنِ أُنَيْسَةَ فَكَانَ الْبَرُّ

اور مکان کی چار دیواری اور حویلی نے اور آپ نے لعاب دہن ڈالا ابن انیسہ کے زخم پر تو ہو گئی تندرستی

أُنَيْسَةَ وَتَقَلَّ عَلَى يَدِ ابْنِ عِقَالٍ وَأَسْرَعَ فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ

عجوار اس کی اور ابن عقال کے ہاتھ پر لعاب دہن ڈالا تو جلد ہی ہو گیا خوب تر

قَبْلَ أَنْ تُقَطَّعَ وَرَأَى فِي بَطْنِ صَبِيٍّ تَغَشَّى فذَهَبَ دَاعُهُ مِنَ الْحَشَا

کٹنے سے پہلے کی حالت سے بھی اور دم فرمایا بچے کے پیٹ پر جسے غشی طاری ہوتی تھی تو دور ہو گئی اس کی بیماری انٹریوں

وَلَمَسَ سَوْطَ عَامِرٍ بِيَدِهِ الْيَمْنَى فَكَانَ نُورًا وَاضِحًا الشَّنَاوِلْمَانِضِحَ

سے۔ اور چھوا عامر کی چھڑی کو دائیں ہاتھ سے تو ہو گیا اس کا نور واضح روشن والا۔ اور جب چھڑکا

فِي وَجْهِ زَيْنَبَ الْمَاءِ كَانَتْ يُرَى وَجْهَهَا كَالْبَدْرِ فِي الظُّلْمَاءِ وَلَمَسَ

حضرت زینب کے چہرے پر پانی تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح معلوم ہوتا تاریک رات میں اور چھوا

ضَرْعَ شَاةٍ عَجْفَاءَ فَذَرَّ لَبَنَهَا مِنْ حَيْثُ وَوَقَّأَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

لاغر و ناتراں بکری کی شیردانی کو تو اسی وقت جاری ہو گیا اس سے دودھ اور بہت زیادہ ہو گیا۔ اور صلوٰۃ نازل فرمائی سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَسَ الْقِنُوبَيْنَانِ أَشْمَرَ مِنْ عَامِهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ

محمد پر کہ جنہوں نے چھوا کھجور کے خوشہ کو اپنی انگلیوں کے سروں سے تو وہ اسی سال پھلدار ہو گیا بغیر موسم کے

وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ قَيْصِرٍ بَيْنَانِهِ فَعَادَ أَطْوَلَ أَقْرَانِهِ وَتَقَلَّ عَلَى

اور مسح فرمایا چھوٹے قد والے کے سر کو انگلیوں کے سروں سے تو ہو گیا اپنے ہمعصروں سے دراز تر اور لعاب دہن ڈالا

ذَرِيعِ ابْنِ حَاطِبٍ فَكَانَ مَا بِهِ مِنَ الْحَرَقِ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ

ابن حاطب کی کلائی پر تو ان کی جین ہو گئی مانند کل گذشتہ کے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ بِبِيَدِهِ رَأْسَ الْأَقْرَعِ فَنَبَتْ مِنْ

رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے مسح فرمایا اپنے ہاتھ مبارک گنچے کے سر کو تو اس کے بال اُگ آئے

حَيْنِهِ شَعْرَةٌ وَأَسْرَعُ وَحَزَنٌ يَعْفُورٌ لِمَوْتِهِ وَجَزَعٌ وَمَاتَ بَعْدَ لَا

اور بہت جلدی اُگے اور غمزوہ ہو گیا یعفور آپ کا گدھا آپ کے وصال کی وجہ سے اور بے صبر ہو گیا اور آپ کے بعد

بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ بَطْنِ

تیسرے یا چوتھے دن مرگیا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا

عَقِبَةَ ابْنِ فَرْقِدٍ فَعَادَ بِرِيحَةٍ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَأَجُودَ وَمَسَحَ

عقبہ بن فرقہ کے پیٹ پر تو اس کی منک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہو گئی اور مجنوں بچے کے

رَأْسَ صَبِيٍّ مُجْنُونٍ فَكَانَتْهُ مَا بِهِ لَمْ يَكُنْ وَزَيْدًا لَهُ سَاعَةٌ فِي النَّهَارِ

سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا وہ کبھی مجنون ہوا ہی نہیں تھا اور زیادہ کر دی گئی آپ کے لیے ایک ساعت دن میں۔

وَكَانَ الظِّلُّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ فِي مَكَانٍ وَنَهَضَ

اور سایہ (درختوں کا) ادھر ہی پھر جاتا تھا جہر آپ پھرتے تھے اور جب کسی جگہ پر قضاے حاجت فرماتے اور فارغ ہو کر اُٹھتے

تَبْلَعُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَرْضُ وَتَفْجَرُ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَأُعْطِيَ قَلْبَ الْأَعْيَانِ

تو نکل جاتی زمین اسے جو برآمد ہوتا اور آپ سے ایمان و ایقان کا چشمہ بھوٹا اور آپ کو قلب ماہیات کا معجزہ عطا کیا گیا۔

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْحَمُ النَّاسِ بِالنَّاسِ وَأَسْتَسْقَى عَمْرُؤٌ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو سب لوگوں پر سب زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور باران رحمت طلب کی حضرت عمرؓ نے

بَعْدَكَ بِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَذَلِكَ الْأَسَدُ بِالتَّحْقِيقِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَلَى الطَّرِيقِ

آپ کے وصال کے بعد آپ کے چچے حضرت عباس کے ساتھ اور شیر نے رہنمائی کی آپ کے بعض صحابہ کو راستہ کی

وَقِيلَ فِيهِ لِلْكَسْرَى فِي النَّوْمِ وَهُوَ فِي غَشَاوَةٍ إِخْلَعُ مَا فِي بَدَنِكَ

اور آپ کے متعلق کسریٰ کو خواب میں کہا گیا جبکہ وہ پردہ و حجاب میں تھا۔ چھوڑوے جو تیرے بطن میں ہے

لصاحبِ الهراوةِ وخاطبه يعفور مبتدياً لم يبطأ ابائى غير الا نبياء

صاحب عصا نبی اکرام کے لیے اور کلام کیا آپ سے یعفور گدھے کے پہل کرتے ہوئے کہ میرے آبا پر نہ سوار ہوئے مگر انبیاء

ولما قصر دون قامته الجدار ارتفعت عتباته له واستدار

اور جب کوتاہ ہو گئی آپ کے قدر عتاق کے مقابل مکان کی دیوار تو بلند ہو گئی اس کی چوکھٹیں اور مڑ گئیں اور

وركب الفرس القطوف جهاراً فعاد بعد بحراً لا يجار وصل على

سواری فرمائی چھوٹے قدموں والے گھوڑے پر تو ہو گیا وہ اس کے بعد دریا کی روانی والا جس کی برابری نہیں کی جاسکتی تھی۔ اور صلوٰۃ نازل

سیدنا محمد الذي نحس بعير جابر القطوف بعصاه فما

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے چھڑی سے چوکا دیا حضرت جابر کے کم رفتار اونٹ کو تو کوئی اونٹ

دناہ يعير بعد ذلك ولا قصاه وقال لفرسه قف لا ركع فلم

اس کے قریب نہ پہنچ سکا اس کے بعد اور نہ اسے پیچھے چھوڑ سکا اور آپ نے گھوڑے کو فرمایا رُکے رہنا تاکہ میں نماز پڑھ لوں تو اس نے

تحرك خافراً ولم ترفه حتى ركع وشكى إليه البعير المصروع

اپنا سم بھی نہ ہلایا اور نہ اٹھایا حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور شکایت کی آپ کی خدمت میں زمین پر گرے ہوئے اونٹ

مئابه من البرد والجوع وصل على سيدنا محمد الذي لنا

نے سردی اور بھوک کی اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب آپ

ركب جمار سعيد بن عبادة زال عنه قطافه وما اعتاده وكان

سوار ہوئے سعید بن عبادہ کے کست رفتار گدھے پر تو اس کی کستی اور سابقہ عادت جاتی رہی اور آپ

يوجه يعفوراً الى اصحابه فيقرع الباب برأسه وأنيابه وإذا

بیچتے یعفور کو اپنے صحابہ کرام کی طرف تو وہ ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا اپنے سر اور دانتوں سے اور جب

رأه الداجن في البيت برك وإذا خرج لعب وتحرك وأخبرته

دیکھتا آپ کو گھر کا پالتو جانور تو بیٹھ جاتا اور جب آپ تشریف لے جاتے تو کھیتا اور دوڑتا بھاگتا اور خبر دی آپ کو

الشاة وهو سالك إنما أخذت بغير اذن مالك ولما مس

(مذلوٰجہ مطبوخہ) بکری نے جبکہ آپ جارہے تھے کہ وہ حاصل کی گئی ہے مالک کی اجازت کے بغیر اور جب ہاتھ پھیرا

جَابِرُ بْنُ سُرَّةَ عَادَ رِيحُهُ أَجُودَ مِنْ الْمِسْكِ وَأَعْطَرَهُ وَمَلَأَ

جابر بن سمرہ پر توان کی مہک کستوری سے بھی عمدہ اور زیادہ خوشبودار ہو گئی۔ اور رحمت نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الَّذِي تَقَلَّ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ وَهِيَ رَمْدٌ فَكَانَتْهَا لَمْ تَرْمُدْ

سیدنا محمد پر جنہوں نے لعاب دہن ڈالا حضرت علی کی آنکھ پر جو کہ بیمار تھی تو گویا وہ کبھی بیمار ہوئی ہی نہ تھی

وَسَلَّتْ عَنْ جُرْحٍ عَائِدٍ بِيَدِهِ وَلَمَسَ فَعَادَتْ لَهُ غُرَّةٌ كَقُرَّةِ

اور خون صاف کیا اپنے دست اقدس سے عائد کے زخم جبین سے اور چھو اتو ہو گئی ان کی جبین میں سفیدی مانند

الْفَرَسِ وَتَقَلَّ فِي أَثَرِ سَهْمِ ابْنِي قَتَادَةَ فَمَا أَحْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا

گھوڑے کی سفیدی کے اور لعاب دہن ڈالا ابوقتادہ کے زخم پر تو نہ محسوس کیا انہوں نے در اس کے بعد اور نہ

عَادَ لَهُ وَتَقَلَّ فِي عَيْنِ فُؤَادِيكَ وَهِيَ بِيضَاءُ فَعَادَتْ أَحْسَنَ

لوثا۔ اور لعاب دہن ڈالا فدیہ کی آنکھ پر جو بے نور ہو چکی تھی تو وہ ہو گئی دوسری سے بھی

عَيْنِيهِ وَأَرْضَى وَتَقَلَّ عَلَى سَاقِ ابْنِ الْحَكَمِ يَوْمَ خُنْدُقِ

تو بصورت اور پسندیدہ تر اور لعاب دہن ڈالا ابن الحکم کی پندلی پر خندق کے دن

فَعَادَتْ أَجُودَ مَا كَانَتْ وَأَطْلَقَ وَكَانَ إِذَا اعْتَرَضَتْهُ شَجَرَةٌ فِي الْبَهْنِيِّ

تو وہ پہلے سے عمدہ اور چمکی ہو گئی اور جب تنگ راستہ میں درخت سامنے آتا تو وہ

تَنَحَّتْ لَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ عَيْنَ

آپ کی خاطر راہ سے ہٹ جاتا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا

قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ مَرَّاتٍ فَكَانَ يَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ كَالْبُرَاةِ وَنَزَّوْدَ

قتادہ بن ملحان کی آنکھ پر کئی مرتبہ تو ان کے چہرے میں آئینہ کی مانند اشیاء دیکھی جاتی تھیں اور زاد راہ

بَعْضُ أَصْحَابِهِ مَاءً حَسَنًا فَزَادَ لَهُمْ نَبْدًا طَاهِرًا وَكَبْنَاؤُكُمْ

کے طور پر دیا بعض صحابہ کو اچھا پانی تو زیادہ کیا اس نے انہیں پاکیزہ لکھن اور دودھ کے طور پر

أَسْرَادَ نَحْرِبُدَانَاتِهِ وَابْتَدَأَ كُنَّ يَزِدُّ حَسَنًا عَلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ

اور جب ارادہ فرمایا اپنے اونٹ قربان کرنے کا اور آغاز کیا تو وہ آپ پر ازوحام کرتے تھے کہ اس کے ساتھ

وَكَانَ الْعُشْبُ يَنْبُتُ بَيْنَ يَدَيْ نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَمَاتَتْ بِمَوْتِهِ

آغاز کیا جائے اور سبز گھاس اگتا تھا آپ کی اونٹنی عضباء کے آگے اور وہ مر گئی آپ کے وصال پر

حُزْنَا عَلَيْهِ وَكَرْبًا وَلَمَّا قَدَّغَتْ سَاقُ ابْنِ عَمْرِو صَاحٍ يَا مُحَمَّدُ

رج و کرب کی وجہ سے اور جب سُن ہو گئی حضرت عبداللہ بن عمر کی پنڈلی تو پکارا انہوں نے یا محمد

فَإِنْ جَبَرُ وَكَانَ يَتَّقِلُ فِي أَفْوَاهِ الْمَرَّاضِعِ فَيَجْزِيهِمْ ذَلِكَ إِلَى

تو وہ درست ہو گئی اور آپ لعاب دہن ڈالتے شیر خوار بچوں کے منہ میں تو کفایت کرتا انہیں آپ کا لعاب دہن

الْحُلُولِ فِي الْمَضَاجِعِ وَرَدَّ يَمِينِ مَعْوِذٍ بَعْدَ الْقَطْعِ وَرَدَّ سَاقُ

خوابگا ہوں میں اور آپ نے حضرت معوذ کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنی جگہ درست کر دیا اور ابن اکوع

ابنُ الْأَكْوَعِ بَعْدَ الصَّدْعِ وَمَسَّ لِسَانَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلْنَا

کی پنڈلی کو زخمی ہونے کے بعد درست فرما دیا اور چوسا آپ کی زبان مبارک کو حضرت حسن و حسین نے علائیہ

فَلَمْ يَشْكِيَا عَطْشًا زَمْنَا وَصَلَّى عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا شَكِيَ

تو نہ شکایت کی پیاس کی عرصہ تک۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب شکایت کی ان

إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ الظُّمَاءُ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِعَقِبِهِ فَأَنْفَجَرَ الْمَاءُ وَ

سے جناب ابوطالب نے پیاس کی تو اپنی ایڑی زمین پر ماری پس پانی پھوٹ نکلا اور

كَانَ إِذَا مَشَى عَلَى الْقَتَادِ عَادَ تَحْتَ قَدَمِهِ كَالْبُهَادِ وَرَأَتْ

جب آپ چلتے کانٹوں پر تو ہو جاتے آپ کے قدموں کے نیچے ریشمی بچھونے کی مانند۔ اور دیکھ لی

عَائِشَةُ الْإِبْرَةَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ بِنُورٍ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ وَنَادَى

حضرت صدیقہ نے سوئی رات کی تاریکی میں آپ کے چہرہ مکرم کے نور میں اور آواز دی

عَلَى أُمَّ أَيُّوبَ وَهِيَ مَكْسُورَةٌ فَقَامَتْ تَسْعَى إِلَيْهِ وَهِيَ مَجْبُورَةٌ

ام ایوب کو جب کہ اس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے تو ٹھہری ہوئی دوڑتے ہوئے طرف آپ کے جبکہ تندرست ہو چکی تھی

وَصَلَّى عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ بِشِقِّ خَبِيبٍ بِالسُّحْرِ وَ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے تندرست فرما دیا حضرت خبیب کے سپہو کو ہاتھ پھیر کر اور امان دی

خَائِفَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأَى وَجْهَ قُرَيْشٍ بِالتُّرَابِ فَأَنْهَرَهُمْ

اپنے سے خوفزدہ لوگوں کو فتح مکہ کے دن اور قریش کے مومنوں پر مٹی پھینکی پس وہ بھاگ گئے

بَعْدَ ضَرْبِ الرَّقَابِ وَرَدَّ اللَّهُ الرَّمْلَ تَحْتَ أَقْدَامِ أَصْحَابِهِ

بعض کی گردنیں کٹانے کے بعد اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ریت کو آپ کے صحابہ کے قدموں کے نیچے

صَلْدًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْأَرْجُلُ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ وَلَا تَهْتَدِي وَ

سخت پتھر کی مانند بعد اس کے اس پر قدم نہیں ٹھرتے تھے اور نہ راہ چل سکتے تھے اور

سَكَبَ فَضْلٌ وَضُوءٌ فِي بَيْرِ قُبَا فَتَفَجَّرَ مَا نَهَا بَعْدَ التَّرْعِ وَ

پلٹا بچا ہوا وضو کا پانی بیر قبا میں تو اُبلنے لگا اس کا پانی اور

رَبَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ فِي الطَّعَامِ

بڑھنے لگا خالی ہو جانے کے بعد۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو اپنے ہاتھ مبارک کو کھانے میں رکھتے

وَكَثُرَ عَادَاكَ كَثْرَ مَا كَانَ وَأَوْفَرُ وَحَنَّتْ إِلَيْهِ النَّوْقُ وَإِلَيْهِ الْحِدَاةُ

اور تکبیر کہتے تو وہ پہلے سے زائد اور وافر ہو جاتا اور شوق کا اظہار کیا آپ کی طرف اونٹنیوں نے اور آپ کی طرف عداوت

تَسْوِقٌ وَسَمِعَ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ بِالتَّحْقِيقِ وَهُوَ يُوَادُّ الْعَقِيقَ

نخوان چلاتے تھے اور سنی آپ نے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح قطعی طور پر جب کہ وادی عقیق میں تھے۔

وَيَسْتَسْقِي بِوَجْهِهِ الْغَمَامُ وَكَانَ يُسْتَشْفَى بِمَسِيهِ مِنَ السَّقَامِ

اور بارش طلب کی جاتی تھی بادلوں سے آپ کے چہرہ اقدس کے طفیل اور آپ کے ہاتھ لگانے سے شفا حاصل کی جاتی تھی بیماریوں

وَالْأَلَامِ وَكُلُّ دَابَّةٍ رَكِبَهَا لَمْ تَهْرَمْ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سے اور دردوں سے اور جس سواری پر آپ سوار ہوئے وہ بوڑھی نہ ہوئی اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

غَسَلَ قَدَمَيْهِ بِأَمْلَحِ الْمِيَاهِ فَعَادَا عَذَابَ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَحْلَاهُ وَ

قدم مبارک دھوئے پانی سے تو وہ زمین کے شیریں تر پانیوں سے ہو گیا اور

كَانَ إِذَا فَسَّرَ بِمَنْدِيلٍ يَدَيْهِ لَمْ تَعُدَّ النَّارُ عَلَيْهِ وَكَانَ الذُّبَابُ لَا يَقَعُ عَلَى بَنَانِهِ

آپ جب اپنا ہاتھ مبارک دسترخوان سے پونچھتے تو آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی اور مکھی آپ کے کپڑوں پر بھی نہیں

وَسَمِعَ وَجَنَّةَ الْحَجْرَيْنِ أَلْقَى فِي السَّقَرِ وَسَمِعَ عَوَاءَ الْكُفَّارِ وَهُمْ فِي الدَّرَكِ

بیٹھتی تھی اور سنا آپ نے پتھر کے گرنے کی آواز کو جو جہنم میں پھینکا گیا تھا اور سنی کفار کی چیخ و پکار جب کہ وہ جہنم

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ الْيَهُودَ تُعَذِّبُ فِي

کے پچلے طبقہ میں تھے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے یہود کے عذاب تہور کو سنا

قُبُورِهَا قَبْلَ يَوْمِ نُشُورِهَا وَسَمِعَ صَاحِبَ الْقَبْرِ يَقُولُ عَذِّبْتُ فِي الْغَيْبَةِ

ان کے کھلنے سے پہلے اور قبر والوں کو کہتے سنا کہ میں غیبت اور پیشاب کی وجہ سے

وَالْبُؤْلِ وَسَمِعَ حَرَكَةَ بَابِ الْجَنَّةِ حِينَ حَرَكَةُ الرَّضْوَانِ وَسَمِعَ كَلَامَ النَّارِ

عذاب دیا گیا ہوں اور سن لی جنتوں کے دروازے کی آواز جبکہ ہلایا اسے رضوان نے اور سنا آگ کے کلام

وَالْجَنَّةِ تَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدٍ مَلَأَهَا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور جنت کے کلام کو جن میں سے ہر ایک طلب کرتی تھی اپنا ہر کیا جانا جنوں اور انسانوں کے ساتھ اور رحمت نازل فرما سیدنا

الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مَلَائِكَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيُوقِرُونَهُ فَإِذَا انْشَقَّتْ مِنْهُ

محمد پر جن پر تو نے صلوات بھیجنے کے لیے (اور تو قبر کیلئے) ملائکہ پیدا فرمائے کہ جب زمین قبر آپ پر سے الگ ہوگی

الْأَرْضُ يَقْفُونَهُ لِلْحَشْرِ وَيَقْدُمُونَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ

تو کھڑا کریں گے آپ کو حشر کے لیے اور آگے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمائے

يُحْفُونَ بِقَبْرِهِ وَغَفَرَ اللَّهُ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمُرِهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ

جو آپ کی قبر انور کا احاطے کئے رہتے ہیں اور اللہ بخشتا ہے اسے جو آپ پر درود بھیجے اگرچہ عمر میں ایک مرتبہ واسطے اس قول

وَجَلَّ إِظْهَارُ الْقُدْرَةِ فِي الْعِبَادِ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى

باری تعالیٰ کے آپ کی قدر و منزلت بندوں میں ظاہر کرنے کیلئے بیشک جس ذات نے فرض کیا آپ پر قرآن آپ کو لوٹانے والا ہے

مَعَادٍ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ جَبَلٌ ثَبِيرٌ وَجِرَاءٌ وَلَهَا مِثْرٌ

مقام بازگشت کی طرف اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا کوہ ثبیر و حراء نے اور جب چوڑی

الْكَلْثُومُ فِي نَحْرِهَا فَبَصَقَتْ عَلَيْهَا فَبَرَّتْ وَكَلَّمَتْهُ الشَّاةُ الْمَسْمُومَةُ وَكَانَتْ

کلتوم کو سینہ میں تو آپ نے دم کیا پس وہ فوراً تندرست ہو گئی۔ اور کلام کیا آپ سے زہر آلود بکری نے اور

الْوَحْشُ تَبَدُّا نَاقَتَهُ بِالْكَلَامِ تُخْبِرُهَا أَثْمَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

جنگلی جانور آپ کی اونٹنی کے ساتھ کلام میں پہل کرتے جبکہ اسے خبر دیتے تھے کہ وہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ و

السَّلَامُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَلَمَتْهُ الْغِيَامُ يَوْمَ قَتْمِ مَكَّةَ

السلام کی سواری ہوگی۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر سایہ کیا بادل نے فتح مکہ کے دن ان

تَلْتَبَسُ مِنْهُ الْأَمَانُ وَالْبُرْكَاتُ وَرَاجَفَ الْمُنْبِرُ تَحْتَ أَقْدَامِهَا

سے اتنا س کرتے ہوئے امان و برکت کا اور جھوما منبر شریف آپ کے قدموں کے نیچے

شَوْقًا لِكَلَامِهِ وَإِعْلَامِهِ وَبَثَّ لَهُ الْبُعَيْرُ أَشْوَاقَهُ وَكَانَ يُعْطَى

آپ کے کلام اور تعلیم کے شوق میں اور ظاہر کیا آپ سے اونٹ نے اپنے شوق و ذوق کو اور آپ عطا فرماتے

عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَةً وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بختے مانند اس شخص کے جو فاقہ سے اندیشہ نہ رکھتا ہو۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی خدمت میں

شَكَى إِلَيْهِ الْبُعَيْرُ وَأَعْتَرَفَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ وَقِلَّةِ الْعَلْفِ وَ

اونٹ نے شکایت کی اور اعتراف کیا کام کی کثرت اور چارہ کی کمی کا اور اذن

اسْتَأْذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ أَنْ تَمِيلَ نَحْوَهُ وَتَسْتُرَهُ وَشَرَّهَدًا بِتَصْدِيقِهِ

طلب کیا ان سے درخت نے ان کی طرف مائل ہونے کا اور انہیں چھپانے کا اور گواہی دی آپ کی صداقت کی

تَمْرًا زَادًا وَسَوْيُقَةً وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ صَخْرَةٌ

زادراہ والی کھجوروں اور سنونے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا

بَيْتِ الْمَقْدَسِ حِينَ صَعِدَ عَلَيْهَا وَجَلَسَ وَلَمَّا شَرَدَ لَهُ الْبُعَيْرُ

بیت المقدس کے پتھر نے جب آپ اس پر چڑھے اور تشریف فرما ہوئے اور جب آپ کا اونٹ بھاگا

وَأَنْتَظَرَهُ حَبْسَتُهُ بِحَطَامِهِ الشَّجَرَةُ وَلَمَّا وَضَعَ يَدَهُ بِطَعَامِ

اور آپ نے اس کا انتظار کیا تو روکا اسے درخت نے اس کی مہار کے ساتھ اور جب رکھا اپنے ہاتھ مبارک کو پیالہ

الْجَفْنَةِ وَهُوَ قَلِيلٌ كَانَ النَّاسُ يَتَعَابُونَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ

کے نیل طعام پر تو لوگ کے بعد دیگرے کھانے کے لیے اس پر بیٹھے رہے رات تک۔ اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّأَتْهُ الْبُعِيرُ تَشْكُرًا وَالظَّمَا

رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں اونٹنی آئی پیاس کی شکایت کرتے ہوئے

وَضَرَّهَا فَارَوَاهَا وَادْرُوتُهُ مِنْ ثَدْيِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ لَهَا

اور اس کے ضرر کی تر آپ نے اسے سیراب فرمایا اور اس نے آپ کو اپنے ٹخنوں سے جبکہ قبل ازیں ان

فِيهِ قَطْرَةٌ وَأَشْبَعُ مِائَةً مِّنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مِنْ قَدَحٍ وَوَاحِدٍ

میں قطرہ بھر دودھ نہیں تھا اور سیر فرمایا سواہل الصّفہ کو (دودھ کے) چھوٹے پیالے یا

أَوْ صَفْحَةٍ وَأَشْبَعُ أَرْبَعِمِائَةٍ سِرًّا كَيْبٍ أَوْ نَرَادٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ

بڑے سے اور سیر فرمایا چار سو سواروں کو بلکہ زیادہ کو چار سیر سے

وَأَشْبَعُ ثَمَانِ عِيْلَاتٍ مِّنْ كَيْفٍ مَعْرَ أَوْ شَاةٍ وَأَشْبَعُ جَيْشَهُ

اور سیر فرمایا آٹھ فقراء کو بکری کے شانہ سے اور سیر فرمایا اپنے لشکر کو

بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي آمَنَ عَلَى دُعَائِهِ

ایک صاع کھجوروں سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی دُعا پر آمین کہی

الْجِدَارُ وَحَائِطُ الْبَيْتِ وَالِدَّارُ وَتَقَلَ عَلَى شَجَّةِ ابْنِ أُنَيْسَةَ

دیوار نے اور مکان کی چار دیواری نے اور حویلی نے اور لعاب دہن ڈالا ابن انیسہ کے زخم

فَكَانَ الْبُرْءُ أُنَيْسَةَ وَتَقَلَ عَلَى يَدِ ابْنِ عِقَالٍ وَأَسْرَعَ فَعَادَتْ

پر تو تندرستی اس کی مونس و غمخوار بن گئی۔ اور لعاب دہن ڈالا ابن عقال کے ہاتھ پر اور سرعت سے چل دیے

أَحْسَنَ مَا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تُقَطَعَ وَرَاقِي بَطْنِ صَبِيٍّ تَغْشَى فِذْهَبَ

تو وہ اس سے بھی بہتر ہو گیا جس طرح کٹنے سے قبل تھا اور دم فرمایا بچے کے پیٹ پر جس کو غشی طاری ہوتی تھی تو دور ہو گئی

دَائِهِ مِنَ الْحَشَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَسَّ سَوْطَ عَامِرٍ

اس کی بیماری انتڑیوں سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے چھوا عامر کی چھڑی کو

بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَكَانَ نُورُهُ وَاصِحَ السَّنَا وَلَمَّا مَسَّ الْقِنُوبَيْنَانَ

اپنے دائیں ہاتھ سے تو اس کا نور واضح روشنی والا ہو گیا اور جب کھجور کے خوشہ کو اپنی انگلیوں سے چھوا

أَثَرٌ مِنْ عَامِهِ مِنْ غَيْرِ أَوَائِهِ وَلَمَّا نَضَحَ فِي وَجْهِ زَيْنَبَ الْبِنَاتِ

تو وہ اسی سال پھلدار ہو گیا بغیر موسم کے۔ اور جب پانی کی کلی پھینکی حضرت زینب کے منہ پر

كَانَ يُرَى وَجْهَهَا كَالْبَدْرِ فِي الظُّلُمَاءِ وَلَمْ يَسْ ضَرْعُ شَاةٍ عَجْفًا

تو نظر آتا تھا ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند تاریکی میں اور ہاتھ پھیرا لاغر بکری کے تھنوں پر تو

قَدَّرَ لِبَنَاتِهَا مِنْ حِينِهِ وَوَقَّا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اُتْر آیا اس کا دودھ اسی وقت اور بہت زیادہ ہو گیا۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

تَفَلَّ عَلَى ذِرَاعِ ابْنِ حَاطِبٍ فَكَانَ مَا بِهِ مِنَ الْحَرْقِ كَأَمْسِ

سحاب دہن ڈالا ابن حاطب کی کلائی پر تو اس کی جلن اور سوزش ہو گئی مانند گل گذشتہ کے۔

الذَّاهِبِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ قَصِيرٍ بَيْنَانِهِ فَعَادَ أَطْوَلَ أَقْرَانَهُ

اور ہاتھ پھیرا کوتاہ قامت کے سر پر تو وہ ہو گیا دراز قامت اپنے ہم عمروں سے اور ہاتھ

وَمَسَحَ بِيَدِهِ رَأْسَ الْأَقْرَعِ فَنَبَتَ مِنْ حِينِهِ شَعْرَةٌ وَأَسْرَعُ

پھیرا گتھے کے سر پر تو اُگے اسی وقت بال اس کے اور جلد نمودار ہوئے۔

وَمَسَحَ بَطْنَ عُقْبَةَ بِنِ فَرَقْدٍ فَعَادَ بِرِيحِهِ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ

اور ہاتھ پھیرا عقبہ بن فرقہ کے پیٹ پر تو ہو گئی اس کی خوشبو کستوری سے بھی پاکیزہ اور

وَأَجُودَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَانَ الْحَجَرُ تَحْتَ

عمدہ۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی کہنیوں کے نیچے پھتر

مِرْفَقِيهِ وَكَلِمَتُهُ عَضْبَاءُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَ صَبِيٍّ

نرم ہو گیا اور کلام کیا آپ سے عضباء اونٹنی نے اور سلام پیش کیا اور ہاتھ پھیرا مجنون بچے کے

مَجْنُونٍ فَكَانَتْهُ مَا بِهِ لَمْ يَكُنْ وَرَيْدًا لَهُ سَاعَةٌ فِي النَّهَارِ وَكَانَ

سر پر تو گویا اسے کبھی جنون لاحق ہی نہ ہوا تھا۔ اور زیادہ کی گئی آپ کے لیے ایک ساعت دن میں اور پھرتا

الظِّلُّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ فِي مَكَانٍ وَنَهَضَ

تھا سایہ آپ کے ساتھ جہر بھی آپ پھرتے۔ اور جب کسی مکان میں قضائے حاجت فرماتے اور اٹھتے تو نکل جاتی

تَبْلَعُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَرْضُ وَ تَفْجَرُ مِنْهُ الْإِيْمَانُ وَأُعْطِيَ قَلْبَ

زمین اسے جو برآمد ہوتا اور چشمہ پھوٹا آپ سے ایمان کا اور عطا کیا گیا آپ کو معجزہ قلب

الْأَعْيَانِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَزَنَ يَعْفُورٌ لِمَوْتِهِ وَ

ماہیات کا۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ غمگین اور بے صبر ہوا یغفور آپ کے وصال کی وجہ سے اور

جَزَعٌ وَمَاتَ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَاسْتَسْفَى عَمْرٍ بَعْدَهُ

مر گیا آپ کے وصال شریف کے بعد تیسرے یا چوتھے دن اور باران رحمت طلب کی حضرت عمر نے آپ کے بعد

بِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَدَلَّ الْأَسَدُ بِالْحَقِيقِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ عَلَى

آپ کے چچے حضرت عباس کے توسل سے اور رہنمائی کی قطعی طور پر شیر نے آپ کے صحابی کی

الطَّرِيقِ وَلَمَّا بَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَى الرُّومِ أَصْبَحَ يَتَكَلَّمُ

راستہ کی اور جب بھیجا آپ نے بعض صحابہ کو اہل روم کی طرف تو وہ ان کی زبان میں کلام

بِلِسَانِ الْقَوْمِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيلَ فِيهِ لِكِسْرَى

کرنے لگے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے حق میں کسری سے کہا گیا

فِي النَّوْمِ وَهُوَ فِي غَشَاوَةٍ إِخْلَعُ مَا فِي يَدِكَ لِصَاحِبِ الْهَرَاوَةِ

نیند میں جبکہ وہ حجاب و پردہ میں تھا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ صاحب عصا کے لیے چھوڑ دے

وَخَاطِبُهُ يَعْفُورٌ مَبْتَدِيًّا لَمْ يَطَأْ أَبَايَ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمَّا قَصَرَ

اور آپ سے کلام کیا یغفور نامی گدھے نے پہل کرتے ہوئے نہ سوار ہوا میرے آباء پر کوئی سوائے انبیاء کے اور جب کوتاہ

دُونَ قَامَتِهِ الْجِدَارُ ارْتَفَعَتْ عَتَبَاتُهُ لَهُ وَأَسَدٌ أُرْوِكَ الْفَرَسَ

ہوگئی آپ کے قدر عناق کے مقابل مکان کی دیوار تو بلند ہوگئی اس کی چوٹیں آپ کے لیے اور مڑ گئیں اور سوار ہوئے کوتاہ گام

الْقُطُوفِ جَهَارًا فَعَادَ بَعْدَ بَحْرٍ الْأَيْجَارِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گھوڑے پر تو وہ اس کے بعد دریا کی روانی والا ہو گیا جس کی زقار میں ہمسری نہیں کی جاسکتی تھی۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي نَحَسَ بَعِيرًا بِرِ الْقُطُوفِ بِعَصَاةٍ فَمَا دَنَا لَا يَبْعِدُ

جنہوں نے چھڑی سے چوکا دیا جابر کے سمت زقار اونٹ کو تو کوئی اونٹ اس کے قریب نہ ہوا بعد اس کے

ذَلِكَ وَلَا قِصَاةً وَقَالَ لِفَرَسِهِ قِفْ لِأَرْكِعْ فَلَمْ تَحْرِكْ خَافُوا

اور نہ اس سے بڑھا اور فرمایا اپنے گھوڑے کو تو ٹھہرتا کہ میں نماز پڑھ لوں تو اس نے سم نہ ہلایا

وَلَمْ تَرْفَعْ حَتَّى رَاكَ وَلَمَّا رَكِبَ حِمَارٌ سَعِيدِ بْنِ عَبَادَةَ زَالَ

اور نہ اٹھایا تا آنکہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، اور جب سوار ہوئے سعید بن عبادہ کے گدھے پر تو زائل ہو گئی

عَنْهُ قِطَافَةٌ وَمَا عَتَادَةٌ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس کی سست رفتاری اور سابقہ عادت۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو

كَانَ يُوجِّهُهُ يَعْفُورًا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَقْرَعُ الْبَابَ بِرَأْسِهِ وَأَنْيَابِهِ

بھیجتے تھے یعفور کو اپنے صحابہ کی طرف تو کھٹکھٹاتا تھا ان کے دروازے کو اپنے سر اور دانتوں سے

وَإِذَا رَأَى الدَّاجِنُ فِي الْبَيْتِ بَرَكَ وَإِذَا خَرَجَ لَعَبٌ وَتَحْرُكٌ

اور جب دیکھتا آپ کو پالتو جانور گھر میں تو بیٹھ جاتا اور جب آپ تشریف لے جاتے تو کھیلتا اور جنبش کرتا

وَإِخْبَرْتُهُ الشَّاةُ وَهُوَ سَالِكٌ أَنْهَا اخذتُ بغيرِ إِذْنِ مَالِكِ

اور خبر دی آپ کو بخری نے جب کہ آپ چل رہے تھے کہ اسے حاصل کیا گیا ہے مالک کی اجازت کے بغیر

وَشَكَى إِلَيْهِ الْبَعِيرُ الْمَصْرُوعُ وَمِثَابُهُ مِنَ الْبُرْدِ وَالْجُوعِ وَصَلَّى

اور شکایت کی آپ کی بارگاہ میں گرے ہوئے اونٹ نے سردی اور بھوک کی۔ اور رحمت نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّأَسْ خَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ عَادَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا جابر بن سمرہ کے رخسار پر تو ہو گئی

بِرِيحَةٍ أَجُودَ مِنَ الْمِسْكِ وَأَعْطَرَهُ وَتَقَلَّ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ وَ

اس کی مہک کستوری سے بھی پاکیزہ تر اور زیادہ معطر اور لعاب دہن ڈوال حضرت علی کی آنکھوں میں جو

هِيَ رَمْدٌ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَرْمُدْ إِذَا أَبَدَا وَسَلَّتْ عَنْ جُرْحِ عَائِدِ

کہ بیمار تھی تو گویا وہ کبھی بیمار ہوئی ہی نہ تھی اور پونچھا عائد کے زخم سے خون

بَيِّدَهُ وَلَيْسَ فَعَادَتْ لَهَا غُرَّةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ وَتَقَلَّ فِي

اپنے ہاتھ مبارک سے اور ہاتھ لگایا تو ہو گیا زخمی چہرہ سفید مانند گھوڑے کی سفیدی کے اور لعاب دہن ڈوال

سَهُر أَبِي قَتَادَةَ فَمَا أَحْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا عَادَلَهُ وَتَفَلَّ

ابو قتادہ کے تیر والے زخم میں تو انہوں نے کبھی درد محسوس نہ کیا اور نہ لوطا وہ درد اور لعاب دہن ڈالا

فِي عَيْنِ قُدَيْكٍ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَعَادَتْ أَحْسَنَ عَيْنِيهِ وَأَرْضِي

قدیک کی آنکھ میں جبکہ وہ سفید ہو چکی تھی تو وہ ہو گئی دوسری سے بھی حسین اور پسندیدہ۔

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا شَرِبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَوْلَهُ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب پیا ابن الزبیر نے ان کا پیشاب

وَاحْتَفَلَ وَجَدَاهُ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَعْطَى

اور سیر ہو گئے تو پایا اسے کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیریں اور عطا کیا

الْعَصَا لِعُكَّاشَةَ الْقَانِعِ فَعَادَتْ فِي يَدِهِ سَيْفًا قَاطِعًا وَمَسَحَ

قناعت پیشہ عکاشہ کو عصا (میدان بدر میں) تو وہ ان کے ہاتھ میں نیز دھار تلوار بن گیا اور ہاتھ پھیرا

رَأْسَ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ بِلَا أَرْتِيَابٍ فَمَاتَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَ

عمیر بن سعد کے سر پر بلا ریب تو وہ اسی سال کی عمر میں فوت ہوئے اور

مَا شَابَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرِبَ الصَّرِيرِ بَوْلَهُ

ان کے بال سفید نہ ہوئے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا پیشاب ایک نابینا نے پیا

وَاعْتَدَا فَلَمْ يَشْكِ الصُّرَّ بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَنْهَلَ الْمَزْنَ بِدُعَائِهِ

اور اسے غذا بنایا تو نہ شکایت کی اندھے پن کی اس کے بعد کبھی اور برسوں بادل آپ کی دعا سے

وَاعْتَنَى الْعَفَاةَ بِنَوَالِهِ وَعَطَائِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِخَاتَمِ نُورٍ

اور بے نیاز فرمایا سوالیوں کو اپنے جو دو عطا سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل نور پر نورانی مہر لگائی

وَضَمَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى النَّحُورِ وَالصُّدُورِ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْغَزَالَةُ

اور لگایا انہیں ملائکہ نے اپنے سینوں اور چھاتیوں سے اور سلام پیش کیا انہیں ہرنی نے

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ وَسَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى سَاقِهَا الشَّجَرُ وَسَجَدَتْ لَهُ

اور سلام پیش کیا پتھر نے اور دوڑے ان کی طرف درخت اپنی جڑوں پر اور سجدہ کیا انہیں

اور سلام پیش کیا پتھر نے اور دوڑے ان کی طرف درخت اپنی جڑوں پر اور سجدہ کیا انہیں

الشَّجَرَةَ بِالشَّامِ وَحَيَاةَ اللَّهِ بِالتَّحِيَّةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

درختوں نے سفر شام کے دوران اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تحیہ سلام دیا۔ اور رحمت نازل فرماستیدنا محمد پر

الَّذِي انشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ فَلَقَّتَيْنِ وَاسْتَسْقَى مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ مَا

جن کے لیے چاند دو بخت ہو گیا اور سیراب فرمایا اپنے وضو کے پانی سے

يَزِيدُ عَلَى الْفَيْنِ وَأَخْبَرْتَهُ فَرَسُ النُّعْمَانِ الْبَلْقَانِ مَنْ أَمِنَ بِهِ لَا

دو ہزار سے زائد افراد کو اور عرض کیا آپ سے نعمان کی چٹلی گھوڑی نے کہ آپ پر ایمان لانے والا نہ

يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَدَلَّ الدَّيْبُ عَلَيْهِ الرَّاعِي وَحَرَكَهُ الْمَقْدُومُ عَلَيْهِ

گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت۔ اور بھیڑیٹے نے چرواہے کو آپ کی طرف رہنمائی کی اور آپ کی خدمت میں آنے پر

مِنْ مَكَّةَ وَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْأَسَدَ بِالسَّلَامِ مَعَ سَفِينَةِ الْهَمَامِ

آبادہ کیا مکہ مکرمہ سے۔ اور بھیجا آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے شیر کو ساتھ سلامتی کے بلند ہمت سفینہ کے ہمراہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ أَبُو الْكَلَابِ شَرُّ شَرِّ وَأَخْبَرَهُ

اور رحمت نازل فرماستیدنا محمد پر جن سے کلام کیا گتوں کے باپ شر شر نے اور بتلایا کہ

أَنَّهُ لَيَنْهَشُ فِي النَّاسِ مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَمْرٌ وَكَلَّمَهُ الْمَيْتُ

وہ لوچتا ہے لوگوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سب بکنے والوں کو اور کلام کیا آپ کے مردہ نے

بِلِسَانِهِ وَأُحْيِيَ بَعْدَ مَا أُدْبِرَ فِي الْكَفَانِ وَكَلَّمَهُ الْعُظْمَاءُ الرَّمِيمِ

اپنی زبان کے ساتھ اور زندہ کیا گیا بعد پیٹے جانے کے کفن میں۔ اور آپ نے برسیدہ ہڈی کے ساتھ کلام کیا تو اس نے

فَجَاوَبَهُ بِأَذِنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُوتِيَ

جواب دیا آپ کو اللہ علیم کے اذن سے۔ اور صلوات نازل فرماستیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں لایا گیا

بِعَلَامِ آبِكُمْ فَكَلَّمَهُ مِنْ حِينِهِ فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَهُ الْأَسَدُ وَالثُّعْبَانُ وَ

گوٹکا لٹکا اور اس سے کلام فرمایا تو وہ فوراً بولنے لگا اور آپ سے کلام کیا شیر نے اور اژدہا نے اور

رَأَتْهُ خَدِيجَةُ حِينَ قَدِمَ مَعَ الْعَيْرِ وَمَلَكَانِ يُظَلِّلَانِهِ مِنْ حَرِّ

دیکھا آپ کو حضرت خدیجہ نے جبکہ قافلہ تجارت کے ساتھ لوٹے در آنجا لیکر آپ پر دو فرشتے سایہ کئے ہوئے تھے

الْهَجِيرَةَ وَأَعْطَى لِعَلِيِّ فَصًّا يَنْقُشُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَجَدَا بَعْدَ

دوپہر کی گرمی کی وجہ سے اور عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نگینہ کہ اس میں لا الہ الا اللہ نقش تو پایا

النَّقْشِ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس میں اس کے بعد محمد رسول اللہ (لکھا ہوا) اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

تَقَلَ عَلَى سَاقِ ابْنِ حَكِيمٍ يَوْمَ خَنْدَقٍ فَعَادَتْ أَجُودَ مَا كَانَتْ

لعاب دہن ڈالا ابن حکیم کی پنڈلی پر خندق کے دن تو وہ پہلے سے عمدہ ہو گئی اور اس کا

وَأُطْلِقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ مَرَّاتٍ فَكَانَ يُنْظَرُ فِي

بندھن ٹوٹ گیا اور ہاتھ پھیرا قتادہ بن ملحان کے چہرے پر کئی بار تو ان کے چہرے میں اشیاء دیکھی

وَجْهَهُ كَالْمِرْأَةِ وَتَرَوُودَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مَاءً حَسَنًا فَرَادَ لَهُمْ زَبَدًا

جاتی تھیں مانند آئینہ کے اور زادراہ میں دیا بعض صحابہ کو اچھا پانی تو اس نے زیادہ کیا ان کے لیے

طَاهِرًا وَوَلَبْنَا وَكَانَ الْعُشْبُ يَنْبُتُ بَيْنَ يَدَيْ نَاقَتِهِ الْعُضْبَاءُ

پاکیزہ مکھن اور دودھ اور گھاس اگتا تھا آپ کی اونٹنی عضباء کے آگے۔ اور وہ

وَمَا تَتْ بِمَوْتِهِ حُزْنًا عَلَيْهِ وَكَرْبًا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مر گئی آپ کے وصال پر غم و اندوہ سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي لَبَّأَفْدَا غَتُّ سَاقِ ابْنِ عَمْرِو صَاحٍ يَا مُحَمَّدًا فَانْجَبَرُ وَكَانَ يَنْفُلُ

کہ جب ٹوٹی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی پنڈلی تو انہوں نے پکارا یا محمد تو وہ جڑ گئی اور آپ لعاب دہن

فِي أَفْوَاهِ الْمَرَاضِعِ فَيُجْزِيهِمْ ذَلِكَ إِلَى الْحُلُولِ فِي الْمَضَاجِعِ وَقَصَّ

ڈالتے شیر خوار بچوں کے منہ میں تو وہ کفایت کرتا انہیں بستروں پر لیٹنے تک اور چوسا آپ

لِسَانَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلْنَا فَلَمْ يَشْتِكِيَا عَطْشًا زَمْنَا وَلَمَّا

کی زبان مبارک کو حضرت حسن و حضرت حسین نے علانیہ تو نہ شکایت کی پیاس کی عرصہ تک۔ اور جب

شَكَى إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ الظَّمَاءَ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِعَقِبِهِ فَأَنْفَجَرَ الْمَاءُ

آپ سے شکایت کی جناب ابوطالب نے پیاس کی تو آپ نے ایڑی زمین پر ماری پس پانی پھوٹ نکلا۔

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذَا مَشَى عَلَى الْقَتَادِ عَادَ نَحْتَهُ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو محبوب کانٹوں پر چلتے تو وہ ہو جاتے آپ کے

قَدَمِهِ كَالْفَرَاشِ الْبَهَادِ وَرَأَتْ عَائِشَةُ الْإِبْرَةَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ

قدموں کے نیچے بچھائے ہو بچھونے کی مانند اور دیکھی حضرت عائشہ نے سوئی سخت تاریک رات میں

الْبَهِيمِ بِنُورٍ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ وَنَادَى عَلَى أُمِّ أَبِي أَيُّوبَ وَهِيَ مَكْسُورَةٌ

آپ کے چہرہ نور کے نور میں اور آواز دی آپ نے ام ایوب کو جبکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں

فَقَامَتْ تَسْعَى إِلَيْهِ وَهِيَ مَجْبُورَةٌ وَرَأَتْ يَمِينَهُ مَعُوذًا بَعْدَ الْقَطْعِ

تو وہ اٹھی دوڑتی ہوئی طرف آپ کے در آنجا لیکہ تندرست تھی اور اپنی جگہ پر لگا دیا آپ نے حضرت معوذ کا دایاں ہاتھ کٹنے کے

وَرَأَتْ سَاقَ ابْنِ الْأَكْوَعِ بَعْدَ الصَّدْعِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بعد میدان بدر میں اور لوطانی ابن اکوع کی پنڈلی کٹنے کے بعد اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَبْرَى بِشِقِّ جَيْبٍ بِالْمَسْحِ وَأَمَّنْ خَائِفَهُ يَوْمَ الْقِتْمِ وَرَفَى وَجُوهَ

درست فرمایا جیب کے پہلو کو ہاتھ پھیر کر اور امان دی آپ سے خوفزدگان کو قیتم کے دن اور قریش کے مونہوں

قُرَيْشٍ بِالتُّرَابِ فَانْهَزَمُوا بَعْدَ ضَرْبِ الرَّقَابِ وَرَدَّ اللَّهُ الرَّمْلَ

پر مٹی پھینکی تو وہ شکست کھا گئے بعض کے قتل ہونے کے بعد اور کر دی اللہ نے ریت

تَحْتَ أَقْدَامِ اصْحَابِهِ صُلْدًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ أَرْجُلُهُمْ لَا تَثْبِتُ عَلَيْهِ

آپ کے قدموں کے نیچے سخت پتھر کی مانند بعد اس کے کہ قدم اس پر جتے نہیں تھے

وَلَا تَهْتَدِي وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ

اور نہ راہ چل سکتے تھے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جو اپنا ہاتھ کھانے پر رکھتے اور

وَكَثْرَ عَادَ أَكْثَرُ مَا كَانَ وَأَوْفَرَ وَسَكَبَ فَضْلَ وَضُوءِهِ فِي بَيْرِ قُبَا

اللہ اکبر کہتے تو وہ پہلے سے زائد اور وافر ہو جاتا اور آپ نے پلٹا اپنے وضو کا پانی قبا والے کنوئیں میں

فَتَفَجَّرَ مَا نَهَا بَعْدَ النَّزْعِ وَرَبَا وَحَتَّتْ إِلَيْهِ التُّوقُ وَإِلَيْهِ الْحِدَاكَةُ

تو جوش کے ساتھ نکلنے لگا اس کا پانی خالی ہو چکنے کے بعد اور بڑھ گیا اور تھوق سے مائل ہوئیں آپ کی طرف اونٹنیاں

تَسُوْقٌ وَكَانَ يُسْتَشْفَى بِسَيْسِهِ مِنَ السَّقَامِ وَالْأَلَامِ وَكُلُّ دَجَنَةٍ حَلَبَهَا

اور آپ کی طرف حدی نوحان چلاتے تھے اور آپ کے ہاتھ لگنے سے شفا حاصل ہوتی بیماریوں اور درووں سے اور جس تاریک

لَمْ تَظْلِمُوا وَكُلُّ دَابَّةٍ رَكِبَهَا لَمْ تَهْرَمْ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَسَلَ قَدَيْهِ

رات میں آپ تشریف فرما ہوتے وہ تاریک نہ رہتی اور جس سواری پر سوار ہوتے بڑھی نہ ہوتی۔ اور رحمت نازل فرماتا سیدنا محمد پر جنہوں نے قدم دھوئے

بِأَمْلَحِ الْمِيَاهِ فَعَادَ أَعْدَابُ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَحْلَاهُ وَكَانَ إِذَا سَمِعَ بِمَنْدِيلٍ

انتہائی کھاری پانی کے ساتھ تو وہ زمین کے تمام پانیوں سے بیٹھا اور شیریں ہو گیا اور جب کسی رومال سے

يَدَايِهِ لَمْ تَعُدْ النَّارُ عَلَيْهِ وَوَقَفَ جَبْرَيْلُ بَبَابِهِ وَكَانَ الذُّبَابُ لَا يَقَعُ

ہاتھ پونجھتے تو آگ اس پر تجاوز نہ کرتی اور جبرئیل آپ کے در آقدس پر کھڑے رہتے اور مکھی نہ بیٹھتی تھی

عَلَى بَدَانِهِ وَثِيَابِهِ وَسَمِعَ وَجَنَّةَ الْحَجْرِ حِينَ الْيَقِي فِي السَّفَرِ وَسَمِعَ عَوَاءَ

آپ کے بدن اور کپڑوں پر اور سنا آپ نے پتھر کے گرنے کی آواز کو جبکہ بھینکا گیا جہنم میں اور سنا کفار کا شور و غل

الْكُفَّارِ وَهُمْ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ

جبکہ وہ جہنم کے پچھلے طبقہ میں تھے۔ اور رحمت نازل فرماتا سیدنا محمد پر جنہوں نے سنا

الْيَهُودَ تَعَذِّبُ فِي قُبُورِهَا قَبْلَ يَوْمِ نُشُورِهَا وَسَمِعَ صَاحِبَ الْقَبْرِ

یہود کو عذاب دئے جاتے ہوئے قبروں میں حشر سے قبل اور سنا قبر والے کو

يَقُولُ عَذَابَتْ فِي الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ وَسَمِعَ حَرَكَةَ بَابِ الْجَنَانِ حِينَ حَرَكَةُ

یہ کہتے کہ میں غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوں اور سنی آواز جنت کے دروازے کی جبکہ اسے حرکت

الرِّضْوَانِ وَسَمِعَ كَلَامَ النَّارِ وَالْجَنَّةِ تَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِلَاهَا مِنَ الْإِنْسِ

دی رضوان نے اور سنا دوزخ اور جنت کا کلام جبکہ ہر ایک طلب کر رہی تھی اپنی پری انسانوں

وَالْجِنِّ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ

اور جنوں کے ساتھ۔ اور رحمت کاملہ نازل فرماتا سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ستر ہزار فرشتے

يُحْفُونَ بِقَبْرِهِ وَغَفَرَ اللَّهُ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَرَّةً فِي عَمْرِهِ وَكَانَ

جو آپ کی قبر انور کا طواف کرتے ہیں اور مغفرت فرمائی آپ پر صلوات بھیجنے والے کے لیے اگرچہ عمر بھر ایک مرتبہ بھیجے اور آپ

يَسْمَعُ آذَانَ جِبْرِئِيلَ فِي السَّمَاءِ وَكَانَ يَبْصُرُ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ وَفِي الْعَرَاءِ

سننے تھے جبرئیل علیہ السلام کی آذان آسمان سے۔ اور دیکھتے تھے پیچھے اور آگے کیساں اور سامن ہونے بہرنی کے لیے

لِرِضَاءِ أَوْلَادِهِمْ أَوْفَتْ بِعَهْدِهَا وَمِعَادِهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اولاد کو دودھ پلانے کے لیے تو اس نے پورا کیا اپنا عہد و پیمان۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي نَبَعَ الْمَاءَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَكَانَ يَسْمَعُ صَرِيرَ الْأَقْلَامِ فِي اللَّوْحِ

جن کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹے اور سننے تھے قلموں کے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے لوح

الْمَحْفُوظِ بِسَامِعِهِ وَرَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ الْعَمَى وَأَمَّنْتَ أَسْفَلَ الْبَابِ

محفوظ میں۔ اور لوطانی حضرت قتادہ کی آنکھ بے نور ہونے کے بعد اور امین کسی دروازے کی دہلیز نے

عَلَى دُعَائِهِ وَكَانَ إِذَا رَامَ الْحَدِيثَ أَثْبَتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ سِتْرًا مِّنْ وَرَائِهِ

آپ کی دعا پر اور آپ جب ارادہ فرماتے قضائے حاجت کا تو درخت اور پتھر پر وہ قائم کرتے آپ کے پیچھے

وَأَنْجَحَ النَّاسَ إِرْبًا وَكَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضِّيَاءِ وَجَاءَهُ

اور آپ کامیاب ترین تھے تمام انسانوں سے از روئے حاجت کے اور آپ دیکھتے تھے تاریکی میں جیسے دن کی روشنی میں اور

جِبْرَائِيلُ بِطَبَقٍ مِّنَ الْجَنَّةِ بِالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ وَكَانَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْجَنَّةِ

لئے جبرئیل آپ کے پاس جنت کے طباق میں انگور اور انار اور آپ جنت کا کھانا دنیا میں کھاتے

فِي الدُّنْيَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الزَّرَّاءُ وَأَشْبَعُ الْفَأْمِ

تھے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا (بکری کے بھنے ہوئے) بازو نے اور سیر فرمایا ہزار صحابی کو

صَاعٌ وَكَلَّمَتْهُ النَّاقَةُ الْمُتَوَكِّفَةُ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَسْرُوقَةٍ وَكَلَّمَتْهُ

صاع (چار سیر) سے اور کلام کیا آپ سے بندھی ہوئی اونٹنی نے اور بتلایا کہ وہ چرائی ہوئی نہیں ہے۔ اور کلام کیا آپ سے

الْمَوْودَةُ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مَعْقُودَةٌ فِي الْهَوَاءِ وَجَاءَ بِخُبْرَيْنِ وَاحِدٍ

زندہ درگور کی ہوئی بیچی نے اور بتلایا کہ وہ ہوا میں بندھی ہوئی ہے۔ اور مہیا فرمائی روٹیاں اور بھنا

مَشْوِيٌّ لِأَقْرَبَائِهِ وَحَالَ الصَّفَايِينَةَ وَيُنْ أَعْدَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہوا گوشت اپنے اقرباء کو اور حائل ہوا کہہ صفا آپ کے اور دشمنوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ الْكُفَّارُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کی خاطر کفار

مُعْشِيًا عَلَيْهِمْ فَمَا أَفَاقُوا حَتَّى قُضِيَتْ الصَّلَاةُ وَرَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِ

عشتی کی حالت میں گرے رہے اور ہوش میں نہ آئے یہاں تک کہ آپ کے نماز پوری کر لی گئی اور لوٹے اپنے اہل کی طرف

وَضَرَبَ مَقْتُولًا بِقَضِيْبٍ فَقَامَ وَأَخْبَرَ عَنْ قَاتِلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور مارا ایک مقتول کو چابک سے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا قاتل بتلا دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَتَنَحَّى لَهُ الشَّجَرُ لِضَيْقِ السَّبِيلِ فَيُوسِعُ

فرما سیدنا محمد پر جن کی راہ سے درخت ہٹ جاتے تھے راستہ کی تنگی کی وجہ سے اور راستہ کشادہ

الطَّرِيقِ وَخَرَّتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِإِشَارَتِهِ الْأَصْنَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کر دیتے تھے۔ اور گر پڑے فتح مکہ کے موقع پر بت آپ کے اشارہ کی وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَتْهُ ظَبِيَةٌ فِي سِكَّةٍ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں نداء دی ایک بہرنی نے مدینہ کے کوچوں میں

مِّنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ایک کوچہ میں سے پس کہا فصیح زبان کے ساتھ یا رسول اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِيَمِينِهِ سَمِعَ أَبُو

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے یمن و برکت سے سن لی جناب ابو

سُفْيَانَ قِرَاءَةَ الطُّيُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سفیان نے پرندوں کی یہ قراءت "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ الْفَرَسِ حَالَهُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کا حال بیان کیا گھوڑے نے

لِأَبِي سُفْيَانَ وَرَأَى أَبُو جَهْلٍ عَنْ يَمِينِهِ رَجُلًا وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلًا

ابو سفیان کے سامنے اور دیکھے ابو جہل نے آپ کے دائیں جانب آدمی اور بائیں بھی آدمی

فِي أَيَدِيهِمُ السِّنَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْفَجَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ مِنْ جَحْرِ حَيٍّ بِهِ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ

آل اطہار پر جن کے لیے چشمہ ایل پڑا اس پتھر سے جو آپ کے پاس لایا گیا اور سلام پیش کیا

الْأَحْجَارِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پتھروں نے آپ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْيَىٰ وَالِدَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَشْجَارَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جنہوں نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا اور درختوں نے انہیں سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ رَأْسَ الصَّبِيِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے تندرست فرما دیا بچے کا سر

الَّذِي جَاءَتْ بِهِ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جسے یمامہ کی عورت آپ کی خدمت میں لائی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَتْهُ الثَّمَرَاتُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن سے گزارش کی کہ انہیں

أَنْ يَأْكُلَهَا فِي حَائِطِ أَبِي أَمَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تناول فرما دیں پھلوں نے ابو امامہ کے باغ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَحَوَّلَ بِهِ الْجَدَلُ سَيْفًا فِي يَدِ عَكَاشَةَ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت کھجور کی شاخ تلوار بن گئی عکاشہ بن محسن

بْنِ مُحْصِنٍ وَمَا أَمَاتَ بِهِ مَاءُ عَيْنِ الْيَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے ہاتھ میں اور نہ ختم ہوا آپ کی بدولت یمن کے چشمہ کا پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ بِصَرْفِ كَلِمَةٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے سورج لوٹا یا گیا خیر کے علاقہ

خَيْرٌ وَقَالَ كُلُّ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا صَاحِبَ

صہبائے میں اور فرمایا جنہوں نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ تمام جنت میں داخل ہوں گے ماسوائے

الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مَرُوحِ أَوْنَتِ وَلَدَيْكَ . اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں خیر

أَخْبَرْتَهُ بِالسَّمِّ الدِّرَاعِ وَأَطْعَمَ مِنْ مِدَّةٍ وَاحِدَةٍ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَهُمْ جِيَاعٌ

دی زہر آلود ہونے کی بھری کے بازو لے اور ایک سیر طعام سے چالیس بھوکے آدمیوں کو طعام کھلا کر سیر فرمایا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَآبِدَاتُ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نہ ظاہر

بِهِ حَوَافِرُ الْخَيْلِ وَأَخْفَافُ الْإِبِلِ إِذْ ذَهَبَ إِلَى خَيْبَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہوئے گھوڑوں کے سم اور نہ اونٹوں کے قدم جب تشریف لے گئے خیبر کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا وَجَدَ بِهِ الْحَرَّ وَالْبُرْدَ

فرمایا سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نہ محسوس کی گرمی اور سردی

عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَصَارَ بِهِ غَنِيًّا ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور جن کے طفیل ثعلبہ بن حاطب غنی ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ بِخَيْبَرَ لَا عَطِيبَ فِي الرَّايَةِ غَدًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خیبر میں فرمایا کہ میں ضرور بالضرور کل پرچم

رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح عطا کرے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَ مِنْ عِلِّيِّ بِهِ الرَّمْدُ وَانْمَرَتْ بِهِ النَّخْلَةُ الْيَابِسَةُ فِي

کی آل پر کہ جن کی بدولت زائل ہو گئی حضرت علی کی آنکھوں والی بیماری اور پھلدار ہو گئی مقداد بن الاسود

بَيْتِ مَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نی حشک بھجور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَرَى الْعَرْشَ الْأَعْظَمَ وَإِذْ يَهْجُرُ

آل پر کہ جو آسمان کی طرف دیکھتے تو عرش اعظم تک دیکھتے اور پناہ پکڑی ان کے ساتھ اونٹ نے

سَكَّتْ مِنْ سَكَاتِ الْمَدِينَةِ لِلْقَتْلِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مدینہ کے کوچہ میں قتل سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَهَبَتْ بِهِ عُقُولُ بَنِي كِلَابٍ وَصَارُوا سُفَهَاءَ وَجَاءَهُ

آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت زائل ہو گئے بنو کلاب کے عقل اور ہو گئے بیوقوف اور جن کی خدمت میں لے

جَبْرِئِيلُ بِصُورَةِ عَائِشَةَ فِي خَرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آئے جبریل امین حضرت عائشہ کی صورت کو جو سبز ریشم کے ٹکڑے پر نقش تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رِبِحَ بِهِ فِي التِّجَارَةِ عُرْوَةُ بْنُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت نفع اندوز ہوئے تجارت میں عروہ بن

أَبِي الْجَعْدِ وَصَارَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ بِهِ سَعْدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ابی الجعد اور جن کے طفیل سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ بِفَتْحِ مَوْتِهِ حِينَ بَعَثَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی فتح موتہ کی جبکہ بھیجا

إِلَيْهَا السَّرِيَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کی طرف لشکر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي بَيَّنَّ أَنْ مَوْتَهُ فُتِحَتْ عَلَى يَدِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بَعْدَ مَا أَخَذَ الرَّايَةَ

جنہوں نے غیبی خبر دی کہ موتہ فتح ہوا ہے خالد بن ولید کے ہاتھوں پر بعد ان کے پرچم سنبھالنے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَفَى الْوَلِيدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دور فرمایا آشوبہ

مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَسَجَدَ لَهُ الْغَنَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زید بن ارقم سے اور سجدہ کیا انہیں بھڑوں بھڑوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرُوهُ جُنُودَهُ بِالْمِطْهَرَةِ وَوَجَدَتْ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیراب فرمایا اپنے لشکروں کو وضو کے برتن سے اور ڈھونڈل

عَائِشَةُ بِنُورٍ وَجْهَهُ الْإِبْرَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

حضرت صدیقہ نے ان کے چہرہ انور کے نور سے سوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا يَبْسُ كَلَاءٌ نَبَتْ بِوَضُوئِهِ فِي الصَّيْفِ

آپ کی آل اطہار پر کہ نہ خشک ہوا وہ گھاس جو آگاہ آپ کے وضو والے پانی سے گرمی میں

وَالشِّتَاءِ وَسَنَحَ بِهِ الْحَجَرُ فِي الْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور نہ سردی میں اور تیرے پتھر آپ کی بدولت پانی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ ذَلِكَ الْحَجَرُ وَقَالَ لِعِمْرَانَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی رسالت کی گواہی اس تیرے ولے پتھر نے دی۔ اور فرمایا حضرت عمر کو امیر ہے

سَهِيلاً يَقُومُ فِي مَقَامِ يَسْرُكٍ يَا عِمْرَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ سہیل کھڑا ہوگا ایسے مقام میں جو بچھے خوش کرے گالے عمر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَ الْمَطْرُ بِدُعَائِهِ عَلَى الْمُنْبَرِ وَأَمْسَكَ بِهِ

اور آپ کی آل پر کہ نازل ہوئی بارش ان کی منبر پر کی گئی دُعا سے اور رُک کی آپ کی بدولت

الْمَطْرُ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَطَرَ عَلَى الْأَكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بارش مدینہ والوں سے اور برسی ٹیلوں اور جنگلات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اِمْتَلَأَ بِهِ الظَّرْفُ مِنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت پُر ہو گیا برتن

الْعَسَلِ وَضَمِنَ لِرَجُلٍ بِسَبْعِينَ حُورًا وَكَفَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

شہد سے اور ضامن ہوئے ایک شخص کے لیے ستر حوروں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَامَ فِي الظَّرْفِ بِالْعَسَلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت قائم رہا برتن میں شہد

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ الْجَبَلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور سلام پیش کیا انہیں پہاڑ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَلَّ عَلَى نَاقَتِهِ الْمَفْقُودَةِ فِي غُرُوزِ الْعَسْرَةِ وَبَكَرَ

آل پر جنہوں نے رہنمائی فرمائی اپنی گمشدہ اونٹنی پر غزوة تبوک میں اور بیان فرمایا

أَنَّ نَاقَتَهُ كَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِحِطَامِهَا بِالشَّجَرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کہ کس طرح ان کی اونٹنی کی مہار درخت کے ساتھ اٹکی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ نِصْفُ الْوَسْقِ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت بابرکت ہو گیا آدھا وسق (تیس صاع)

مِنَ الشَّعِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جوہوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَصْرَخَ الْحَمْرَةَ لِلْفَرِيخِ فِي السَّفَرِ وَأَعَاثَ لِلْفَرِيخِ طَائِرًا خَرَّ اللَّهُمَّ

کہ جن کے لیے فرحت کا واضح اظہار کیا کہوتری نے دوران سفر اور امداد مہتیا کی بچوں کیلئے دوسرے پرندے کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا أَمَانَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جنہیں نہ مار سکی

السَّمُّ الَّذِي أَكَلَ بِخَيْبَرٍ وَكَلِمَةُ الْمَدَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

وہ زہر جو خیبر میں کھائی تھی اور جن سے کلام کیا ڈھیلوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَجَدَ لَهُ لِلذَّهَابِ إِلَى قُبَاءٍ بَعِيدٍ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں سجدہ کیا قباء کی طرف جاتے وقت اونٹ نے اور

أَجْرَ نَفْسِهِ فَأَخْرَجَ الدَّلُومَ مِنْ قَعْرِ الْبَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اجیر بنایا اپنے آپ کو پس نکالا ڈول کو کنوئیں کی گہرائی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّ يَدَ الرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَهَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے جوڑ دیا ہاتھ اس شخص کا جس نے اسے کاٹ دیا تھا

لَطِّبَهُ بِالشَّفْرَةِ وَنَزَلَ بِهِ الْمَطَرُ لِعَطَشِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ اللَّهُمَّ

ساتھ چھری کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اور نازل ہوئی بارش ان کے طفیل جیش عسرت کی پیاس بجھانے کیلئے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت برکت دی گئی

بِهِ تَمْرُ جَابِرٍ لِأَدَاءِ دَيْنِ أَبِيهِ وَبُورِكَ بِهِ تَمْرُ جَابِرٍ لِأَدَاءِ الْمَسْلَمِ

حضرت جابر کی بھجوروں میں اپنے باپ کا قرض ادا کرتے وقت اور برکت دی گئی آپ کے طفیل جابر کی بھجوروں میں بیج

فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مسلم میں ادائیگی بدل کیلئے اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت

خَرَجَ بِهِ مِنْ جَوْفِ الصَّيْبِيِّ الْمَجْنُونِ مِثْلَ الْجُرِّ وَالْأَسْوَدِ يَسْعَى وَظَهَرَ

نکلا مجنون بچے کے پیٹ سے کتے کے سیاہ پلے کی مانند جانور دوڑتا ہوا اور ظاہر ہوا

بَيْنَهُ مَلِكٌ عَلَى صُورَةِ أَبِي مُوسَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی برکت سے فرشتہ ابو موسیٰ کی صورت پر اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سَتَكُونُ بِتَبُوكَ عَيْنٌ تَرُوي جَمِيعَ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ عنقریب تبوک میں ایک چشمہ ہوگا جو سیراب کرے گا تمام

الْبَسَاتِينَ وَالْعِمَارَاتِ وَقَالَ لِأَبِي جَهْلٍ إِنَّ فِي يَدِكَ سِتَّ حَصِيَّاتٍ

بانگات اور آبادیوں کو اور فرمایا ابو جہل کو کہ تیرے ہاتھ میں چھ کنسکریاں ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَأَ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت پڑھا

الْحَصَى فِي يَدِ أَبِي جَهْلٍ بِهِ الشَّهَادَتَيْنِ وَهَزَمَ الْعَدَى بِقَبْضَةٍ

کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ شہادت اور شکست دی دشمنوں کو مٹھی بھر

مِّنَ التُّرَابِ يَوْمَ حُنَيْنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مٹی کے ساتھ حنین کے دن اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اِذَا اُخْبِرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِاِتِّْيَانِ هَوَازِنِ

کی آل پر جنہوں نے فرمایا جبکہ آپ کو خبر دی گئی قبیلہ ہوازن کے اپنے ساتھ

بَطْعِهِمْ وَنَعِيمِهِمْ تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ عَدَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

عورتوں اور جانوروں کے لانے کی کہ وہ سبھی غنیمت کا مال ہیں اہل اسلام کے لیے کل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَا زَوْاجَ اَسْرَعُ عَلَيْكَ لِحُوقِ اٰلِ

محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا ازواج مطہرات کو غم سے بہت جلد میرے ساتھ لاتی ہوں میری وہ ہے

اَطْوَلُكُمْ يَدًا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

جو سب لمبے ہاتھوں والی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَتْ كَلَامَهُ شَهْبَاءُ فَالْصَقْتُ بَطْنَهَا بِالْاَرْضِ يَوْمَ حُنَيْنٍ

پر کہ جن کا کلام سنا آپ کے نچرنے تو اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ چمٹا دیا حنین کے دن

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا

لِبُرَيْدَةَ اِنَّكَ تَمُوتُ بِالْمَرِّ وَالَّذِي بَنَاهُ ذُو الْقُرْنَيْنِ اللّٰهُمَّ صَلِّ

حضرت بریدہ کو تو فوت ہو گا اس سفید پتھر کے چبوترے پر جس کو ذوالقرنین نے تعمیر کرایا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ بِهِ

و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت پیدا ہوئے

سَبْعَةُ اَوْلَادٍ دَفَعَهُ لِشَاةٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي تَمِيْمٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سات بچے اچانک بنو تمیم کے ایک شخص کی بکری کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَسْتَدَالِي حَجْرًا فَخَرَقَ

فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے اوٹ لگائی ایک پتھر کے ساتھ تو وہ پھٹ

مِقْدَارَ ظَهْرِهِ الْكَرِيمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

کیا آپ کی پشت مبارک کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَ الْمَطْرُ إِذَا دَعَا لَوْ فِدَا بَنِي قَزَارَةَ وَتَوْضَائِهِ

کی آل پر کہ جن کی بدولت نازل ہوئی بارش جبکہ دعا فرمائی بنو قزارہ کے وفد کے لیے اور وضو کیا

ثُمَّ انُونَ رَجُلًا مِّنْ مَّخْضَبٍ صَغِيرٍ مِّنْ حِجَارَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ

آپ کی برکت سے اسٹی افراد نے پتھر کی چھوٹی سی لگن لے لے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اجْتَمَعَ مِنْ أَجْلِهِ شَجَرَةٌ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی وجہ سے جمع ہو گئے سبز یوں کے

الْبَقْلِ فِي الصَّحْرَاءِ وَبُورَاكَتُ بِهِ هِنْدَا زَوْجَةُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الشِّتَاءِ

پودے صحرا میں اور برکت دی گئی ان کے طفیل ابوسفیان کی زوجہ ہندہ سردی کے بارے میں

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

قَالَ لِوَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ إِنَّ أَبَا سَالِمٍ مَوْلَى شَيْبَةَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ وَ

غیبی خبر کے طور پر فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ اس کا باپ سالم سے شیبہ کا آزاد کردہ غلام لے لے اللہ صلوات و

سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی برکت سے عبد الرحمن

بْنُ عَوْفٍ ذَا الْقَنَا طِيرٍ وَسَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ الْحَصَى اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

بن عوف ہو گئے ڈھیروں دراہم و دنانیر کے مالک اور تسبیح کہی آپ کی سبھیلی میں کنکریوں نے لے لے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَجَدَتْ لَهُ الْأَشْجَارُ وَالْأَجَارُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں سجدہ کیا درختوں اور پتھروں نے

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْهُ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی خدمت میں حاضر ہوئیں

أَفْوَاجُ الْمَلَائِكَةِ لِتَعْلَمَ أَحْكَامَ الدِّينِ وَسَمِعَ فِي النَّوْمِ كَلَامَ النَّاسِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

ملائکہ کی جماعتیں احکام دین سیکھنے کے لیے اور سنا حالت نیند میں لوگوں کا کلام لے لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُرِّئَ بِهِ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی بدولت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا

بُرِّئَ وَقَالَ لِحَبِيَّتِي سَمَوْتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٌ يُكْفِنُكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَكُنَّا

پر ویز کا ملک اور فرمایا ایک جن کو کہ تو عنقریب فوت ہوگا چٹیل زمین میں، تجھے کفن دے گا نیک مرد

عمر ابن عبد العزيز اللهم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تو اسے عمر بن عبد العزیز نے کفن دیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَفَى الْبُرْصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَبَرِّئَ لِرَجُلٍ بِهِ

پر جنہوں نے دور فرمائی برص کی بیماری معاذ بن عفراء سے۔ اور درست ہو گئی آپ کی برکت سے ایک شخص کی

الْإِسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مرض استسقاء۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَصَ تَمْرَ الْبُسْتَانِ فِي غُرُوبَةِ تَبُوكَ وَكَانَتْ نَاقَتُهُ

پر جنہوں نے تخمینہ لگایا باغ کے پھلوں کا غزوة تبوک میں (اور اتنے ہی ہوئے) اور تھی آپ کی اونٹنی

لِدُخُولِهِ الْمَدِينَةَ مَمُورَةً بِالْبُرُوكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مدینہ منورہ میں داخل ہونے پر مامور ساتھ بیٹھ جانے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ ذِرَاعَهُ الْخُرَيْقِ بِرِيقِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے درست فرمادی محمد بن حاطب کی جلی ہوئی کلائی لعاب دہن سے

وَمَا طَارَ طَائِرٌ مِنْ فَوْقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور نہ اڑتے ہوئے گزرا کبھی پرندہ آپ کے اوپر سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ لِلْأَكْلِ عِنْدَهُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جنہوں نے سنی کھانے کے وقت اپنے ہاں طعام کی تسبیح۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُوْرَكَ بِهِ طَعَامٌ أُرْسِلَ إِلَى وَفْدِ كَهْدَانَ

محمد و آل محمد پر جن کے طفیل بابرکت ہو گیا وہ طعام جو بھیجا تھا وفد بہراہ کی طرف

محمد و آل محمد پر جن کے طفیل بابرکت ہو گیا وہ طعام جو بھیجا تھا وفد بہراہ کی طرف

فِي بَيْتِ مَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حضرت مقدا دین اسود کے گھر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَوَى أَهْلَ الصُّفَّةِ بِكَاسٍ مِّنَ اللَّبَنِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جس محبوب نے سیر فرما دیا اہل صفہ کو دودھ کے ایک پیالے سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے طفیل بابرکت ہو گئے

كَسْرَاتُ الْخَيْزْرِ فِي جَرَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ خَمْسًا مِائَةَ رَجُلٍ

روٹی کے ٹکڑے ابو ہریرہ کی زنبیل میں یہاں تک کہ کھایا اس سے پانچ سو آدمی نے

وَلَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِّنَ الْجَرَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور نہ کم ہوئی کوئی شئی اس زنبیل سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سُجِّرَتْ لَهُ الرِّيحُ يَوْمَ الْخُدُقِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے لیے مسخر کر دی گئی آندھی خندق کے دن

حَتَّى أَخَذَ هَابِئِينَ إِصْبَعِيهِ وَخَفِضَ لَهُ الْجَبَلَ رَأْسَهُ حَتَّى صَعِدَا

حتی کہ پھڑا اسے اپنی دو انگلیوں کے درمیان اور پست کر دیا آپ کے لیے پہاڑ نے اپنے سر کو حتی کہ آپ اس پر

عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ

چڑھ گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي هَزَمَ الْأَحْزَابَ لَهُ الرِّيحُ وَالْأَجْرَارُ وَبَكَى عِنْدَهُ لِلْجُوعِ

کہ جن کی بدولت عساکر کفار کو شکست دی آندھی اور پتھروں نے اور رویا ان کے پاس بھوک کی وجہ سے

جَمَلٌ فَتَىٰ مِّنَ الْأَنْصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

انصاری جو ان کا اونٹ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَرَبَ الْكُدْيَةَ فَصَارَتْ كَثِيبًا أَهِيْلًا وَقَالَ عَسَىٰ

آپ کی آل پر جس آقائے گیلیتی سے چٹان کو ضرب لگائی تو وہ بہتی ریت کی مانند ہو گئی اور فرمایا حضرت

أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَدَمِي هَذَا الْمَعَادِ بْنِ جَبَلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

معاذ بن جبل کو امید ہے کہ تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا اس سال کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَعَ الْبُرُوقُ بِضَرْبِهِ الْخَمْرُ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے پتھر پر ضرب لگانے سے بھلیاں چلیں اور نہ پانی آپ کی

وَمَا وَجَدَ بِهِ الْبَرْدُ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بدولت (شدید سردی کے باوجود) ٹھنڈک حذیفہ بن یمان نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَصَفَ الْكُسْرَىٰ الْأَبْيَضَ بِكُسْرَىٰ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے کیفیت بیان فرمائی کسریٰ کے قصرا بیض کی خندق

يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَمَا آذَاهُ الْقُمَّلُ وَالْبَرْعُوثُ وَالْبُقُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے دن اور نہ تکلیف دی انہیں کبھی جوؤل اور کیکڑے اور مچھرنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَطَّ مِنْ أَجْلِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل کیر کھینی

لِلْخَنْدَقِ بِالْإصْبَعِ جَبْرِيْلُ وَكَفَى السِّلْعَةَ مِنْ يَدِ شُرَحْبِيلَ اللَّهُمَّ

خندق کے لیے جبرئیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ساتھ اور دوز فرما دیا شرحبیل کے ہاتھ سے غدود کو اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَسَّعَتْ بِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل وسیع کر دیا گیا

حَجْرَةُ جَابِرٍ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ السَّبَاعُ حِينَ ذَهَبَ مَعَ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ بَنِي

حضرت جابر کا حجرہ اور سلام پیش کیا انہیں دزدوں نے جبکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے بنی عامر

عَامِرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس محبوب نے

أَحْيَى الْكَبْشَ فِي بَيْتِ جَابِرٍ وَزَادَ بِهِ قَبْضَةً مِّنَ الثَّمَرِ لِمُرَاةٍ

میںڈھے کو زندہ فرمایا حضرت جابر کے گھر میں اور جن کی برکت سے بڑھ گئیں ایک عورت

حَتَّىٰ أَعْطَىٰ جَمِيعَ أَهْلِ الْخَنْدَقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کی مٹھی بھر کھجوریں حتیٰ کہ آپ نے عطا فرمائیں تمام اہل خندق کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي شَانِهِ هَيْلٌ يَا أَهْلَ مَكَّةَ

محمد و آل محمد پر جن کی شان میں ہیل بت نے کہا۔ اے اہل مکہ

إِنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ صَادِقٌ يَدْعُوكُمْ مِّنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ اللَّهُمَّ

بیشک محمد سچے نبی ہیں جو تمہیں باطل سے حق کی طرف۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَادَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت زیادہ ہو

بِهِ اللَّحْمُ وَالْعَجِينُ وَأَضَاءُ بِهِ وَجْهَ تَرْيَدُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ أُمُّ

گیا گوشت اور آٹا اور روشن ہو گیا آپ کی بدولت بنت ام سلمہ ام المؤمنین کی بیٹی زینب

الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کا چہرہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَحْيَىٰ ابْنِي جَابِرٌ وَمَا سَقَطَ بِهِ أَسْنَانُ نَابِغَةَ الشَّاعِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ فرمایا اور نہ گریں آپ کی برکت سے نابغہ شاعر کے دانت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مُطِرَ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت غزوہ احزاب میں شکر

بِهِ الشُّكْرُ وَنَزَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِدُعَائِهِ الْبَطْرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

برسی اور برسی حدیبیہ کے دن آپ کی دعا سے بارش۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حُبِسَتْ لَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے لیے روکی گئی خندق کے دن لڑائی اور

بِيضَاءُ وَقَارَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِسَهْمِهِ الْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

تلوار اور اُٹلنے لگا حدیبیہ کے دن آپ کا تیر کنوئیں میں پھینکنے سے پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ حِينَ أُجْلِيَ عَنْهُ الْأَحْزَابُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا جس وقت دور کئے گئے آپ سے کفار کے لشکر اب

نَغْرُوهُمْ وَلَا يَغْرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہم ان کے خلاف حملہ آور ہوں گے اور وہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي فَارَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الْمَاءِ كَمَا مَثَالَ

پر کہ ابلتے لگا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی حدیبیہ کے دن مانند (پانیخ)

الْعَيُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چشموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ لِعَلِيٍّ إِذَا كَتَبَ سَفْرَ الصُّلْحِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ

جنہوں نے فرمایا حضرت علی کو جبکہ انہوں نے لکھا صلح کا معاہدہ حدیبیہ کے دن کہے شک اس واقعہ

الْوَاقِعَةِ سَيُذَرُّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی مانند تجھے بھی پیش آئے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِوَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ انْطَلِقْ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ

آل پر جنہوں نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو تو جا بنو سلیم کی طرف پہلی

فَأَوْلُ جَارِيَةٍ تَسْتَقْبِلُكَ فَهِيَ زَوْجَتُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نوجوان لڑکی جو تجھے ملے گی تو وہ تیری بیوی ہوگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَسْلَمَ بِدُعَايِهِ عُمَرُ بْنُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی دُعا سے حضرت عمر بن الخطاب

الْخَطَّابُ وَكَانَ يَبْعَثُ يَعْفُورًا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَقْرَأُ بِرَأْسِهِ عَلَيْهِمُ

مشرف باسلام ہوئے اور آپ بھیجتے تھے یعفور کو اپنے صحابہ کی طرف تو وہ اپنے سر سے ان کے دروازے

الْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کھٹکھٹاتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي سَمِنَ بِهِ الْعَنَمُ وَأُمْتَلَاتُ ثَدْيُهَا مِنَ اللَّبَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جن کی برکت سے فریب ہو گئیں بھیڑیں اور بھر گئے ان کے تھن دودھ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَ بِهِ مِنْ مَّازِنِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت زائل ہو گئی مازن سے

شُرْبِ الْخَبْرِ وَارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ وَرُزْقِ الْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شراب خوری اور بد اعمالی اور اسے لڑکا عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مَنْ تَشَفَّعَ إِلَيْهِ الضَّبِيُّ بِأَفْصَحِ كَلَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ الضَّبُّ

اس ذات پر کہ شفاعت طلب کی ان سے ہرن نے فیصح کلام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما اس ذات پر جس نے کلام کیا

فِي مَجْلِسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ شَكَى إِلَيْهِ الْبُعِيرُ

سو سمارنے آپ کی مجلس میں بیع صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کی بارگاہ میں اونٹ نے شکایت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَمْصَابِعِ الْمَاءِ التَّمِيرِ اللَّهُمَّ

کی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹا صاف ستھرا پانی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ أَنْشَقَ لَهُ الْقَمَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلِمَتْ عَلَيْهِ الْأَجَارُ

صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کے لیے چاند شق ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جنہیں پتھروں نے سلام پیش کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَشْجَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کے آگے درختوں نے سجدہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر

تَفَتَّتْ مِنْ نُورِهِ إِلَّا زُهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثَّمَارُ

جن کے نور سے کلیاں چٹکیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر جن کی برکت سے پھل پاکیزہ ہو گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ أَحْضَرَتْ مِنْ يَقِيَةِ وَضُوءِهِ الْأَشْجَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر کہ سرسبز و شاداب ہو گئے ان کے وضو کے بچے پانی سے درخت۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا فُشِيَ فِي الْبَرِّ إِلَّا قَفَرَتْ تَعَلَّقَتْ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ اللَّهُمَّ

نازل فرما ان پر جو خشک و بیابان میں چلتے تو جنگلی جانور ان کے داموں سے چمٹ جاتے۔ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا فُشِيَ فِي الْبَرِّ إِلَّا قَفَرَتْ تَعَلَّقَتْ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ اللَّهُمَّ

نازل فرما ان پر جو خشک و بیابان میں چلتے تو جنگلی جانور ان کے داموں سے چمٹ جاتے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلِمَتُهُ نَاقَةُ الْعَضْبَاءِ وَنَهْرُ بَيْتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا ان کی اونٹنی عضباء نے اور جو درود دئے گئے باوصیا

الصَّبَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا رَمِيَتْ كَلْتُمُومٌ فِي نَحْوِهَا

سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب چوٹ لگی کلتوم کو سینہ میں اور

بَصَقَ عَلَيْهِ فَبَرَّاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَتَّى اللَّهُ

آپ نے اس پر لعاب دہن ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کی امت کو اللہ نے

أُمَّتَهُ أُمَّةً مَّرْحُومَةً وَكَلِمَتُهُ الشَّاةُ الْمَسُومَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

امت مرحومہ کا لقب دیا اور کلام کیا ان سے زہر آلود بکری نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْوَحُوشُ تَبْدَأُ نَاقَتَهُ بِالْكَلَامِ مُخْبِرَهَا أَنَّهُ آلهٌ عَلَيْهِ

سیدنا محمد پر کہ جنگلی جانور پیل کرتے تھے کلام کرنے میں آپ کی اونٹنی کے ساتھ، اسے بتلاتے تھے کہ وہ آپ کی سواری ہوگی

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ان پر افضل درود اور پاکیزہ تر سلام ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن پر

ظَلَّتْهُ الْغَمَامُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ تَلْتَمِسُ مِنْهُ الْأَمَانَ وَالْبِرْكَهَ اللَّهُمَّ صَلِّ

بادلوں نے سایہ کیا فتح مکہ کے دن در آنحالیکہ طلب کرتے تھے آپ سے امان اور برکت۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَتَّ لَهُ الْبَعِيرُ أَشْوَاقَهُ وَكَانَ يُعْطَى عَطَاءً

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے سامنے اونٹ نے اپنے ذوق و شوق کا اظہار کیا اور آپ عطا فرماتے تھے

مَنْ لَا يَخْشَى فَاقَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس شخص کی مانند جسے فاقہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن سے

إِسْتَأْذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ أَنْ تَمِيلَ نَحْوَهُ وَتَسْتَرْكُهُ وَشَهِدَتْ بِتَصْدِيقِهِ تَسْبِيحُ

اجازت طلب کی درخت نے آپ کی طرف مائل ہونے اور آپ کو چھپانے کی اور گواہی دی آپ کی صداقت کی زاوہ راہ

الزَّادِ وَسَوِيقُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا اسْتَقْبَلَهُ كَجَرِّ

کی کھجوروں اور ستونے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہیں پیش نہ آیا کوئی پتھر

وَلَا مَدَارُ وَلَا شَجْرًا إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور ڈھیلا اور درخت مگر سلام پیش کیا آپ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِحُرَيْرِ بْنِ فَاتِكٍ إِنَّ هَاتِفَكَ أَوْ فِي بِمَا وَعَدَ

محمد پر جنہوں نے فرمایا حُرَیْمِ بْنِ فَاتِكِ کے لیے کہ تیرے ہاتف نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دیا

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے

قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَ مِنْ مِّصْرَ إِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ فِي مَوْضِعٍ لَبْنَةٍ

فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ نکل جانا مصر سے جب دو شخصوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا کچی اینٹوں والی

يَخْتَصِمَانِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جگہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ الدَّيْبِ شَانَهُ لِمُحْرَمَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ وَالْقَتِ الرَّيْحِ

پر جن کی شان بیان کی بھیڑیے نے محرم اور ابوسفیان کے سامنے اور پہنچائی ہونے

صَوْتُهُ يَوْمَ أَحَدٍ فِي أَذَانِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ

آپ کی آواز غزوہ احد کے دن مہاجرین اور انصار کے کانوں تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُوْرِكَ بِهِ الْخَبُورُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے طفیل برکت دی گئی روٹھوں میں ابو طلحہ انصاری کے

الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ إِنَّ مَنْ جَاءَ أَبُو ذَرٍّ الْغَفَّارِيُّ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

گھر اور فرمایا کہ بیشک جو آ رہا ہے وہ ابو ذر غفاری ہی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارِبَهُ جَمَلٌ رِفَاعَةٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت تیز رفتار ہو گیا رفاعہ کا اونٹ اور

وَأَبْرُ الْكَلْثُومِ بِنْتِ الْحَصِينِ نَحْرَهَا الْجَرِيحُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

درست فرما دیا کَلْثُومِ بِنْتِ الْحَصِينِ کا زخمی سینہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ لَمْ يَجْعَلِ

محمد و آل محمد پر کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو حرکت نہ کرتا جنگلی

الْوَحْشِيُّ وَلَا يَصِيحُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پرندہ اور نہ چیختا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَشَابَهُ الشِّفَا لِلْعَجْوَةِ وَقَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

کی آل پر جن کی بدولت شفا پیدا ہو گئی عجمہ کھجور میں اور فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر

نَصَلُ الْمَاءَ وَقَتَ الضُّحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہم پہنچیں گے پانی پر (کل) چاشت کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَثُرَ بِهِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ مَاءُ الْعَيْنِ

آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت بہت زیادہ ہو گیا اس غزوہ میں چشمہ کا پانی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں

جَاءَهُ جِبْرَائِيلُ بِتَفَاحَةٍ فَجَعَلَهَا اللَّهُ نِصْفَيْنِ فَوَقَعَ النِّصْفُ عَلَىٰ لُوحِ

لائے جبرائیل امین ایک سیب تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو حصوں میں بانٹ دیا ایک حصہ گرا حضرت حسن

الْحُسَيْنِ وَالْآخِرُ عَلَىٰ لُوحِ الْحُسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کی تختی پر اور دوسرا حضرت حسین کی تختی پر رضی اللہ عنہما۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَوَضَّأَ بِيَمِينِهِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ مِائَةً

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی برکت سے وضو کیا چودہ سو آدمی نے وضو کے

مِنْ إِدَاوَةٍ فِيهَا قَطْرَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

بزن سے جس میں ایک قطرہ پانی تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَرَّكَ عَلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ

آل محمد پر جنہوں نے دعائے برکت دی ابوقتادہ کو تو وہ ستر سال کی عمر میں فوت ہوئے

سَنَةً فَكَانَتْهُ ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى مَا اَمَاتَهُ شَيْءٌ الصَّدْرِ وَ

اَسْلَمَتْ بِدُعَائِهِ اُمُّ اَبْنِ بَكْرٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى مَا نَسِيَ عَثْمَانَ بْنَ اَبِي الْعَاصِ

بِهِ الْقُرْآنَ وَرُدِّ بِهِ بَصْرًا اِلَعْنَى حِيْنَ قَرَأَ بِاَمْرٍ الدُّعَاءَ اَللّٰهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى مَا زَالَ

حَشَّ بِنِ عَقِيْلٍ يَجِدُ بِسُوْرَةِ الشَّيْبَةِ وَالرَّوَاةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى اَرَى اَصْحَابَهُ بِبَدْرِ

مَصَارِعِ الْكُفَّارِ وَمَنْ دُعَاةً اُسْكُفَةُ الْبَابِ وَالْجَدَائِرِ اَللّٰهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى هَزَمَ

اَلْاَعْدَاءَ اَعْبَدُ بِرِ اَلْحَصَى وَكَانَ اِذَا جَلَسَ تَكُوْنُ كِتْفُهُ مِنْ كِتْفِ

اعداد کو میدان بدر میں کنگریوں کے ساتھ اور جب آپ محفل میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے کندھے

الْجَلِيسِ اَعْلَى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

ہمنشینوں کے کندھوں سے بلند و بالا ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي اُشْبِعَ بِهِ الْجِيَاعَ وَرَكِبَ بِهِ الْحَفَاةَ وَكَسَىٰ بِهِ الْعُرَاةَ

پر جن کے طفیل بھوکے سیر ہوئے اور سپیدل سوار ہوئے اور برہنہ تن لباس پوش بنے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے لیے

حَبَسَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِيْنَ نَادَاہُ الْاَعْرَابِيُّ لِلصَّلَاةِ

روک دیا گیا سورج نماز ظہر کے وقت میں جب کہ ندا دی انہیں اعرابی نے نماز

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

کے لیے تین مرتبہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ لِمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ بِرَيْفِهِ وَ

پر جنہوں نے جوڑ دیا معاذ بن عفراء کا کٹا ہوا ہاتھ لعاب دہن سے اور

اَظْلَتِ الْحَمَامُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ فَوْقِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

سایہ نقمن ہوئے کبوتر فتح مکہ کے دن آپ کے اوپر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّ بِهِ يَدَ حَبِيبِ بْنِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل جوڑ گیا ہاتھ حبیب بن یسار

يَسَافٍ بَعْدَ الْاِنْقِطَاعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

کاٹ جانے کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَمَلَ بِهِ رَجُلٌ مَّا تَحْمِلُهُ السِّفِينَةُ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ

کی آل پر جن کے طفیل اٹھالیا ایک صحابی نے اتنا بوجھ جسے کشتی اٹھاتی ہے حالانکہ پہلے نہیں طاقت رکھتا تھا ایک

حَمَلَ صَاعٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

صاع (چار سیر) کے اٹھانے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدِ الَّذِي قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا ضَرْبَةٌ سَوِطٌ جِبْرَائِيلُ اخذ برأس

پر جنہوں نے فرمایا بدر کے دن یہ جبرئیل کے چابک کی ضرب ہے وہ اپنے گھوڑے کے سرواے بال

فَرَسِهِ وَعَلَيْهِ إِذَا أَلَا الْحَرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پکڑے ہوئے ہیں اور ان پر آلات جنگ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَتْهُ عَنزُ حَيْنٍ عَطَشَ جَيْشِهِ فَخَلَبَهَا وَأَرَوَى

آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں حاضر ہوئیں بکریاں جبکہ آپ کا لشکر پیاسا تھا تو آپ نے انہیں دوھ کر شکر کو

الْجَيْشِ فَغَابَتْ بَعْدَ الْحَلْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیراب فرما دیا تو وہ دوہے جانے کے بعد غائب ہو گئیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ بِيَمِينِهِ أَنْصَارِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ ضَرْبَةَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے یمن و برکت سے سن لی ایک انصاری نے بدر کے دن چابک کی ضرب

السَّوِطِ وَصَوْتِ فَارِسٍ يَقُولُ أَقْدَمُ حَيْرُومٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور شاہسوار کی آواز جو کتنبے آگے بڑھ لے حیروم (جبرئیل امین کے گھوڑے کا نام)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ أَصْوَاتَ أَفْرَاسِ الْمَلَائِكَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت سنی ملائکہ کے گھوڑوں کی آوازیں کفار و

مِنْ أَجَلِهِ الْأَعْدَاءُ وَكَلِمَةُ الْجَبَلَانِ تُبَيِّرُ وَحِرَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اعداد نے اور کلام کیا ان سے کوہ ثبیر اور کوہ حراء نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى أَعْدَاءَ الْمَلَائِكَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے اعداد نے دیکھا ملائکہ کو جنگوں

فِي الْحُرُوبِ رَاكِبِينَ عَلَى الْأَفْرَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں گھوڑوں پر سواری کی حالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَجَدَتْ بِهِ السَّمْنُ فِي عُنُقِهِ أُمَّ مَالِكٍ وَقَالَ

اور آپ کی آل پر جن کی برکت سے پایا گھی ام مالک نے ڈبہ میں اور فرمایا

لِعَجْوِ بْنِ ابْنِكَ مُعَذِّبٌ فِي الْقَبْرِ مِنْ أَجْلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ایک بڑھیا کو تیرا بیٹا عذاب دیا جائے گا قبر میں تیری وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَشَرَّهَدَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر بن کو سلام پیش کیا ڈھیوں نے اور گواہی دی

لَيْلَةَ الْجِنِّ بِرِسَالَتِهِ الشَّجَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنوں کو تبیغ فرمانے والی رات میں آپ کی رسالت کی درختوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَتْ الْأَرْضُ عَلَيْهِ وَأَذْنَتْهُ الشَّجَرَةُ

اور آل محمد پر جن کی خدمت میں زمین نے سلام پیش کیا اور اطلاع دی آپ کو درخت نے

بِهِجِي الْجِنِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جنوں کی آمد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَكَ بِهِ عَلَى فِي الْأَحْكَامِ وَقَالَ لِأَشْيَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ

محمد پر جن کی بدولت نہ شرک و تردد ہوا حضرت علیؑ کو احکام میں اور فرمایا متفرق درختوں کو میرے لیے

أَسْتُرُونِي فَأَجْتَمَعَتْ لَهُ كَالْقَبَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر وہ بن جاؤ تو وہ قبہ کی مانند جمع ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَدَأَ بِهِ الْقَحْطُ فِي مَضَرَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْوَبْرُ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی حقانیت رسالت کے اطہار کے لیے شروع ہوا قحط قبیلہ مضر میں اور سلام پیش

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَ

کیا آپ کو جنگلی بیلے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل زائل ہو گیا

بِهِ الْقَحْطُ مِنْ مَضَرَ وَحَدَّثَ بِأَيِّمَانِ الْمُنَافِقِينَ قَبْلَ الْحَلْفِ وَأَخْبَرَ

قحط قبیلہ مضر سے اور بیان فرمایا منافقین کی قسموں کو تمہیں اٹھانے سے قبل اور خبر دی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ آنحضرت خیرہ

يَبْرِقُ الْبَصْرُ مِنْ نُورِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہر جاتی تھی آپ کے مہر نبوت کے نور سے جو آپ کے دو کندھوں کے درمیان تھی۔ اسے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْجَى أَبَادُجَانَةَ مِنْ عَامِرِ الدَّائِرِ وَلَا ذِيهِ

محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے نجات دی ابو دجانہ کو گھر میں رہنے والے جن سے اور پناہ حاصل کی

لِلْقَتْلِ جَمَلُ جَمْعٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِسْمِ اللَّهِ بِأَسْمِهِ الْمَبْتَدَى رَبِّ الْأَخِرَةِ وَ

قتل سے ان کے ساتھ انصار کی جماعت کے اونٹ نے۔ اللہ کے نام کی برکت سے۔ اسی کے نام سے جو عمل آغاز ہے وہ مالک ہے

الْأُولَى الَّذِي لَا غَايَةَ لَهُ وَلَا مُنْتَهَى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى

آخرت اور دنیا کا اس کے لیے غایت اور انتہاء نہیں ہے۔ اسی کا ہے جو بلند آسمانوں میں ہے، رحمان غالب آیا

الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ

عرش پر، اسی کے بلک میں ہے ہر شئی آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کی تہ سے

الْثَرَى وَإِنْ يَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ

نیچے ہے۔ اور اگر اونچی بات کر دے (یا نہ) تو یقیناً وہ جانتا ہے پوشیدہ اور مخفی کو۔ اللہ کہ معبود برحق وہی ہے اسی

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ عَظِيمُ الْعُظْمَاءِ دَائِمُ النِّعْمَاءِ قَاهِرُ الْأَعْدَاءِ الرَّحْمَنُ

کے لیے ہیں پاکیزہ نام، اللہ عظیم تمام عظمت والوں سے عظیم ہے۔ دائمی نعمتوں والا۔ دشمنوں پر غالب۔ مخلوق

الْعَاطِفُ عَلَى خَلْقِهِ بِرِزْقِهِ الْمَعْرُوفُ بِلُطْفِهِ الْعَادِلُ فِي حُكْمِهِ

پر غایت رحمت و عنایت والا ہے ساتھ رزق رسانی کے۔ معروف ہے لطف و کرم کے ساتھ عادل ہے حکم میں

الْعَالِمُ فِي مُلْكِهِ رَحِيمًا بِخَلْقِهِ رَحِيمُ الرَّحْمَاءِ عَلَيْهِمُ الْعُلَمَاءُ بِصِيرٍ

عالم ہے ملک میں موجود ہر شئی کا۔ مخلوق پر رحیم ہے سب رحمت والوں سے زیادہ۔ علیم ہے سب اہل علم سے زیادہ سب اہل

الْبَصْرَاءِ غُفُورُ الْغُفْرَاءِ بَاعِثُ الْأَنْبِيَاءِ صَاحِبُ الْأَوْلِيَاءِ سُبْحَانَهُ

بصیرت سے زیادہ بصیر ہے۔ سب اہل مغفرت سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ انبیاء کو بھیجنے والا اولیاء کا ساتھی۔ پاک ہے

قَادِرٌ عَلَى مَنْ يَشَاءُ قَدِيرُهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَمِيدِ ذِي الْعَرْشِ

قدرت والا جو چاہے اس پر کامل مقدس والا ہے۔ پاک ہے شہنشاہ بزرگ جو عظیم عرش کا

الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ هُ يَا رَبِّ الْأَرْبَابِ وَيَا مَالِكَ الرَّزَاقِ

مالک ہے موجود کر لینے والا ہے اپنی مراد کو۔ اے رب الارباب، اے رب الارباب، اے مخلوق کی ذاتوں کے مالک

يَا مُفْتِحَ الْأَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ هِيَ لَنَا سَبِيلاً لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا بِكَ

اے دروازے کھولنے والے۔ اے اسباب بنانے والے مہیا فرما ہمارے لیے وہ سبب کہ نہیں طاقت رکھتے اس کی

طَلِبًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُشْغُولِينَ بِأَمْرِكَ أَمِنِينَ بِعَدْلِكَ إِيْسِينَ

طلب کی۔ اے اللہ ہمیں مشغول فرما اپنے احکام میں۔ امن والا بنا اپنے عدل سے۔ مایوس بنا دے

خَلْقِكَ إِيْسِينَ بِكَ مُسْتَوْحِشِينَ عَنْ غَيْرِكَ رَاضِينَ بِقَضَائِكَ

اپنی مخلوق سے تیرے ساتھ انس حاصل کرنے والے، وحشت محسوس کرنے والے تیرے ماسوا سے۔ راضی تیری قضاء پر

صَابِرِينَ عَلَى بَلَائِكَ قَانِعِينَ لِعَطَائِكَ شَاكِرِينَ لِنِعْمَائِكَ مُتَلَذِّذِينَ

صابر تیری آزمائش پر۔ قناعت کرنے والے تیری عطا پر۔ شکر گزار تیری نعمتوں کے۔ لذت اندوز ہونے والے

بِذِكْرِكَ فَرِحِينَ بِكِتَابِكَ مُنَاجِينَ بِكَ فِي أَنْاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ

تیرے ذکر کے۔ فرحت و مسرت والے تیری کتاب کے ساتھ۔ تیرے ساتھ مناجات کرنیوالے رات کی ہر آن میں اور دن کے اطراف

مُبْغِضِينَ لِلدُّنْيَا وَمُحِبِّينَ لِلْآخِرَةِ مُشْتَاقِينَ إِلَى لِقَائِكَ مُتَوَجِّهِينَ إِلَى

میں بغض رکھنے والے دنیا سے اور محبت رکھنے والے آخرت سے تیری ملاقات کے مشتاق، تیری بارگاہ کی طرف

جَنَابِكَ مُسْتَعِدِّينَ لِلْمَوْتِ رَبَّنَا وَاعْتَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا

متوجہ و راغب، موت کے لیے تیاری کرنے والے اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کی زبان پر اور ہمیں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ يَا مُفْتِحَ الْأَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ

رسوا نہ فرمانا قیامت کے دن۔ بیشک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اے دروازے کھولنے والے۔ اسباب جوڑنے والے

وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ وَيَا غِيَاثَ الْبُتُولِينَ

دلوں اور نظروں میں تبدیلی لانے والے۔ اے حیرت زدگان کو راہ دکھلانے والے۔ اے فریادوں کے فریاد رس

وَيَا مُفْرِجَ الْحَزُونِينَ أَعْثَى تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّي قَضَيْتُ وَفَضَيْتُ

اے غم زدگان کے غم دور کرنے والے میری امداد فرما۔ میں نے تجھی پر بھروسہ کیا اے میرے رب اور میں نے فیصلہ کیا اور سوچنا

أَمْرِي إِلَيْكَ يَا رَازِقُ يَا فَتَّاحُ اللَّهُمَّ أَرِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ تَوْفِنَا

اپنے امور کو تیری طرف سے رازق۔ اے مشکل کشا۔ اے اللہ ہمیں دکھلا دے اشیاء کے حقائق جیسے کہ وہ ہیں۔ ہمیں وفات

مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَ بِالصَّالِحِينَ ۝ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَشَارِكُنَا

دینا حالت اسلام پر اور لائق کرنا صالحین کے ساتھ۔ اور دور فرما ہم سے ظالموں کا شر اور ہمیں شریک فرما

فِي دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَبْتَهُنَا عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ

اہل ایمان کی دعاؤں میں اور ہمیں بیدار فرما اہل غفلت کی نیند سے اور ہمیں نصیب فرما سید المرسلین

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَادْخُلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ أَمِينِينَ وَأَحْشِرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ

کی شفاعت اور داخل فرما ہمیں جنت میں سلامتی کے ساتھ حالت امن میں اور ہمارا حشر فرما مہتممین کے ساتھ

وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ اللَّهُمَّ إِنْ تَرَحَّمْتَنِي فَأَنْتَ أَهْلٌ وَإِنْ

اور ہمیں خلاصی دے آگ سے اے پناہ دینے والے۔ اے اللہ اگر مجھ پر رحم فرمائے تو تو اس کا اہل ہے۔ اور اگر

تُعَذِّبْنِي فَأَنَا أَهْلٌ فَارْحَمْنِي يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ

مجھے عذاب دے تو میں اس کے لائق ہوں پس مجھ پر رحم فرما اے تقویٰ اور اے مغفرت کی شان والے۔

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاجْلًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَ

اے اللہ، اے میرے رب کرنا ساتھ میرے اور ان کے جلدی میں اور تاخیر سے دین میں اور دنیا اور

الْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَئِخُنَ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ

آخرت میں جس کا تو اہل ہے اور نہ کرنا ساتھ ہمارے اے مولیٰ جس کے ہم حقدار ہیں۔ اے شک تو

عَفُوٌّ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ قَدِيمٌ كَرِيمٌ فَلَكَ بَرٌّ رَوْفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ اهْدِنِي

درگزر والا۔ بہت مغفرت والا۔ بردباری والا۔ صاحب جود و کرم۔ اے ابتداء، صاحب کرم، شہنشاہ محسن، مہربان، رحم والا ہے اے اللہ مجھے

بِرَأْفَتِكَ يَا نَافِعٌ وَيَا رَافِعٌ تَوْفِنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنَ بِالصَّالِحِينَ يَا

ہدایت دے اپنی عنایت سے۔ اے نافع۔ اے بندی بخشنے والے مجھے وفات دینا حالت اسلام میں اور لائق فرمانا صالحین کے ساتھ اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

ارحم الراحمین۔ اے سب اہل مغفرت سے برتر ساتھ اپنی رحمت کے۔ اے سب زیادہ رحمت والے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت

لِجَابِرٍ إِذْ هَبَّ مَعَهُ هَذَا الْجَمَلُ فَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَخْرَجَ رَجُلٌ قَبْرَ

جابر رضی اللہ عنہ کو اس اونٹ کے ساتھ جاؤ وہ تمہاری رہبری کرے گا اپنے مالک کی طرف۔ اور نکالا گیا ایک شخص

كُلِّ أَرْضٍ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہر زمین سے آپ کی وجہ سے یعنی قبر سے باہر پھینک دیا جاتا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی

مَا أَصَابَ بِهِ الْقَحْطُ بَنِي الْبَكَاءِ وَنَادَتْهُ طَبِيبَةٌ إِصْطَادَهَا عَرَابِيٌّ يَا رَسُولَ

بدولت قحط نہ پہنچا بنی البکاء کو اور پکارا آپ کو ہرنی نے جسے اعرابی نے شکار کیا تھا جنگل سے

اللَّهُ فِي الصَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یا رسول اللہ۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي ضَمِنَ الْغَزَالَ لِإِرْضَاعِ حَشْفِيهَا فَوَفَّتْ بِالْوَعْدِ وَالْبَيْعَادِ وَصَارَ بِهِ

جو کہ ضمان ہوئے ہرنی کے لیے دو بچوں کو دودھ پلانے کیلئے تو اس نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا اور بن گئیں آپ کی

الْغُصُونُ سَهَامًا فِي الْجِهَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بدولت شاخیں تیر جہاد کے موقع پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرِهَدَ بِرِسَالَتِهِ الْأَوْثَانَ الَّتِي جَاءَ بِهَا أَهْلُ الْبَيْتِ

کی آل پر جن کی رسالت کی گواہی دی ان بتوں نے جنہیں اہل بیت لائے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے بھیجا

الزَّادَ إِلَى وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّسِيَّانِ وَجَاءَ إِلَيْهِ جَنِّيٌّ فِي صُورَةِ الثَّعْبَانِ

سفر خراج اہل نسیان میں سے ایک کی طرف اور حاضر ہوا ایک جن آپ کی خدمت میں آڑوہا کی صورت میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت اُبلتے لگا

مِنَ الْحَجَرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِهَذَا الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَفَاحَتْ بِرِيقِهِ الْبِيرُ اللَّهُمَّ

پتھر سے غزوة تبوک میں بہت پانی اور ملک اٹھا آپ کے لعاب دہن سے کنواں - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَتُقَسَمَنَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ ہر حال میں تقسیم کئے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنُوزَ قَيْصَرَ وَأَنْبَاءَ عَنْ وَقُوعِ نَارِ الْحِجَازِ وَأَخْبِرَ اللَّهُمَّ صَلِّ

جائیں گے قیصر و روم کے خزانہ راہ خداوند تعالیٰ میں - اور خبر دی آپ نے حجاز مقدس میں وقوع پذیر آگ کے متعلق - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَقَصَ بِهِ تَمْرٌ

و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نرم ہوئیں بھجوریں

بُسْتَانِ ابْنِ أُسَيْدٍ بَعْدَ الْإِتِّقَاصِ وَبَقِيَ بِهِ الرَّعْشُ وَالْعُوجُ لِحَكْمِ بْنِ أَبِي

ابو اسید کے باغ کی بعد کمی واقع ہو چکنے کے - اور آپ کی وجہ سے باقی رہا رعشہ اور کجی حکم بن ابی

الْعَاصِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

العاص میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو کہ

كَانَ إِذَا أَرَادَ رُكُوبَ دَابَّةٍ تَبْرُكُ وَتَهَيَّأُ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سواری پر سوار ہونے کا ارادہ فرماتے تو وہ بیٹھ جاتی اور تیار ہوتی ان کے لیے - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْلَحَ الْيَدَ الْيَابِسَةَ لِلجَارِيَةِ وَهَاشِبِ

محمد و آل محمد پر جنہوں نے درست فرما دیا لوندی کا خشک ہاتھ اور نہ سیر ہونے آجکے فرمان کی وجہ

بِهِ مُعَاوِيَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سے امیر معاویہ - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي جَاءَهُ جَبْرِيْلُ بِأَرْبَعِ تَفَاحَاتٍ هَدِيَّةً لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ

جن کی خدمت میں جبرئیل امین چار سیب لائے خلفاء راشدین کے لیے ہدیہ کے طور پر - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَتْ ثَلَاثَ بَيضَاتٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی وجہ سے بابرکت ہو گئے تین انڈے

بِيَمِينِهِ وَكَانَ يُكَلِّمُهُ كُلُّ طَائِفٍ فَيُجِيبُهُ بِلِسَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آپ سے ہر پرندہ کلام کرتا تھا پس اسے جواب دیتے تھے اس کی زبان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَضَرَتْ بِهِ الْجَفْنَةُ الْمَكْلُكَةُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت حاضر کیا گیا بڑا پیالہ جو موتیوں سے مرصع تھا

بِالْجَوَاهِرِ الْمَمْلُوءَةِ مِنَ الثَّرِيدِ لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور بھرا ہوا تھا ثرید سے واسطے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقَامَ عَمَّهُ الْمَرِيضُ أَبَا طَالِبٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے اپنے مریض چچے ابوطالب صاحب کو کھڑا کر دیا

بِالدُّعَاءِ وَذَهَبَ بِكِتَابِهِ جَبْرِيْلُ إِلَىٰ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ بِالْحَبَشَةِ وَجَاءَهُ بِالْجَوَابِ

اپنی دعا سے اور لے گئے آپ کے خط کو جبریل امین جعفر طیار کی طرف حبشہ میں اور جواب لائے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْبَعَهُ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیر فرمایا اپنے

جَيْشَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِبَيْضِ عَشْرَةِ تَمْرَةٍ وَأَشْبَعَهُ الْجَيْشُ كُلَّهُمْ بِتَمْرٍ مَزُودٍ

شکر کو غزوۂ تبوک میں پندرہ سولہ کھجوروں سے اور سیر فرمایا تمام لشکر کو ابوہریرہ کے توشہ دان

أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کی کھجوروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت

قَامَ بِهِ الشَّرُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَزُودِ وَأَمْرَسَارِقَ نَاقَةٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهَا

دیر پا ہو گئیں کھجوری ابوہریرہ کے توشہ دان میں اور حکم دیا اونٹنی چورانے والے کو جس نے حلف اٹھائی کہ اس نے

لَمْ يَسْرِقْهَا بِالرَّدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسے نہیں چرایا اسے لوٹا دینے کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي دَسَّرَ لِلشَّاةِ اللَّيْنِ لِمُقْدَادِ الْأَسْوَدِ وَدَعَا عَلَىٰ رَجُلٍ قَطَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ

جن کی برکت سے ازاجبری کا دودھ مقداد بن الاسود کے لیے اور دعا فرمائی اس شخص کے خلاف جس نے آپ کی نماز قطع کی تھی

فَمَا قَامَ حَتَّى مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پس وہ تادم مرگ نہ اٹھ سکا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَعٌ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الْبَاءِ فِي الزُّورِ أَوْ وَحَلَبَ ظُبِيَّةَ فَا رَوَى

پیرجن کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چھتے اُبلے مقام زور اور ہرنی کا دودھ نکال کر سیراب فرمایا

ثَلَاثَ مِائَةِ رَجُلٍ مِّنَ الرَّفَقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تین سو رفقاء سفر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَشَّرَ قَاتِلَ

آل محمد پر جنہوں نے فرمایا عبد اللہ بن عمرو کو کہ بشارت دینا عمار بن یاسر کے

عَمَّارٍ بِالسَّعِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

قاتل کو آتش دوزخ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَأَ الْحَجْرَ الَّذِي حَمَلَ مَعَهُ لِأَنَّ اللَّهَ فَحَمَّدٌ رَسُولُ

پر کہ پڑھا اس پتھر نے جو لیلۃ الجن میں ساتھ اٹھا رکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللَّهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ حِينَ رَجَعَ وَأَبْرَأَ سَاقِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اللَّهُمَّ

جبکہ واپس ہوئے اور درست فرمائی سلمہ بن رکوع کی پینڈلی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ بِنِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے حکم سے قلم نے لکھا

كَاتِبٍ بِأَمْرِهِ الْقَلَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بغیر کاتب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَهُ حَجْرٌ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَجْرِهِمْ

پر کہ جن سے درخواست کی پتھر نے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پتھروں سے نہ بنائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَعَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اٹھارہ جنہوں نے جوتا

التَّعْلَةَ فِي اثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَتَرَادِي فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَضَّلَ أَزْوَادَ الْغَزَاةِ اللَّهُمَّ

آتا رویا نماز کے دوران اور بڑھا دیا غزوة تبوک میں غازیوں کا بیجا کھجا زاد راہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَادَ بِهِ مَاءَ بَيْرُتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت بڑھ گیا نبیوں کے منویں

بَنِي سَعْدٍ وَمَا نَقَصَ بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمِرَادَاتَيْنِ بِالْإِمْرَاقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کاپانی اور نہ کم ہوا آپ کی برکت سے بڑھیا کی دو بڑی مشکوں کا پانی ان سے پلٹنے کے باوجود۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَتْهُ صَخْرَةٌ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن سے کلام کیا بیت المقدس

بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَأَخْضَرَتْ حَتَّى جَبِينِهِ الْكَلَاءُ الْيَابِسُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے پتھرنے اور سرسبز ہو گیا آپ کی جبین اقدس کے نیچے خشک گھاس۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَرَحَهُ كَلْدَةٌ فَأَعْلَبَتْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں کلدہ نے زخمی کیا پس ہرنی نے

الطَّبِيهَ بِذَلِكَ حَمْرَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ وَأَثْمَرَتْ بِهِ لِحْمَزَةُ أَشْجَارِ الصَّحْرَاءِ

اس کی اطلاع دی حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو اور پھلدار ہو گئے آپ کی برکت سے حضرت حمزہ کیلئے صحراء کے درخت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَارَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جب بدولت اڑ کر پہنچے

بِهِ التَّمْرُ لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَعَذِبَ لِبَيْرِ أَرِيْسٍ بِهِ الْمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

چھو ہمارے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس اور شیریں ہو گیا بیسرا ریس کا پانی آپ کی برکت سے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْفَلَقَ بِهِ الْبَحْرُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل پھٹ گیا سمندر

لِجَعْفَرِ الطَّيَّارِ وَرَفَّقَ آتَهُ حَتَّى ظَهَرَ لَهُمْ طَرِيقُ يَابِسٍ فِي اثْنَاءِ الْبَحْرِ

حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے لیے حتی کہ نمودار ہو گیا ان کے لیے خشک راستہ سمندر کے درمیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی شان میں

الْعَجَلُ فِي شَأْنِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجَنَازَةَ عَلَى النَّجَاشِيِّ يَوْمَ

بچھڑے نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کلام کیا۔ اور نماز جنازہ پڑھی نجاشی پر جس دن

مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس کا انتقال ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی

سَمِعَ عُمَرُ خَبْرَهُ مِنَ الصَّنَمِ وَسَمِعَ عُمَرُ نَبَأَهُ مِنَ الْغَنَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خبر حضرت عمر نے بت کی زبانی سنی اور ان کی خبر حضرت عمر نے بھیڑوں کی زبانی سنی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُبِّقَ بِهِ الشَّهَادَةُ نَعْمَانُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نعمان بن مقرن کو

بْنُ مَقْرِنٍ وَكَلِمَةٌ فِي بَيْتِهِ الدَّاجِنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شہادت کی سعادت ملی اور کلام کیا ان سے پالتو بکری نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَجَدَ بُنُورَهُ الْإِبْرَةَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ ڈھونڈ لی جن کے نور انوار کے سبب سلمان فارسی نے گم شدہ سوئی اور

جَاءَتْ لِدَاعُوتِهِ السَّلْمَةُ إِلَيْهِ وَشَرَّهَاتُ بِرَسَالَتِهِ لَطَلِبِ الْأَعْرَابِيِّ

آپ کے بلانے پر بیکر کا درخت حاضر خدمت ہوا اور رسالت کی گواہی دی ایک اعرابی کے مطالبہ پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی خدمت

جَاءَتْ إِلَيْهِ شَجَرَةُ لَطَلِبِ الْأَعْرَابِيِّ أَخْرَفَتْ قَبْلَ يَدَيْهِ وَرَجُلِيَهُ اللَّهُمَّ

میں حاضر ہوا درخت دوسرے اعرابی کے مطالبہ پر تو اس نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت نہ

أُحْتَرَقَ مِنْ دَيْلِهِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ أَنَسٍ وَمَا وَقَعَ بِهِ جَرِيرٌ عَنِ

جلد ان کا رومال جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور نہ گریے آپ کے طفیل حضرت جریر اپنے

الْفَرَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

گھوڑے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدِ الَّذِي أُتِيَ بِصِيٍّ قَدَّ شَبَّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ فَقَالَ لَهُ مَنْ

کہ جن کی خدمت میں لایا گیا ایک بچا جو بلوغت کے قریب تھا اور ابھی کلام نہیں کی تھی تو آپ نے فرمایا میں

هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کون ہوں تو اس نے کہا اللہ کے رسول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَى حَالٍ يُبَاشِرُهُ أَحَدٌ يُنْسَبُ إِلَى

آپ کی آل پر جو تھے اس شان کے مالک کہ جو بھی دراز قامت شخص آپ کے ساتھ مل کر چلتا

الطُّولِ الْأَعْلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تو آپ اس سے بلند و بالا معلوم ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي قَالَ لِعَلِيٍّ إِنَّكَ لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَصِيرَ أَمِيرًا

کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ تم ہرگز فوت نہیں ہو گے یہاں تک کہ امیر المؤمنین بنو گے

وَرَأَى فَوْقَ رَأْسِهِ أَبُو جَهْلٍ تُعْبَانًا كَبِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور دیکھا ابو جہل نے آپ کے سر اقدس پر بہت بڑا اڑوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي أَخَذَ رَأْيَتَهُ يَوْمَ أَحَدٍ مَلِكٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کا پرچم پکڑا احد کے دن ایک فرشتے نے

عَلَى صُورَةِ مُصْعَبِ بْنِ عَمِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی صورت پر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي نَبَأَ بِأَنَّ الزُّبَيْرَ يَنْدِمُ مِنْ حَرْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

آپ کی آل پر جنہوں نے بتلایا کہ حضرت زبیر نام ہوں گے حضرت علی بن ابی طالب کی رضی اللہ عنہ کے خلاف

طَالِبٍ وَأَطْعَمَ مِنَ الْبُرَادِ ثَمَانِ مِائَةِ رَاكِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنگ سے اور کھلایا آپ نے توشہ دان سے آٹھ سو سواروں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمْتَهُ النَّاقَةُ فِي صَاحِبِهَا

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن سے کلام کیا اونٹنی نے اپنے مالک کے بارے میں

فَقَالَتْ إِنَّهُ مَا سَرَقْتَنِي وَلَا مَلَكَتَنِي أَحَدٌ سِوَاهُ وَرَفَعَ مِنْ أَجْلِهِ أَبُو جَهْلٍ

پس اس نے کہا کہ اس نے مجھے نہیں چرایا اور نہ کوئی مالک ہوا میرا اس کے سوا اور اٹھایا ابو جہل نے ان پر

جَرَّافِيَسْتُ يَدَاةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پھرتو آپ کی وجہ سے اس کے ہاتھ خشک ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ لِأَبِي جَهْلٍ يَدَيْهِ الْيَابِسَتَيْنِ وَجَاءَ جَبْرِيلُ بِتَفَاحَةٍ

پر جنہوں نے ابو جہل لعین کے دونوں خشک ہاتھ درست فرمادئے اور لائے جبریل ابن ایک سیب

لِتَصَارِعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی کشتی کے موقع پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَى الصَّحَابَةَ فِي يَدَيْهِ تُرَابٌ مَضْجَعِ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے صحابہ کرام کو دکھلانی اپنے ہاتھ میں مٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی

الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ الرِّضْوَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

شہادت والی جگہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا دَوْسَ وَثَقِيفَ فَبَاءَ وَأَمْعَرَفِينَ لَهُ

آل محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی قبیلہ دوس اور ثقیف کے لیے تو وہ حاضر خدمت ہوئے آپ کے لیے ایمان

بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تصدیق کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَعْطَىٰ أُمَّ سَلْمَةَ تَرَابًا مِنْ مَّقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ إِنَّ هَذَا

جنہوں نے عطا کی حضرت اُم سلمہ کو مقتل حسین کی مٹی اور فرمایا جب یہ مٹی

التُّرَابَ إِذَا صَارَ دَمًا فَأَعْلَىٰ ۗ إِنَّهُ قَدْ قُتِلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

خون بن جائے تو یقین کرنا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا امْتَشَىٰ عَلَىٰ التُّرَابِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب ریت پر چلتے تو وہ

كَانَ بَيْنَهُمْ وَيَبِينُهُ حَائِلٌ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آپ کے اور دشمنوں کے درمیان حائل ہو جاتی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ تَخْرُجُ لِلْجِهَادِ وَتَمُوتُ بِالْحُمَىٰ لِذِي

آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا فوج بجاوین کو کہ تو جہاد کے لیے نکلے گا اور تپ کے مارضہ میں

الْبَجَادِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وفات پائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي إِذْ دَلَقْتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْبَدَنَاتِ وَقْتُ التَّحْرِالِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ بھیڑ کرنے لگے قربانی کے تمام اونٹ تشریاتی کے وقت ان کے پاس۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ صَوْتَ مَلِكٍ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سنی فرشتے کی آواز بادل میں سے

السَّحَابِ يَقُولُ اسْقِ حَديقَةَ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ سیراب کر فُلاں بن فُلاں کے باغ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَهُ الْكَعْبَةَ عِنْدَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے سامنے کر دیا گیا کعبہ شریف

بِنَاءِ مَسْجِدِهِ وَرَأَىٰ أَبُو جَهْلٍ بَعِيدًا فَوْقَ رَأْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مسجد مدینہ کی تعمیر کے وقت۔ اور دیکھا ابو جہل نے اونٹ کو (محاظت کرتے) آپ کے سر پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ كَفَّهُ عَلَىٰ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے رکھی اپنی ہتھیلی عمیرہ

كَبِدَ عَمِيرَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ فَمَا زَالَتْ تَجِدُ عَلِيَّ كَبِدَهَا بَرْدِيْدَةً

بنت سہل انصاری کے جگر پر تو وہ ہمیشہ اپنے جگر پر آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک محسوس کرتی رہی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے جوڑ دیا

الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ لِابْنِ عَقَالٍ وَأَخْفَى بِهِ خَيْرَةً عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ حَتَّى فَتَحَهَا

ابن عقال کے کئے ہوئے ہاتھ کو اور مخفی رکھی گئی ان کی حالت اہل مکہ سے (حملہ آوری کے دوران) حتیٰ کہ فتح کیا اس

بِغَيْرِ قِتَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو بغیر جنگ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي كَلَّمَ الصَّنَمَ بَيْنَهُ عِكْرَمَةَ وَكَانَ يَرَى مَا وَرَاءَ الْجَبَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جن کی برکت سے کلام کیا بت نے عکرمہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے تھے پہاڑ کے پیچھے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَرَّ لَشَاةَ أَنْسٍ بِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت انس کی بکری کا دودھ

اللَّبَنُ وَكَلَبَهُ الْبَيْتُ بَعْدَ مَا أُدْرِجَ فِي الْكَفَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اترا۔ اور کلام کیا آپ سے میت نے کفن دئے جانے کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَاتَ بِهِ الْفَرَسُ الَّذِي

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے مر گیا وہ گھوڑا جو آپ نے

اشْتَرَاهُ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَأَنْكَرَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الظِّلُّ فِي الشَّمْسِ وَلَا فِي الْقَمَرِ

اعرابی سے خریدا پس اس نے اس سوڑے کا انکار کر دیا اور نہیں تھا آپ کے لیے سایہ نہ دھوپ میں اور نہ چاند کی چاندنی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے لیے

انْقَادَتْ كَالْبَعِيرِ الْبَحْشُوشِ مَعَهُ الشَّجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي اللَّهُمَّ

اطاعت کی بھیل والے اونٹ کی مانند دو درختوں نے جو وادی کے کنارے پر تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جنہوں نے فرمایا

لِعَلِّيَّ إِنَّ حَقْدَكَ فِي صُدُورِ قَوْمٍ لَا يُظْهِرُونَ إِلَّا بَعْدِي اللَّهُمَّ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے ساتھ ایک گروہ کے سینوں میں کینہ ہے جس کو وہ میرے بعد ہی ظاہر کریں گے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْبَهَ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیر فرمایا

مِائَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا بِصَاعٍ مِّنْ دَقِيقٍ وَبِسَوَادِ بَطْنِ شَاةٍ اللَّهُمَّ

تیس اشخاص کو ایک صاع آٹے سے اور بحری کے قلب و جگر سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ كَيْفَ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا ابوذر رضی اللہ عنہ کو

بِكَ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ جُوعٌ لِّأَبِي ذَرٍّ وَخَاطَتْ بَنُورًا سُنَانَهُ امْرَأَةٌ وَ

تیرا کیا حال ہوگا جبکہ مدینہ میں بھوک کی شدت ہوگی اور آپ کے دانتوں کے نور پر ایک عورت نے سلائی کی اور

غَزَلَتْ أُخْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دوسری نے سوت کا تا۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْيَى الْمَوْءُودَةَ وَجَاءَ الْإِعْصَارُ بِنَاقَةٍ مَّفْقُودَةٍ اللَّهُمَّ

پر جنہوں نے زندہ درگور کی ہوئی کو زندہ فرمایا اور گردباد لے آیا گم شدہ اونٹنی کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَى الشَّجَرَةِ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے اشارہ فرمایا ایک درخت کی

فَامْتَدَّتْ عَلَى أَصْحَابِهِ الْإِبْرَارِ وَرَأَى أَبُو جَهْلٍ عِنْدَهُ فَارِسًا فَخَشِيَ أَنْ

طرف تو وہ پھیل گیا آپ کے اصحاب ابرار پر اور دیکھا ابو جہل نے آپ کے پاس شاہسوار سپن خوفزدہ ہو گیا اس سے کہ

يَأْكُلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسے کھانہ جائے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت

عَذِبَ بِهِ مَاءٌ بِرِجَابٍ وَكَانَ يَرَى الْغَائِبَ كَمَا يَرَى الْحَاضِرَ اللَّهُمَّ

شیریں ہو گیا حضرت جابر کے کنویں کا پانی اور آپ دیکھتے تھے غائب کو جیسے دیکھتے تھے حاضر کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن مسعود کو

قُلْ لَهَا تَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ التَّمَا الرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَتَا

کہ ان دو درختوں سے کہو کہ رسول اللہ کے پردہ کے لیے باہم مل جاؤ تو وہ دونوں مل گئے آپ کے لیے

لَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے تیمم

التَّيْمُمِ أَبَاهُ رِيْرَةً قَبْلَ أَنْ سَأَلَهُ وَنَبَتِ الْكَلَاءُ تَحْتَ جَبِينِهِ اللَّهُمَّ

سکھلا دیا ابو ہریرہ کو پہلے اس کے کہ وہ سوال کرتے اور اگا سبزہ آپ کی جبین اقدس کے نیچے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِجَابِرِ قُلْ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا حضرت جابر کو کہ ان دو

لَهَا تَيْنِ التَّقِيَا الرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْضَمَّتَا لَهُ اللَّهُ صَلَّى

درختوں سے کہو باہم مل جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (پردہ کے) لیے تو وہ مل گئے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَتْ عَائِشَةُ بِدَعَائِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی دُعا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

مَا قَالَتْ مِنَ الْفَضْلِ وَسَأَلَتْهُ الْجِبَالُ أَنْ يُطَاعَ عَلَيْهَا بِالتَّعْلِ اللَّهُمَّ صَلَّى

بہت بڑی فضیلت پائی۔ اور درخواست کی ان سے پہاڑوں نے کہ انہیں جو تلوں کے ساتھ پامال کریں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَتْ لَهُ الْأَرْضُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے لیے ہو گئی زمین چٹیل میدان

قَاعًا إِذْ ذَهَبَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ إِلَى الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَبْضُ يَدَا لَبِيْعَةَ أَبِي شُهَيْمٍ

جب کہ چلے عام راستہ سے ہٹ کر حدیبیہ کی طرف اور روک لیا اپنا ہاتھ ابو شہم کی بیعت کے وقت

جب کہ چلے عام راستہ سے ہٹ کر حدیبیہ کی طرف اور روک لیا اپنا ہاتھ ابو شہم کی بیعت کے وقت

لَمَّا فَعَلَ بِالْمَرَاةِ الْأَجْنَبِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بسبب اس فعل کے جو کیا اس نے اجنبی عورت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْعِدَاتُ يَدَا أَعْرَابِيٍّ إِخْتَرَطَ سَيْفَهُ مِنْ أَجْلِ

آپ کی آل اطہار پر کہ آپ کی بدولت لرزنے لگے اعرابی کے ہاتھ جب اس نے آپ پر تلوار سونتی

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَشَفَ الْحُجُبَ عَنْ عَلِيٍّ إِذْ صَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَ

آل پر کہ جن کی بدولت حضرت علی پر حجاب منکشف ہو گئے جب چڑھے ان کے کندھوں پر اور

كَلِمَتَهُ الْكَلْبَةَ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کلام کیا آپ سے کتینے اور سلام پیش کیا آپ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَ اللَّهُ لَهُ قَدْرَ فَاطِمَةَ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ

آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بھروی حضرت فاطمہ زہراء کی ہانڈی جنتی کھانے سے

حِينَ أَقَاضَتْهُ فَأَعْلَمَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ الْكِرَامَ وَسَرَّ رِيقَهُ بَعَيْنِ عَلِيٍّ

جبکہ اس کو پٹا پس آپ نے اپنے اصحاب کرام کو اس کی خبر دی اور اپنا لعاب دہن لگایا حضرت علی کی آنکھ پر

فَكَانَ يَرَى مِنْ فَرْسِخٍ فِي الظَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تو آپ دیکھ لیتے تھے تین میل تک تاریکی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ كُلَّمَا ذَهَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَضَاءَ التُّورِ مِنْ أَصَابِعِهِ

آپ کی آل پر جو کعبہ کی طرف جب بھی تشریف لے جاتے تو نور چمکتا آپ کی مبارک انگلیوں کے

الْمُبَارَكَةِ وَأَضَاءَ بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

درمیان سے اور نورانی ہو گئے آپ کے طفیل ام المؤمنین حضرت میمونہ کے بھانجے زیاد بن عبد اللہ۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے بشارت دی

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِطُولِ عُمُرِهِ وَتَرَادِبِهِ مَا يُبْرِئُ يَدِ بْنِ الْحَارِثِ

حضرت سعد بن ابی وقاص کو درازی عمر کی اور زیادہ ہو گیا آپ کی بدولت زیاد بن الحارث کے کنو میں کا پانی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل

نَبَتْ بِهِ بَيْنَ عَيْنِي فِرَاسٍ شَعْرَةً وَكَلِمَتُهُ الْعُنَاقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اُنے فراس کے دو آنکھوں کے درمیان بال اور کلام کیا ان سے بکری کے بچے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَكَى عِنْدَهُ جَمَلٌ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے پاس اونٹ رویا تو

فَاسْتَوْهَبَهُ مِنَ الْمَالِكِ فَأَعْتَدَ رَوْسَمَ أَبِي بَكْرٍ خَيْرَ بَعْتِهِ مِنَ الشَّجَرِ

آپ نے اس کو مالک سے طلب کیا پس اس نے منذرت کی (اور شکایت دور کرنے کا عہد کیا) اور سنی ابو بکر صدیق نے ان کی بعثت کی خیر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ

درخت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ ہو گئی تلوار ان

فِي يَدِهِ السَّيْفُ الْيَمِينُ مِنَ الشَّعْبِ فَقَطَعَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى بِهِ

کے ہاتھ میں موم سے بھی نرم پس اسے کاٹا پھر سابقہ حالت پر ہو گئی یعنی سخت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کی برکت سے

إِمْتَلَأَتْ بِهِ مِنَ السَّمْنِ عُلَّةُ أُمِّ أَوْسٍ وَكَانَ يَشْمُرُ بِأَنْفِهِ رَأِيحَةَ

گھی سے بھر گیا ام اوس کا برتن اور آپ سو نکھتے تھے جنت الفردوس کی خوشبو (زمین پر)

الْفِرْدَوْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی ناک مبارک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي الْبَسَتْ فَاطِمَةُ مِنَ الْجَنَّةِ بِهِ الْأَثْوَابَ الْفَاخِرَةَ وَ

پر کہ جن کے طفیل حضرت فاطمہ زہراء کو جنت کے لباس فاخرہ پہنائے گئے اور

اَعْتَشَى الْمَلِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَاةِ ابْنِ لَهَبٍ الْكَافِرَةِ اَللّٰهُمَّ

پر وہ بنا دیا فرشتہ نے آپ کے اور ابولہب کی کافرہ بیوی کے درمیان۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَابَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل محمد پر کہ جن کے طفیل نہ بوڑھے ہوئے

بِهَسَابٍ بَنُ يَزِيْدٍ وَجَعَلَ اللهُ لَهُ عَشَاوَةً عَلٰى بَصْرِ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ

ساب بن یزید اور آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ٹوالا پر وہ ولید کی آنکھوں پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَرَوٰى الْحُسَيْنَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیراب فرمایا حضرت حسن

وَالْحُسَيْنَ بِاللِّسَانِ وَيَتَّيْنُ لِيَهُودٍ تَرْجُمَةُ كَلَامِ سَلْمَانَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی زبان (چھوانے) سے۔ اور واضح کیا یہود کے لیے سلمان فارسی کے کلام کا ترجمہ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَنْبَا بِاَنْ يَّصِيْرُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دیدی کہ ہوں گے

خَلِيْفَةً بَعْدَهُ اَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ وَبُرُقٌ مِنْ اَجَلِهِ جَبْرِئِلُ فِي

خليفة ان کے بعد ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق پھر عثمان نو النورین اور عکس ٹوالا آپ کی وجہ سے جبرئیل نے

فِي سَلْمَانَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حضرت سلمان کے منہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي حَلَبَ التَّعْجَةَ الَّتِي لَمْ يَنْزُلْ عَلَيْهَا الْفَحْلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے دودھ نکالا اس دہنی سے جس سے ابھی نہ جفتی بھی نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدَّثَ الْيَهُودِيَّ مِنْ اَبُوهِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے یہودیوں کو بتلایا کہ اصلی باپ ان کا کون ہے

حِيْنَ جَحَدَ نَسَبَهُ وَاَنْكَرَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

جبکہ اس نے اپنے نسب سے انکار کیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِقُبَاتِ بْنِ أَشِيمٍ إِنَّكَ قُلْتَ مَا رَأَيْتُ

محمد پر جنہوں نے فرمایا قبات بن اشیم کو کہ تو نے کہا ہے میں نے

مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ فَرَمِنَهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَصَارَ لِبَنَاتِهِ الْمَاءُ اللَّهُمَّ

نہیں دیکھا مانند اس امر کے کہ سبھی بھاگے اس سے ماسوا عورتوں کے اور ہو گیا آپ کی برکت سے پانی دودھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَرَبَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے طفیل مارا

جَبْرِيلُ مِنْ أَجَلِهِ صَدْرَ دَعْتُورِ بْنِ الْحَارِثِ بِالْجَنَاحِ وَمَا عَاشَ

جبریل نے دعشور بن حارث کے سینہ پر اپنا پر اور نہ زندہ رہا

بِهِ سَنَةٌ مِّنْ أَسَاءِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی بدولت سال بھر بھی جس نے آپ سے گستاخانہ کلام کیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ غُلَامٌ رَّابِكُمْ لَامْرَأَةٍ مِّنْ خَشْعَمِ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت کلام کرنے لگا خشعی عورت کا گونگا لڑکا اور

وَكَلَّمَهُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَرَدَّ عَلَى أَهْلِ بَيْدِ مَعُونَةَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ

جن سے بیت اللہ نے کلام کیا اور جنہوں نے بید معونہ کے شہداء کو سلام کا جواب دیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُكَلِّمُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہر ایک کے ساتھ

كُلَّ أَحَدٍ بِلِسَانِهِ وَكَلَّمَ الذَّنْبُ أَهْبَانَ فِي شَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اس کی زبان میں کلام فرماتے تھے اور کلام کیا بھیڑیے نے اہبان کے ساتھ آپ کی شان میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ إِلَيْهِ شَجَرَةٌ لِّطَلَبِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی خدمت میں حاضر ہوا درخت قریش کے

قُرَيْشٍ فَانْشَقَّتْ بِأَمْرِهِ فَذَهَبَتْ النِّصْفُ إِلَى مَنبِتِهِ وَقَامَ النِّصْفُ الْآخِرُ

مطالبہ پر تو آپ کے امر سے دو لخت ہو گیا پس ادا اپنے اہل مقام پر چلا گیا اور دوسرا نصف حصہ آپ کے

عِنْدَا ثُمَّ ذَهَبَتْ الْآخِرُ وَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پاس کھڑا رہا۔ پھر یہ حصہ اپنی جگہ پر چلا گیا اور پہلا آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى عَلَى الْعِصَاةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب ان کانٹوں پر چلتے جنہیں

الَّتِي تَضَعُ امْرَأَةٌ ابْنِي لَهَا عَلَى طَرِيقِهِ عَادَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ كَثِيبًا أَهِيْلَ

ابولہب کی بیوی آپ کے راستہ پر پھینکتی تھی تو وہ آپ کے قدموں کے نیچے بہنے والی ریت کی مانند ہو جائے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ

سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ شَرُّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ

عقرب ہو گا اس امت میں ایک شخص جس کو ولید کہا جائے گا وہ اس امت کے لیے بدتر ہو گا

مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ وَأَكَلَ الْأَسَدُ امْرَأَةً بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نسبت فرعون کے واسطے اپنی قوم کے اور آپ کے طفیل شیر نے کھا لیا عورت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ الْخَشَبُ سَيْفًا فِي يَدِ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے طفیل لکڑی تلوار بن گئی

مُسْلِمَةَ بْنِ أَسْلَمَ وَأَثْمَرَ بِهِنَّ التَّخْلَةَ الْيَابِسَةَ فِي بَيْتِ أَبِي الْهَيْثَمِ

مسلمہ بن اسلم کے ہاتھ میں اور جن کے طفیل پھلدار ہو گئی ابو الہیثم کے گھر کی خشک بھجور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جنہیں

صَلَّى جَهْرًا عَلَيْهِ الْبَيْتُ الْحَرَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیت حرام نے علانیہ درود سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ سَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيقٍ وَأَسْلَمَ

اور آل محمد پر جنہوں نے درست فرما دی عبد اللہ بن عتیق کی پندلی۔ اور بھر گیا

بِهِ مِنَ السَّمْنِ عَكَّةٌ أَوْ شَرِيكٌ وَقَامَ بِهِ السَّمْنُ فِي تِلْكَ الْعَكَّةِ

جن کے طفیل اُم شریک کا گھی کا ٹوبہ اور ہمیشہ برقرار رہا گھی اس ٹوبہ میں مسلسل کھانے کے باوجود

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت

كَثُرْنَا فِي وَلِيَّةِ نَزِيْبٍ بَدَتْ جَحِشٌ بِهِ الْحَيْسُ وَأَفَاقٌ بِهِ مَجْنُونٌ

بڑھ گیا حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ میں حلوا اور ہوش میں آ گیا آپ کی بدولت

وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

وقد عبد القیس کا مجنون شخص - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَجَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ

کی آل اطہار پر جو محبوب غروب آفتاب کے بعد نکلے تو آواز سنی پس فرمایا

يَهُودُ تَعَذَّبُ فِي الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کہ یہ یہودی ہیں جنہیں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ طَعَامُ فَاطِمَةَ الَّذِي طَخَتْ

آپ کی آل پر جن کی بدولت برکت دی گئی حضرت فاطمہ کے کھانے میں جو پکایا تھا

لِلْغَدَاةِ وَوُلْدِهِ سَبْعُونَ ابْنًا لِكَ بْنِ رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کل کے لیے اور پیدا ہوئے آپ کی برکت سے ستر فرزند مالک بن ربیعہ کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِقَيْسِ بْنِ خُرْشَةَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا قیس بن خورش کو

عَسَى أَنْ يَلِيكَ بَعْدِي وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَقُولَ مَعَهُمُ الْحَقَّ حِينَ

امید ہے کہ تجھ پر میرے بعد ایسے والی ہوں گے کہ تو انہیں حق بات کہنے کی طاقت نہیں رکھے گا بیعت

الْبَيْعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے وقت - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے

قَالَ لَقَيْسٌ حِينَ قَالَ لَهُ وَاللَّهِ لَا أَبَا يَعُكَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا وَفِيكَ

فرمایا قیس کو جبکہ اس نے عرض کیا آپ سے بچد میں آپ کے ساتھ بیعت نہیں کروں گا کسی امر پر مگر اسے پورا کروں گا

إِذَا لَا يَضُرُّكَ بَشْرٌ وَصَارَ بِهِ صَدْرُ عَائِدِ بْنِ عَمِيرٍ وَأَنُوسَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تب تجھے کوئی انسان نقصان نہیں پہنچائے گا اور ہو گیا آپ کی بدولت عائد بن عمرو کا سینہ نورانی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَطْعَمَ مِنْ شَاةٍ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سیر فرمایا اس بچہ کے

أَمْتِشَعَتْ لَهُمْ بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

دودھ سے جو دودھا گیا ان کے لیے کمال ایمان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَذَّبَ الْمَاءَ الْمَالِحَ لِبِيرِ أُنْسٍ بِهِ وَأَسْوَدَ بِهِ

آپ کی آل پر کہ شیریں ہو گیا کھاری پانی حضرت انس کے کنوئیں کا آپ کی بدولت اور سیاہ ہو گئے

شَعْرُ يَهُودِيٍّ حَلَبَ نَاقَتَهُ مِنْ أَجْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بال یہودی کے آپ کی بدولت جس نے آپ کی اونٹنی کا دودھ دوا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَطْهَرُ مَا دَامَ عُمَرُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا کہ فتنہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ

حَيًّا وَأَخَذَ بِسُجْرِ الصَّبِيِّ الَّذِي كَانَ بِهِ جُنُونٌ فَزَالَ عَنْهُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ

زندہ رہیں گے۔ اور پکڑا آپ نے مجنون بچے کے نتھتے کو تو اس کا جنون زائل ہو گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الْأَسَدُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن سے کلام کیا شیر نے

وَعُدِمَ لِهَشَامِ بْنِ الْحَارِثِ بِهِيَ الْغُلُّ وَالْحَسَدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور معدوم ہو گیا آپ کی بدولت ہشام بن الحارث کا بغض اور کینہ اور حسد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي امْتَلَأَتْ بِهِ عَمَّةٌ أُمَّ سَلِيمٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی بدولت بھر گیا ام سلیم کا گھی کا ڈبہ (خالی ہو چکنے کے بعد)

مِنَ السَّيْنِ وَ نَفَى مِنْ رَأْفِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ جَعَلَ الْبَطْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کھی سے۔ اور دور فرما دیا رافع بن خدیج سے پیٹ کا درد۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ رَاسَ حَنْظَلَةَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا حنظلہ بن حزم کے

بِنِ حَزِيمٍ فَكَانَ اِذَا تَوَسَّمَ رَاسُ رَجُلٍ اَوْ ثَدْيَ شَاةٍ وَضَعَهُ عَلٰی مَوْضِعِ

سر پر تو جب سوچ جاتا کسی شخص کا سر یا بکری کا تھن تو رکھتے تھے وہ درد کی جگہ پر

الْوَجَعِ يَدَاهُ الشَّرِيفَةَ زَالَ مِنْهُ الْوَرَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اپنا ہاتھ شریف تو وہ ورم اور درد زائل ہو جاتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَعَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِ الْمَاءِ فَتَوَضَّأَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ پڑا پس وضو کیا

بِهِ سَبْعُونَ رَجُلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اس کے ساتھ ستر آدمیوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَابَ بِهِ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر کہ جن کی بدولت نہ سفید ہوئے بال عمیر بن سعد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اُرْسِلَ عَلٰی قَوْمٍ بِهِ الضَّفَادِعُ وَاُرْسِلَ عَلٰی

محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے بھیجی گئیں ایک قوم پر مینڈکیں اور بھیجی گئی ایک قبیلہ

قَبِيلَةَ بِلَالِ الْجَرَادِ ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

پر مڑی پھر دور کر دی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ رَاسَ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ وَصَارَ رَاسُهُ اَبْيَضَ وَمَا مَرَّتْ يَدَاهُ

پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا عمرو بن ثعلبہ کے سر پر جبکہ وہ سفید ہو چکا تھا اور نہ گزرا آپ کا ہاتھ

عَلَيْهِ مِنْ شَعْرَةٍ اِلَّا سَوَدَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اس کے کسی بال پر مگر وہ سیاہ ہوتا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اس کے کسی بال پر مگر وہ سیاہ ہوتا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ قَضِيْبًا عَلَى بَطْنِ رَجُلٍ عَقِيمٍ فَرَزَّ

آل محمد پر جنہوں نے اپنی چھڑی رکھی بانجھ شخص کے پیٹ پر تو اسے اولاد

الْوَلَدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نصیب ہو گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

قَالَ هَيْحَانَ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ وَأَخْبَرَ الصَّمَّ عَنْ بَعْثِهِ

فرمایا کہ اس آندھی کا چلنا منافق کی موت کے باعث ہے اور خیر دی بت نے آپ کی بعثت کے متعلق

غَسَّانَ وَالْعِصَامَ وَالطَّارِقَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

غسان۔ عصام اور طارق کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَذَتْ الْأَرْضُ بِهِ الرَّجُلَ الَّذِي كَذَبَ

آل محمد پر جن کے طفیل زمین نے باہر پھینک دیا اس مرد کی نقش کو جس نے آپ پر افتراء

عَلَيْهِ وَأَنْقَطَعَتْ يَدَا ابْنِي جَهْلٍ إِذَا أَرَادَ رَمِي الْحَجَرِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کیا تھا اور کٹ گیا ہاتھ ابو جہل کا جب اس نے آپ پر پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَ لِيَشْهَدَ رَبَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی (رسالت کی) گواہی کے لیے اترا

الْعَدْقُ وَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَظَالَ بِهِ بَقَاءُ ابْنِي ثَرْوَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کھجور کا خوشہ اور پھر اپنی جگہ پر لوٹ گیا اور دراز ہو گئی آپ کی بدولت عمر ابو ثروان کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَكَلَّمَ مِنْ أَجْلِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے کلام کیا

صَمَّ ابْنِي جَهْلٍ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا صَمٌّ بَاطِلٌ

ابو جہل کے صنم نے پس کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں باطل صنم ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے

هَذَا أَبَا جَهْلٍ فِي الْبَيْتِ لَهُ الشَّخْصُ الرَّنْجِيُّ الْهَائِلُ وَكَلِمَهُ

دھمکایا ابو جہل کو اس کے مکان میں ہولناک زنگی شخص نے اور کلام کیا

الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ وَأَقْرَبُ رِسَالَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان سے حجر اسود نے اور اقرار کیا ان کی رسالت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مَنَافِقًا

و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں بارہ شخص منافق ہیں ان

ثَمَانِيَةً تَكْفِيهِمُ الدُّبَيْلَةَ سِرَاجٌ مِّنْ نَّارِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

میں سے آٹھ کو دبیله یعنی آگ کا شعلہ ہلاک کرے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ الْفَتَى الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت پاکدامن ہو گیا وہ شخص جس نے آپ سے اذن طلب کیا

لِلزَّيْنَادِ الْعَفَافِ وَصَافِحَةَ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ فِي إِثْنَاءِ الطَّوَافِ

تھا زینا کا۔ اور مصافحہ کیا آپ سے حضرت عیسیٰ بن مریم نے اور سلام پیش کیا آپ کو طواف کے دوران

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن کی خدمت میں حاضر ہوا

شَجَرَةٌ وَهُوَ نَائِمٌ لِّسَلْمٍ عَلَيْهِ وَأَنْجَى الصَّبِيَّ الْمَاءُوفَ الَّذِي جَاءَتْ

درخت جبکہ آپ خواب استراحت میں تھے تاکہ سلام پیش کرے اور آپ نے نجات دلائی بیچس اور شل جسم ولے بچے

بِهِ أُمَّهُ فِي السَّفَرِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کو جس کو اس کی والدہ آپ کی خدمت میں دوران سفر لائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ إِذْ طَلَبَ مِنْهُ حِرَاسَةَ وَقْتِ

محمد پر جنہوں نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن مسعود کو جب کہ انہوں نے نماز کے وقت کی نگہداشت

الصَّلَاةِ أَنْتَ تَنَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کا اذن طلب کیا کہ تو سو جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَتْ عَائِشَةُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَثَوْبِهِ يَتَغَطَّى بِرِدَائِهِ

محمد پر کہ دیکھی حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کے عامہ اور دوسرے کپڑوں پر آپ کی چادر اور ہنسنے کی برکت سے

بَلَّكَ مَطَرٌ عَالِمِ الْغَيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

عالم غیب سے باران رحمت کی تری۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ فَرَسٌ أَبِي طَلْحَةَ بَحْرًا وَصَارَ بِهِ

آل محمد پر کہ جن کی بدولت ہو گیا حضرت ابوطالب کا گھوڑا دریا کی مانند اور جن کے طفیل ہو گئے

إِبْنُ عَبَّاسٍ حَبْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حضرت عبد اللہ بن عباس بہت بڑے عالم و مفسر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِأَمْرٍ وَاجِبٍ أَيْتُكُنَّ صَاحِبَةَ جَهَنَّمَ تَسِيرُ حَتَّى تَنْبُرَ

محمد پر جنہوں نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا تم میں سے کوئی ہے اونٹ والی جو روانہ ہو گی حتی کہ اس کو

عَلَيْهَا كَلَابُ الْحَوَاطِبِ يُقْتَلُ حَوْلَهَا رَجُلًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو نیکیں گے حوذب کے کتے اور اس کے گرد بہت سے لوگ قتل کئے جائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا عقبہ بن ابی معیط کو

مُعَيْطٍ إِنِّي أَرَى رَأْسَكَ عَلَى السَّيْفِ خَارِجَ مَكَّةَ وَنَادَى ابْنَ الْمُتَّصِقِ

بیشک میں دیکھ رہا ہوں تیرا سر تلوار پر مکہ مکرمہ سے باہر۔ اور ندا دی کہ کون ہے صدقہ کرنے والا

بِالْعُرْضِ الْبَارِحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی عزت کا گزشتہ رات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَّرَ رَأْسَ أُمِّ زَهْرٍ وَبَرَكَ عَلَيْهَا فَصَارَتْ امْرَأَةً

پر جنہوں نے ماتھ پھیرا ام زہر کے سر پر اور برکت کی دُعا دی تو وہ نیک عورت بن

صَالِحَةً وَرُبِّقَ دِحْيَةُ بِدُعَائِهِ الْإِيْمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گئی اور دھیہ کلہبی کو آپ کے طفیل ایمان نصیب ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّكَ لَا تَمُوتُ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کہ

شَهِيدًا الْعَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تم نہیں مرو گے شہادت و قتل کی حالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَهُ لِلتَّهْنِيَةِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ أَوْ

اور آل محمد پر جن کی خدمت میں مبارکبادی کے لیے حاضر ہوئے چار لاکھ اور

أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِذْ وُلِدَ الْحُسَيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

چوبیس ہزار فرشتے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا اعرابی کو

إِنَّ فِي عِبَادَتِكَ الْحَمَامَةَ مَعَ الْفَرَّخَتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

یقیناً تیری عباد میں کبوتری ہے بمع اپنے دو بچوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَزَالَ الْأُدْرَةَ مِنْ رَجُلٍ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے دور فرمائی ورم اندام نہانی کی ایک شخص سے

وَنَفِي وَكَلَّمَهُ الْمَرْوَةَ وَالصَّفَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اسے ختم کیا اور کلام کیا ان سے مروہ و صفانے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْرَكَ مِقْدَادَ بْنِ الْأَسْوَدِ بِهَ الْقِنطَارِ

اور آل محمد پر جن کی بدولت یا لیا مقداد بن اسود نے ڈھیروں سونا چاندی۔

وَكَانَ إِذَا رَكَعَ يَدْرِي الْأَرْضَ حَتَّى الْحَوْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور جب آپ رکوع فرماتے تھے تو تمام زمینوں کو مشاہدہ فرماتے حتی کہ مچھلی تک کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكَلَ مَعَ الْيَاسِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے کھایا حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ

مِنْ حُورٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَامَتْ نَاقَتُهُ فِي الْهَوَاءِ

اس دسترخوان سے جو آسمان سے اترتا اور کھڑی ہو گئی آپ کی اذیتی ہوا میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِمَرَأَةٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ایک بیمار عورت

بِالسَّتْرِ فَلَمْ تَنْكُشْ أَبَدًا بَعْدَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِ الطَّائِرِ لَا كُنْ

کے لیے پردہ برقرار رہنے کی تو وہ اس کے بعد کبھی برہنہ نہ ہوئی اور واضح کیا حضرت انس بن مالک پر

بِنِ مَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پرندہ کے قول کو۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَذَتْ الْأَرْضُ بِهِ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ

پر کہ جس محبوب کی وجہ سے زمین نے باہر پھینک دی نقش اس شخص کی جو وحی لکھا کرتا تھا

فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَوَجَدَ جِيوشَهُ الْجِيَاءَ بِخَيْرٍ بِدَعَايِهِ

پھر اسلام سے برگشتہ ہو گیا اور پایا آپ کے بھوکے شکر یوں نے آپ کی دعا سے

الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کھانا خیبر میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْرَقَتِ الصَّاعِقَةُ مِنْ أَجْلِهِ كَافِرًا قِنَطَرًا غَيْبِ

پر کہ جن کی وجہ سے جلا دیا بجلی نے عرب کے سرکشوں میں سے ایک سرکش کافر

الْعَرَبِ وَمَا شَابَ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَحْطَبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کو اور نہ سفید ہوئے عمر بن احطاب کے بال آپ کی بدولت۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا بَلََّ بِالْبَطْرِ بِهِ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت نہ بھگے بارش سے

صَحْبُهُ وَأَحَبُّ أَبَاهُ رِيْرَةً وَأُمَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کے صحابہ اور محبت کرنے لگے ابوہریرہ اور ان کی والدہ سے اہل ایمان۔ لے اللہ صلوات

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَسْمَعُ حَرِيْرٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو سنتے تھے آسمان سے

اَقْلَامِ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ بِاَذْنِيْهِ وَاَرَى حَمْرَةَ جَبْرِئِلَ فَوْقَهُ

ملائکہ کی قلموں کے چلنے کی آواز اپنے مبارک کانوں سے اور دکھلائے آپ نے حضرت حمزہ کو جبرئیل امین

مُعْشِيًّا عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

نورہ گر پڑے عش کھا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَ اَبُوْجَهْلٍ مِّنْ اَجَلِهِ جَجْرًا فَشَلَّتْ يَدُهُ اِلَى عُنُقِهِ

پر کہ جن کی وجہ سے ابو جہل نے پتھر اٹھایا تو اس کا ہاتھ نسل ہو کر گردن سے لگ گیا

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَثِيْبُ الرَّمْلِ الطَّوِيْلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور سلام پیش کیا آپ پر ریت کے طویل ٹیلے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ الْمُخْرُوْمِي

محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت حائل ہو گیا آپ کے اور مخزومی شخص کے درمیان کوئی

شَيْءٌ كَالْفَيْلِ يَضْرِبُ اَرْضَ بَدَنِئِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

جانور مانند ہاتھی کے جو اپنی دم زمین پر مارتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُطِفَ لَهُ بِصَرِّ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي

محمد و آل محمد پر جن کی وجہ سے اچک لی گئی بنی مغیرہ کے ایک شخص کی

الْمَغِيْرَةِ وَقَالَ لِاصْحَابِهِ اِنَّكُمْ مِّنْصُورُونَ مُصِيْبُونَ مَفْتُوْحٌ لَّكُمْ

بصارت اور فرمایا اپنے صحابہ کرام کو یقیناً تم منصور و غالب ہو گے، تمہارے لیے فتح ہوں گے۔

يَعْنِي الْبِلَادَ الْكَثِيْرَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

بہت سے شہر اور علاقے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ الْاَعْدَاءُ قِرَاءَتَهُ عِنْدَ الْكُعْبَةِ وَيَرُوْهُ فَرَجَعُوْا

پر کہ سنی اعدائے آپ کی قرأت کعبہ معظمہ کے پاس اور آپ کی قرات اقدس کو نہ دیکھا پس لوٹے

خَائِبِينَ وَبَيْنَ لِحْدَيْهِ أَسْمَاءُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

رسوا ہو کر اور بیان فرمادے حضرت خدیفہ کو منافقین کے نام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَتْ بِيَمِينِهِ غَدِيرَ أَسْمَاءَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے یمن و برکت سے اگی امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی

بَنَتْ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیٹی حضرت اسماء کی مینڈھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا أَبْيَضَ بِهِ لِرَجُلٍ شَعْرَةٌ وَقَدْ بَلَغَ

و آل محمد پر کہ جن کی برکت سے نہ سفید ہوا ایک بال بھی ایک شخص کا حال تک اسی سال کو

ثَمَانِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پہنچ چکا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ يَدَ الصَّبِيِّ الْمُنْكَسِرَةِ وَأَسْلَمَتْ بِهِ أُمُّ أَبِي هُرَيْرَةَ

پر جنہوں نے درست فرما دیا بچے کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اور جن کی دعا سے مشرف باسلام ہو گئی حضرت ابو ہریرہ کی والدہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی بدولت

دَرَّ إِعْزَمُ مَعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرٍ بِهِنَّ اللَّيْنُ وَعَذِبَ بِهِ مَاءُ بَدْرِ الْيَمَنِ

ازامعاویہ بن ثور کی بکریوں کا دودھ اور شیریں ہو گیا آپ کی برکت سے یمن کے کنوئیں کا پانی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس آقائے

بَيْنَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ حُلِيَّةٌ سُفْيَانُ بْنُ خَالِدٍ وَقَالَ لَهُ إِذَا

بیان فرمایا عبد اللہ بن انیس کے سامنے سفیان بن خالد کا حلیہ اور فرمایا اسے کہ جب

رَأَيْتَ سُفْيَانَ أُلْقَىٰ فِي قَلْبِكَ الْخَوْفُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

تو سفیان کو دیکھے گا تو تیرے دل میں خوف پیدا ہو گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِرَأْسِهِ سَقِيمٌ فَبَرَّعَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے بیمار راہب کے لیے دعا فرمائی تو وہ اسی وقت

مِنْ حَيَاتِهِ وَأَجَابَ عَنْ ثَلَاثِ عِبَادِ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ اللَّهُمَّ إِنِّي

تندرست ہو گیا۔ اور جواب دیا آپ نے حضرت عبد اللہ بن سلام کے تین سوالات کا۔ اے اللہ بے شک میں

أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِحُبِّ مَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّةِ قَوْلِهِ وَقَبُولِ قَوْلِهِ قَبُولًا

وسیلہ پکڑتا ہوں تیری بارگاہ میں ان کی محبت اور محبت قبولیت اور قبولیت کاملہ و اکملہ

كَامِلًا مُكْمِلًا وَمُتَوَسِّلًا بِهَذَا الْحَامِدِ الْحَمَادِ الْمَحْمُودِ الْمُحَمَّدِ

کے طفیل اور وسیلہ پکڑتا ہوں اس حامد و حماد و محمود اور محمد و

الْأَحْمَدِ أَنْ تَشْفِيَنِي وَتُقَوِّيَنِي شِفَاءً تَامًّا كَامِلًا عَاجِلًا بَدَنِيًّا

احمد کے ساتھ کہ مجھے شفا عطا کرے اور تقویت بخشنے از روئے شفاء کامل و اکمل اور فوری کے جو ہوا زروئے بدن

وَقَلْبِيًّا وَقُوَّةَ ظَاهِرِيَّةَ وَبَاطِنِيَّةَ وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْفِرَاقِ

اور قلب کے اور ظاہری اور باطنی قوت کے اور بنائے مجھے لمبی جدائی والا لوگوں سے عاشقوں

سَبِيلَ الْعُشَّاقِ فِي عِبَادَتِكَ وَعِبُودَتِكَ وَعِبُودِيَّتِكَ وَتَثْبِتَنِي

کی راہ اختیار کرنے والا اپنی عبادت اور اطاعت اور خضوع و خشوع میں اور ثابت قدم رکھے مجھے

عَلَى الطَّرِيقَةِ الْخَاصَّةِ الْإِحْسَانِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ الْوَحْدِيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ

خاص احسان والے طریقہ پر اور وحدت واحدہ و

التَّوْحِيدِيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ مِنْ غَيْرِ غَيْرِيَّةٍ وَأَنَايَّةٍ وَوَهْمِيَّةٍ

واحدیہ احدیہ کی معرفت پر بغیر کسی غیریت و انانیت اور موہوم

الْمَوْهُومِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْكَمَلِيَّةِ الْإِجْمَاعِيَّةِ

وہمیت و پندار کے اور حقیقت محمدیہ احمدیہ اکملیہ کے طریقہ پر جو جامع ترین ہے خالق میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَحَّ بِهِ الصَّبِيُّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى

آل محمد پر جن کی برکت سے صحت مند ہو گیا وہ بچہ جسے اس کی ماں لائی تھی

حِجَّةِ الْوُدَّاعِ إِلَيْهِ وَانْتَظَرَ ابْنَةَ مَلِكِ الرُّومِ حِينَ قَدِمَتْ مَعَهُ

حجۃ الوداع میں آپ کی خدمت میں اور انتظار فرمایا شاہ روم کی بیٹی کا جبکہ حاضر ہوئی آپ کی خدمت میں

فَتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایک مسلمان جوان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُورِكَ بِهِ طَعَامُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

و آل محمد پر کہ جن کی بدولت بابرکت ہو گیا کھانا انصاری سے مرد

وَأَمْرَاتِهِ وَكَلِمَتَهُ الْحُسْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اس کی بیوی کا۔ اور کلام کیا آپ کے ساتھ تپ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ الظُّبْيَةَ وَصَبِيَّانَهَا لَا

اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا کہ بیشک ہرنی اور اس کے بچے شام

يَمْسُونَ حَتَّى يَجْزِيَ اللَّهُ فَرَجَهُمْ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کشائش کا سامان کر دے گا ایک جنتی آدمی کے ہاتھوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے

قَالَ الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً وَقَالَ لِرَجُلٍ ضَرَبَ اللَّهُ

فرمایا کہ خلافت راشدہ میرے بعد تیس سال تک ہو گی اور فرمایا ایک شخص کو اللہ اس کی

عُنُقَهُ فِي سَبِيلِهِ فَمَاتَ شَهِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

گردن مارے اپنی راہ میں تو وہ فوت ہوا شہید ہو کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَتِ الْغَزَالَةُ عَلَيْهِ وَأَحْرَقَتْ

محمد و آل محمد پر جن کی خدمت میں ہرنی نے سلام پیش کیا اور عقبہ بن ابی

شَفَتَا عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ إِذَا ابْزَقَ عَلَيْهِ فَبِرَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

معیط کے دونوں بچے ہوئے ہونٹوں پر جب لعاب دہن والا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمًا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں دیکھا عبد اللہ بن مسعود نے ایک دن کہ

يَرْتَفِعُ مِنْهُ النَّوُّورُ إِلَى السَّمَاءِ وَنَفَى مِنْ صَبِيٍّ دَاءَ الْأَحْشَاءِ اللَّهُمَّ

بلند ہوتا تھا آپ سے نور آسمان کی طرف اور دور فرمائی ایک بچے سے بیماری انتڑیوں کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا الشَّجَرَةَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے بلایا اس درخت کو

الَّتِي خُلِقَتْ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةِ دُمُوعٍ أَدْرَاذُ أُخْرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَاتَتْهُ

جو پیدا کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے پہلے قطرہ سے جبکہ انہیں جنت سے نکالا گیا تو

وَسَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

وہ درخت حاضر ہوا اور آپ کو سجدہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَارَتْ بِهِ عَيْنَا حَكِيمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ إِذْ

آپ کی آل پر کہ جن کی وجہ سے اڑ گئیں دونوں آنکھیں حکم بن ابو العاص کی جب کہ

غَمَزَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس نے آپ پر ان سے طنزیہ اشارہ کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةٌ أَوْ قِيَةٌ فَقَدْ أَحْفَلَ ابْنِي

پر جنہوں نے فرمایا ابو سعید کو کہ جو شخص سوال کرے اور اس کے ملک میں چالیس درہم کی مقدار ہو تو اس نے سوال میں

سَعِيدًا وَسَمِعَ عَلَى صَوْتِهِ مِنْ يُعِيدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تجاوز کیا اور سنی حضرت علی نے آپ کی آواز دُور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَ عَلِيًّا مَعَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہودیوں

الْيَهُودِ وَأَمْرًا أَنْ يَقُولَ لِمَيْتِ الَّذِي يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنْ رَسُولَ

کے ساتھ اور انہیں حکم دیا کہ کتنا اس میت کو جس طرف یہ اشارہ کریں کہ رسول اللہ

اللَّهُ قَالَ قُمْ يَا ذُنَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى فَقَامَ مِنْ قَبْرِهَا اللَّهُ

نے فرمایا ہے کھڑا ہو جا اس ذات کے اذن و امر سے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے تو وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا لَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے اپنے

بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْجَبَلِ يَوْمَ أَحَدٍ فَخَرَقَهُ بِمَقْدَامِهَا اللَّهُ صَلَّى

سرناز کو مائل کیا پہاڑ کی طرف احد میں تو پھاڑا اسے سر اقدس کی مقدار کے مطابق۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ

أَبَا ذَرٍّ يَمُوتُ بِالْبَادِيَةِ وَيَحْضُرُ وَقْتُ وِفَاتِهِ جَمْعٌ مِّنْ

ابو ذر رضی اللہ عنہ فوت ہوں گے جنگل میں اور حاضر ہو گا ان کی وفات کے وقت ایک گروہ

أَهْلِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اہل اسلام کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ رَأْسَ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ فَبَا أَيْضَ مِنْهُ

محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا قیس بن زید کے سر پر تو نہ سفید ہوئی

مَوْضِعِ يَدِهِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اس سے آپ کے ہاتھ مبارک والی جگہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَاهُ ابْنُ الشَّيْطَانِ فَدَخَلَ فِي رِقَبَتِهِ

آل محمد پر جن کی بارگاہ میں حاضر ہوا شیطان کا بیٹا پس داخل ہو گیا

الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حلقہ اسلام میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي بَصُرَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلِيمٍ بِلَا شَكِّ وَسَمِعَ صَيَادَ بَيْمِنِهِ مُحَمَّدٌ

جنہوں نے بصارت عطا کی بنی سلیم کی عورت کو بلاشبہ اور سنا شکاری نے آپ کی برکت سے محمد

رَسُولُ اللَّهِ عَنِ السَّمَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

رسول اللہ مچھلی کے منہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْبَعَهُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِّنْ ذَلِكَ السَّمَكَ وَ

آپ کی آل پر جنہوں نے سیر فرما دیا سات سو آدمی کو اس مچھلی سے اور

ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ إِلَى بَيْتِهِمَا نُورًا وَجْهَهُ الْمُبَارَكُ اللَّهُمَّ

پہنچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے گھر تک آپ کے چہرہ مبارک کے نور میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا

رَأْسَ مَدْلُوكٍ فَكَانَ مَوْضِعَ يَدَيْهِ مِنْهُ أَسْوَدٌ وَسَائِرُهُ أَبْيَضٌ اللَّهُمَّ

ضعیف شخص کے سر پر تو آپ کے ہاتھ مبارک والی جگہ (کے بال) سیاہ ہو گئے اور باقی سفید رہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمَرَ رَجُلًا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے درست فرما دیا

أَبِي قَتَادَةَ وَتَرَأَى إِلَيْهِ قَطَافُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

حضرت ابو قتادہ کا پاؤں اور دور ہو گئی آپ کی برکت سے سعد بن عبادہ کے گدھے کی کشت زفاری۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَاتَرَكَ قَائِدًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے نہ چھوڑا کسی فتنہ کے

فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقُضِيَ الدُّنْيَا إِلَّا سَمَاءَهُ بِأَسْمِهِ وَإِسْمَ أَبِيهِ وَإِسْمَ

قائد کو اختتام دنیا تک مگر اس کا نام بیان فرمایا اور اس کے باپ کا اور

قَبِيلَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قبیلہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي رِيحٌ بِهِ عَرْقَدَةٌ فِي صَفْقَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ جن کی بدولت نفع اندوز ہوئے عرقہ اپنے سوسے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَقَصَ بِهِ الثَّمَرَاتُ الَّتِي أَخْرَجَهَا بِلَالٌ

اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت نہ کم ہوئیں کھجوریں جنہیں نکالا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

فِي غُرُوزَةِ تَبُوكَ مِّنَ الْجِرَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

غزوة تبوک میں زنبیل سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَعُ شَجَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ وَقَالَ أَمَّا تَرْضَى

آل محمد پر جنہوں نے دور فرمایا عبد اللہ بن انیس کا زخم اور فرمایا حضرت ثابت بن قیس کو

أَنْ تَعِيشَ سَعِيدًا أَوْ تَمُوتَ شَهِيدًا الثَّابِتُ بْنُ قَيْسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ تو اس پر راضی نہیں کہ زندہ رہے حالت سعادت میں اور فوت ہو حالت شہادت میں اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْرَجَ السَّهْمَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے نکالا رافع بن خدیج

مِنْ صَدْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَتَرَكَ النَّصْلَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ شَانَهُ

کے سینہ سے تیر کو اور دور فرمایا پھل کو اور بیان کی ان کی شان بھیڑیئے نے

لِسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

واسطے سلمہ بن اکوع کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَتْ بِهِ شَعْرًا أُسْ هَلِبٌ بْنُ الْأَقْرَعِ

آل محمد پر جن کے طفیل اگے ہلب بن اقرع کے سر کے بال اور

أَضَاءَ بِهِ نُورًا كَالْبُصْبَاحِ فِيمَا بَيْنَ عَيْنَيْ الطُّفَيْلِ وَتَدَاوَلَ بِهِ

روشن ہوا ان کی بدولت چراغ کی مانند نور حضرت طفیل کی پیشانی میں اور کھایا آپ کے طفیل

الصَّحَابَةُ مِنْ قِطْعَةٍ مِّنْ غُدُوَّةٍ حَتَّى اللَّيْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صحابہ کرام نے ایک ٹکڑے سے صبح سے شام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَبَّأَهُ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ وَيَأْتِيهِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن کو خبریں دیں رکن یمانی نے اور تباہ ہوا آپ کی وجہ سے

مَلِكُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حارث غسانی کا ملک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي صَرَعَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ بِدَعَائِهِ الْفَرَسُ وَأَبْرَعُ لِأَبِي دُجَانَةَ سَبْعِينَ

کہ جن کی برکت دعا سے گرا دیا عقبہ بن ابی معیط کو گھوڑے نے اور درست فرمادے ابو دجانہ کے ستر

جَرَا حَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

زخم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا

لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ أَسِيرَكَ سَيَعُودُ وَتَسَاقُطُ بِهِ شَعْرُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ

حضرت ابو ہریرہ کو کہ تیرا قیدی (شیطان جسے تو نے چھوڑ دیا تھا) عنقریب لوٹے گا گئے بسبب آپ کی (نا اٹھنے کے)

يُحْفَظُهُ فِي السُّجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یاں اس شخص کے جو انہیں حالت سجد میں سنبھالے رکھتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي بَلَغَ مَلِكُ أُمَّتِهِ مَا زَوَى لَهُ وَقَالَ لِبْنِ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ قَوْلَ الْمَلِكِ

جن کی امت کا ملک پہنچا جہاں تک دنیا سمیٹ کر آپ کے سامنے کی گئی اور فرمایا ابن مسعود کو میں نے ملائکہ کا قول سنا

وَكَلَّمَتْهُ السَّمَكَةُ وَقَامَ سَرِيْعًا مِنْ جَدَارِ بَنِي النَّضِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور کلام کیا آپ سے مچھلی نے اور جلدی سے اٹھائے بنو نضیر کی دیوار کے نیچے سے (ان کی بڑی بیٹی معلوم کر کے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُتِلَ نَوْفَلُ بْنُ خُوَيْلِدٍ بِدَعَائِهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ قتل ہو گیا نوفل بن خویلد آپ کی دعا سے

وَدَخَلَ بِهِ الْغَنَمُ إِذَا أَسْلَمَ الرَّاعِي فِي الْحِصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور داخل ہو گئیں بھیڑ بکریاں حفاظت و پناہ میں جبکہ چرواہا اسلام لایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا قَاحَ أَثْرُ السَّهْمِ فِي وَجْهِ أَبِي قَتَادَةَ

محمد پر اور آل محمد پر کہ نہ نمودار ہوا تیر کا نشان حضرت ابو قتادہ کے چہرے میں جب کہ

إِذْ بَصُقَ عَلَيْهِ وَأَسَازَذَتْهُ الشَّجَرَةُ أَنْ تَمِيلَ وَتَنْظُرَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ

اس پر لعاب دہن والا اور اذن طلب کیا ان سے درخت نے ان کی طرف جھکنے کا اور دیدار کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ رَبِّ بِعِيسَىٰ مَسْحُورٍ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ نفع مند ہوئی صہیب کی بیع

وَرَدَ السَّلَامُ عَلٰی خَبِيبِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور سلام کا جواب دیا خبیب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي دُرِّقَ بِهِ فَتَىٰ مَنْ وَفِدَا تَجِيبُ غِنَى الْقَلْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ عطا کیا گیا ان کے طفیل وفد تجیب کا جو ان غنائے قلب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا اسْتَطَاعَ بِهِ الرَّجُلُ رَفْعَ الْيَدِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی وجہ سے نہ طاقت ہوئی گستاخ شخص کو اپنا دایاں

الْيَمَنِ إِلَىٰ فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ما تھ منہ تک اٹھانے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي مُطِرَ بِهِ بِلَادُ وَفِدَا بَنِي مُرَّةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي دَعَا فِيهِ اللَّهُمَّ افِنِي

جن کی بدولت وفد بنی مرہ کے علاقوں میں بارش برسی اسی دن میں جس میں دعا فرمائی۔ اے اللہ مجھے عطا فرما

بِحُرْمَةِ دَعَائِهِ السُّتَجَابَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَنَاءِ اِعْتِاقِ الْاَبْرِ الْفَنَاءِ

فناء فی اللہ کا مقام بطفیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستجاب دعائے مانند فناء بھگڑے غلام کی

فَنَانِي اللَّهُ وَأَعْطِنِي مَعِيَةَ بَقَاءِ بَابِ الْمَطْلِقِ بِقَابِ اللَّهِ

درستگی کے اور عطا فرما مجھے بقاء باللہ والی معیت مانند رہا کئے ہوئے بھگڑے غلام کے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

فرما دیجئے وہ اللہ یکیتہے۔ اللہ بے نیازہے۔ اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں کوئی اس کا مشابہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد لله الذي جعلنا
كديين لما نرى من فضل

ايرومنا ان تحفه عجايب وهدى غرائب الى الله
مقبول باركاه كوين حضره سمد الله
مُسَكِّي بِهِ

صَلَاةُ الرَّسُولِ

الجزء الثالث والعشرون ٢٣

فِي دَعْوَاتِهِ بِتَوْسَلِ صَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَنْفَعُ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ النَّبِيِّ إِذَا خَلَفْتُمْ مِنْ خَيْرِ سَنَةِ مِنْ يَدِهِ

حَضْرَتِ خَوَاتِمِ نَوَاجِحِ خَوَاتِمِ خَوَاتِمِ مُحَمَّدٍ الرَّحْمَنِ حَضْرَتِ

سَاكِنِ چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنیوالے مہربان کے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِدُعَاۃِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِشِفَاۃِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دعا و شفا کے طفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِطَاۃِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شفا کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عطا کے طفیل

وَبِعُظْمَاۃِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِلَاۃِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بندی

الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ فَلَیْکَ

و برتری کے طفیل۔ تمام ستائیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے غایت رحمت والا مہربان ہے۔ روز جزا کا

یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

مالک ہے۔ اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہیں راہ

السَّیْقِیْمِ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغضُوبِ

راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا نہ ان کی جن پر غضب کیا

عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اَمِیْنُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی مَدِّهِ الْعَظِیْمِ

گیا اور نہ گمراہوں کی آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے عظیم احسان پر اور

الصَّلٰوةِ عَلٰی نَبِیِّهِ الْکَرِیْمِ ۝ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و رحمت نازل ہو اس کے نبی کریم پر۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلٰوةً تَقْبَلُ بِهَا دُعَاۃَنَا وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً

جس صلوات کے طفیل تو ہماری دعا قبول فرمائے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جس رحمت و صلوات

تَسْمَعُ بِهَا نِدَاۃَنَا وَاسْتِغَاثَتَنَا وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً

کے طفیل تو ہماری فریاد اور پکار سنے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہماری تطہیر فرمائے کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَاةٌ تَرْفَعُنَا بِهَا عَلَى الْمَقَامَاتِ وَالدرَجَاتِ وَصَلِّ عَلَى

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں بلندی بخشنے بلندتر مقامات اور درجات پر۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَقِينَا بِهَا مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّدَا وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں بچائے خوف اور ہلاکت سے اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شِمَاتِ الْأَعْدَاءِ

سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں پناہ دے دشمنوں کی فرحت و شادمانی سے۔

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں اٹھائے

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَصَلِّ عَلَى

انبیاء۔ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَشْفِي لَنَا بِهَا أَمْرًا ضَنَا وَصَلِّ

سیدنا محمد پر کہ جس کے طفیل شفا دے ہماری بیماریوں میں۔ اور صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَتَوَسَّلُ بِهَا أَبْصَارَنَا وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر کہ جس کے طفیل روشن فرمائے ہماری آنکھوں کو اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَسْتُرُ بِهَا عَوْرَاتِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ جس کے طفیل ڈھانپے ہماری شرمگاہوں کو اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا فِي أَهْدِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَصَلِّ عَلَى

محمد پر جس کے طفیل ہمیں حفاظت بخشنے ہمارے اہل و عیال میں۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تَتَوَبُّ بِهَا عَلَيْنَا يَا تَوَّابٌ وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہم پر نظر عنایت فرمائے اے نظر عنایت فرمانے والے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهَبُ لَنَا بِهَا رَحْمَةٌ مِّنْ لَّدُنْكَ إِنَّكَ

سیدنا محمد پر جس کے لطیف ہیں عطا فرمائے اپنے پاس سے مخصوص رحمت۔ بیشک تو ہی

أَنْتَ الْوَهَّابُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْمَعُ لَدَيْكَ

عطا کرنے والا ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات تیرے نزدیک مقبول ہو

وَتُرْفَعُ إِلَيْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهَبُ لَنَا قُرَّةَ

اور تیری بارگاہ تک پہنچائی جانے والی ہو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ عطا فرمائے بطیفیل اس کے آنکھوں کی

عَيْنٍ لَا تَقْطَعُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا

ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطیفیل اس کے بچائے ہیں

مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا

بزدلی اور سستی سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطیفیل اس کے بچائے

بِهَا مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ وَالْخَطَلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں غم و اندوہ اور ناتوانی سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَةٌ تُسَلِّمُ بِهَا إِيْمَانَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

کہ بطیفیل اس کے سالم رکھے ہمارے ایمان کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطیفیل اس

تُقَوِّى بِهَا إِيْقَانَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْفَظُنَا

کے مضبوط و قوی کرے ہمارے یقین کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطیفیل اس کے ہیں محفوظ فرمائے

بِهَا مِنَ الْكُتْسَابِ السَّيِّئَاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

بڑے اعمال کمانے سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطیفیل اس صلوات

تُؤَفِّقُنَا بِهَا لِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے ہیں توفیق دے نیک اعمال کی۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَ

کہ بطیفیل اس کے پناہ دے ہیں قرض کے غلبہ سے اور لوگوں کے قہر اور ظلم سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ

صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے پناہ دے ہمیں دجال کے فتنہ سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُشْفِي لَنَا بِهَا مَرَضَانَا وَصَلِّ

اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے شفا دے ہمارے مریضوں کو اور صلوة نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ لَنَا بِهَا ثَارَنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا

فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے ہمارا بدلہ و انتقام لے ہمارے اعداء سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُسَدِّدُ لَنَا بِهَا اللِّسَانَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے درست کرے ہماری زبان کو اور صلوة نازل فرما

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقْوِي لَنَا بِهَا يَقِينَ الْجَنَانِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے مضبوط کرے ہمارے قلبی یقین کو اور صلوة نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْبَاطِلِ وَالْمَغْرَمِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ پناہ دے بطفیل اس کے گناہ اور قرض سے اور صلوة نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَ

محمد پر کہ بچائے بطفیل اس کے ہمیں قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُشْفِي لَنَا بِهَا الصُّدُورَ وَصَلِّ

صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے شفا دے ہمارے سینوں کو اور صلوة نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ دَعْوَى الْوَيْلِ وَالشُّورِ

سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے بچائے ہمیں (روز قیامت) ہلاکت اور تباہی کی طلب سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنْجِينَا بِهَا مِنَ الْفَزَعِ الْكَبِيرِ وَ

اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے نجات دے ہمیں بڑی گھبراہٹ (قیامت) سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُغْفِرُ لَنَا بِهَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا

صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس صلوة کے بخشے ہمارے پہلے اور

وَمَا تَأَخَّرَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَفِّسُ بِهَا كُرْبَتَنَا

پچھلے گناہ - اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے دور فرمائے ہماری تنگی کو

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُؤْنِسُ بِهَا وَحْشَتَنَا وَصَلَّ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے تبدیل فرمائے ہماری وحشت کو انس کے ساتھ۔ اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَفْلِحُ بِهَا عِبَائِرُ دِينِنَا وَصَلَّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے ہمیں فلاح و کامیابی بخشنے ہلاکتوں سے اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكْتُبُ بِهَا مَا يُنْجِينَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے لازم فرمائے ہمارے اسباب نجات کو اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجَنِّبُ بِهَا عَنَّا الشَّرَّ كُلَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ بطفیل اس کے دور فرمائے ہم سے ہر قسم کا شر اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا الْخَيْرَ كُلَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ بطفیل اس کے عطا کرے ہمیں ہر قسم کی خیر اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَسِّنُ بِهَا أَخْلَاقَنَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر کہ بطفیل اس کے حسین بنائے ہمارے اخلاق کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد

صَلَوةً تُصَلِّحُ بِهَا أَحْوَالَنَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

کہ بطفیل اس کے اصلاح فرمائے ہمارے احوال کی اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

تَعْصِمُنَا بِهَا عَنِ الْبَعْصِيَّةِ وَالْغَوَايَةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

طفیل محفوظ فرمائے ہمیں نافرمانی اور بے راہ روی سے اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْتُقِنَا بِهَا إِيْتِبَاعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَصَلَّ

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے سنت رسول اور جماعت صحابہ کی پیروی اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبْعِدُنَا بِهَا مِنْ إِقْتِرَانِ الْأَفَاتِ وَ

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل دور فرمائے ہمیں آفات کے قربت سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكَلِّمُنَا بِهَا عَنِ الرَّزَاتِ وَالرَّهَاتِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلواۃ کے طفیل ہماری نگرانی فرمائے تعزثوں اور غلطیوں سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْصِلُ بِهَا أَمْالَنَا وَصَلِّ

اور صلواۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلواۃ کے طفیل مہیا کرے ہماری امیدیں اور تمنایں اور صلواۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَخْلِصُ بِهَا لَكَ أَعْمَالَنَا وَصَلِّ

فرما سیدنا محمد پر جس صلواۃ کے طفیل خالص کرے اپنے لیے ہمارے اعمال کو اور صلواۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا التَّقْوَى زَادَنَا وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے بنائے تقویٰ کو ہمارا زادراہ اور صلواۃ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَزِيدُ بِهَا فِي دِينِكَ إِجْتِهَادَنَا وَصَلِّ

فرما سیدنا محمد پر جس صلواۃ کے طفیل زیادہ فرمائے اپنے دین میں ہماری سعی اور کوشش کو اور صلواۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا عِزًّا وَرَأْفَةً وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر جس صلواۃ کے طفیل عطا فرمائے ہمیں عزت اور بزرگی اور صلواۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا مَرُّوا

سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بنائے ان کامل بندوں سے جو اگر گزریں لغو اور

بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِكْرَامًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ

بیہودہ امور کے پاس سے تو گزرے ہی باوقار انداز سے اور صلواۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلواۃ کے طفیل بنائے ہمیں

عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَصَلِّ

ان بندگان خاص سے کہ جن سے جاہل مخاطب ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تمہیں سلام ہو۔ اور صلواۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ طُرُقِ الْبِهَالِكِ وَ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے ہلاکت کی راہوں سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ سُوءِ الْمَسَالِكِ

صلواۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلواۃ کے طفیل ہمیں بجائے برے راستوں سے

وَرُوْعَةَ الْمَهَالِكِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا

اور ہلاکتوں کے خوف و اندیشہ سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں محفوظ فرمائے

بِهَاعِبَائِشْغَلُنَا عَنْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اپنی ذات سے غافل کرنے والی چیزوں سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تَوْفِقُنَا بِهَا لِمَا تُقَرِّبُنَا مِنْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

توفیق بخشنے ایسے اعمال کی جو تیرے قریب کریں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے

تَجْعَلُ بِهَا سَعِيْنَا مَشْكُورًا وَعَمَلِنَا مَقْبُولًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

طفیل بنائے ہماری سعی اور کوشش شکر و جزاء کے قابل اور ہمارے اعمال مقبول۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا عِزًّا وَقَبُولًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں عزت و قبولیت عطا فرمائے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تَقْطَعُ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ اِحْتِيَاجَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوات کے طفیل ختم فرمائے اپنے ماسوا سے ہماری محتاجی اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُدِيمُ بِهَا بِنِعْمَتِكَ اِبْتِهَاجَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس صلوات کے طفیل دائمی بنائے اپنی نعمتوں کے ساتھ ہماری خوشی اور مسرت اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تَكُوْنُ بِهَا فِي جَمِيْعِ اُمُوْرِنَا وَكَيْلًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل تمام امور میں تو ہمارا کارساز ہو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تَكُوْنُ بِهَا لِقَضَاءِ حَوَائِجِنَا كَفِيْلًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل تو ہو ہماری حاجت روائی میں کفیل و ضامن اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تُعِيْدُنَا بِهَا مِنْ سُوءِ الصَّنِيْعِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

جس صلوات کے طفیل تو بچائے ہمیں بری کاروائی سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

تُعِيْدُنَا بِهَا مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِسُّ الصَّنِيْعِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کے طفیل ہمیں بچائے بھوک سے کیونکہ وہ بری مصاحب ہے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَعِيْدُنَا بِهَا مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِسُّ الصَّنِيْعِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے بھوک سے کیونکہ وہ بری مصاحب ہے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُطَهِّرُنَا بِهَا الْفُرُوجَ مِنَ الزَّنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے ہماری شرمگاہوں کو زنا سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَةٌ تَنْبِيئُنَا بِهَا الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل عطا کرے ہمیں تقویٰ و ہدایت اور عفو و درگزر۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ قَرِيْنِ السُّوْءِ وَصَاحِبِ الْعُقْلَةِ وَصَلِّ

جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے برے ساتھیوں اور غافلوں سے۔ اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الدَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل بچائے ہمیں دولت اور قلت سے اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُطَهِّرُنَا بِهَا أَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكِذْبِ وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبَاعِدُنَا بِهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَطَايَانَا كَمَا بَاعَدَكَ

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل دوری پیدا فرمائے ہمارے درمیان اور گناہوں کے درمیان جیسے دوری پیدا فرمائی تونے

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا

مشرق اور مغرب کے درمیان اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل پناہ دے ہیں

مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ أَخَذْتَنَا مِنْكَ

قبر کی تاریکی اور امتحان سے اور ہر اس شئی کے شر سے کہ جس کی پیشانی کو تو اپنے دست قدرت میں لیے ہوئے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُقْوِيْنَا بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَتُدْخِلُنَا

ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور داخل قلمتے میں

بِهَافِي حِفْظِ عِنَايَتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِزُّنَا بِهَا

اپنی عنایت کی پناہ میں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل عزت بخشنے ہیں

عِزًّا أَدُلُّ مَعَهُ وَتَرْزُقُنَا بِهَا رِزْقًا بَسْطًا فِي الْأَنَامِ وَسَعَةً وَظِلًّا

ایسی کامل عزت کہ جس کے ساتھ ذلت اور خواری بالکل نہ ہو اور رزق عطا فرمائے ہمیں بطفیل اس کے وسیع اور فراخ اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا مَشِيئَةَ مَنْ سَرَّ أَمَنَا

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہم سے برا قصد اور ارادہ لوگوں کا ساتھ اپنی مشیت غالبہ کے

بِمَشِيئَتِكَ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ رَحْمَتِكَ وَصَلِّ

اور نکالے ہمیں اس کے طفیل دنیا سے اپنی وسیع رحمت کی طرف اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ يَا وَتَمْنَحُنَا

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے تمام تر بلیات سے اور عطا فرمائے ہمیں

بِهَا جَزِيلَ الْعَطَايَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا

عظیم عطیات اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں عطا فرمائے

عَيْشَ الرَّغْدَاءِ وَتَمْنَحُنَا بِهَا عَيْشَ السُّعْدَاءِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

خوشگوار گذران اور بخشے اس کے طفیل سعادت مندوں والی زندگی اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيعَ الْأُمُورِ وَتُدِيمُ بِهَا عَلَيْنَا بَرْدَ

محمد پر جس صلوات کے طفیل آسان فرمائے ہم پر تمام امور اور دائم رکھے ہم پر بطفیل اس کے خوشگوار

الْعَيْشِ وَالسُّرُورِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبَارِكُ بِهَا فِيمَا

زندگانی اور سرور اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل برکت دے اس میں جو

أَعْطَيْنَا وَتَمْنَحُنَا بِهَا الرِّضَا بِمَا آتَيْنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمیں عطا فرمایا اور بخشے ہمیں بطفیل اس کے رضامندی ساتھ اس کے جو دیا ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً تُزَكِّي بِهَا عَنِ الْهَوَى نَفُوسَنَا وَتُطَهِّرُنَا بِهَا عَنِ سُوءِ

جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے خواہش سے ہمارے نفوس کو اور پاک فرمائے بطفیل اس کے بیسنے ماسوا سے

قُلُوبِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُصَغِّرُ بِهَا الدُّنْيَا فِي

ہمارے قلوب کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل حقیر بنا دے دنیا کو

عُيُونِنَا وَتُعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہماری نظروں میں اور عظیم بنا دے اپنے جلال کو ہمارے دلوں میں اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَرْضِينَا بِهَا بِقَضَائِكَ وَتُؤْتِينَا بِهَا بِشُكْرِكَ

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں راضی کرے ساتھ اپنی قضا کے اور توفیق بخشنے اپنی نعمتوں کے

نُعْمَائِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُصَحِّحُ بِهَا تَوَكُّلَنَا وَ

شکر کی۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل درست فرمائے ہمارا توکل اور

إِعْتِمَادَنَا عَلَيْكَ وَتُحَقِّقُ بِهَا وَثُوقَنَا وَإِلْتِجَاءَنَا إِلَيْكَ وَصَلِّ

اعتماد اپنی ذات پر اور ثبات فرمائے ہمارے وثوق اور التجاء کو طرف اپنی ذات کے اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ وَتُنْقِذُنَا

فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں نجات دے گمراہ کن فتنوں سے اور بچائے خواری

بِهَافٍ مِنَ الْهُوَانِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَرْزُقُنَا

سے خجیہ اور علانیہ حالت میں۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں

بِهَافٍ حَفِظَ كِتَابِكَ وَتَقِينَا بِهَا شَرَّ عِقَابِكَ وَالْيَمْرَعَةَ ابْنِكَ وَصَلِّ

نصیب فرمائے کتاب کے حفظ (کی توفیق) اور بچائے بسبب اس کے اپنے برے عقاب اور دردناک عذاب۔ اور صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُهْدِينَا بِهَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں ہدایت بخشنے اختلافی امور میں حق کی

وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ جَمِيعِ الْخَلْقِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بچائے تمام مخلوق کے شر سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تَقِينُنَا بِهَا شَرَّ الْأَعْدَاءِ وَتُجَلِّي بِهَا عَنَّا الصَّدَأَ وَتُرْحَمُنَا

جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے اعداء کے شر سے اور دور کرے ہمارے (قلوب) زنگ کو اور رحم فرمائے ہم پر

بِهَافٍ تَتْرُكُ الْمَعَاصِيَ أَبَدًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعَجِّلُ

بطفیل اس کے ہمیشہ کے لیے گناہوں کے ترک کے ساتھ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل جلدی

لَنَا بِهَا عَافِيَتَكَ وَتُعَرِّفُ بِهَا قُلُوبَنَا إِلَى مَعْرِفَتِكَ وَطَاعَتِكَ وَصَلِّ

عطا کرے ہمیں عافیت اور رہنمائی فرمائے ہمارے قلوب کی اپنے معرفت و اطاعت کی طرف اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَا وَتُجْبِرُ بِهَا

سیدنا محمد پر جو صلوات تھے راضی کرے اور انہیں راضی کرے اور راضی ہو تو بطفیل اس کے ہم سے اور پورا کرے

مَا قَاتَ مِنَّا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْعُجْبِ وَ

ہماری کمی اور کوتاہی کو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل پناہ دے ہیں تکبر اور

الرِّيَاءِ وَتَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ریا کاری سے اور محفوظ فرمائے حسد اور تکبر سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

صَلَوةً تُكْسِرُ بِهَا شَهْوَاتِنَا وَتُصَلِّحُ بِهَا عَادَاتِنَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

کے طفیل توڑ دے ہماری خواہشات نفس کو اور اصلاح فرمائے ہماری عادات کی اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُصَرِّفُ بِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَلَدَاتِهَا قُلُوبَنَا وَتَجْمَعُ بِهَا فِي

پر جس کے طفیل پھیر دے دنیا اور اس کی لذتوں سے ہمارے قلوب کو اور مجتمع فرمائے اپنے

الْإِشْتِيَاقِ إِلَيْكَ هُمُومَنَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُوَحِّشُنَا

اشتیاق میں ہمارے عزائم اور ارادوں کو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل منتفر کرے

بِهَاعْتِنِ سِوَاكَ وَتُوَسِّنُ بِهَا بِقُرْبِكَ وَوَلَائِكَ وَصَلَّى عَلَى

ہیں اپنے ماسوا سے اور مانوس فرمائے ہمیں اپنی قربت اور دوستی کے ساتھ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقَرِّبُنَا فِي مُنَاجَاتِكَ عِيُونَنَا وَتُحَسِّنُ بِهَا

سیدنا محمد پر جس کے طفیل ٹھنڈا کرے اپنی مناجات میں ہماری آنکھیں اور اچھا کرے اپنے ساتھ

بِكَ طُنُونَنَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُشَرِّحُ بِهَا بَعْرِفَتِكَ

ہمارے گمانوں کو اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل کشادہ فرمائے اپنی معرفت کے ساتھ

صَدُورَنَا وَتُدِيمُ بِهَا فِي ذِكْرِكَ وَفِكْرِكَ سُرُورَنَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے سینوں کو اور دائمی بنا دے اپنے ذکر و فکر میں ہمارے سرور کو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْفَعُنَا بِهَا مَنَزِلَتَنَا وَمَكَانَنَا لَدَيْكَ وَتُحَلِّنَا بِهَا مَنَازِلَ

محمد پر جس کے طفیل بلند فرمائے اپنے ہاں ہمارے مقام و منزلت کو اور اتارے بطفیل اس کے ہمیں اپنی طرف

السَّارِبِينَ إِلَيْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتَحِقُّ بِهَا

چلتے والوں کی منازل میں اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ثابت و پائیدار کرے

أَرَادَتِكَ أَمْالَنَا وَتَمَحُّقُ بِهَا فِي أَعْمَالِكَ أَفْعَالَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے ارادہ میں ہماری امیدوں کو اور تمنا کر دے اپنے افعال میں ہمارے افعال کو اور صلوة نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقْتَبِي بِهَا فِي صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا وَتُدْحُو بِهَا فِي ذَاتِكَ

محمد پر جس کے طفیل تمنا کرے اپنی صفات میں ہماری صفات کو اور محو کر دے ہماری ذاتوں کو اپنی ذات

ذَوَاتِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَقِّقُ بِهَا إِلَيْكَ لِقَاءَنَا وَ

میں۔ اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل یعنی بنائے ہماری اپنے ساتھ ملاقات کو اور

تُدِيمُ بِهَا بِنَوَائِرِ أَنْوَارِكَ صَفَاءَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

دائمی بنائے بطیفیل اس کے اپنے انوار کے تسلسل سے ہماری صفاء باطن کو اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة

تُخْتَمُ لَنَا بِهَا بِخَيْرِ أَعْمَالِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

کے طفیل ہمارا خاتمہ اچھے اعمال پر کرے اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل

تُدْهِبُ بِهَا عَنَّا غَيْظَ قُلُوبِنَا وَتَكْفِينَا بِهَا شَرَّ الْأَنْامِ وَتَعْصِمُنَا

دور فرمائے ہمارے قلوب کا غیظ و غضب اور کفایت فرمائے ہمیں مخلوق کے شر سے اور محفوظ فرمائے ہمیں

بِهَامِنِ الْغِيِّ وَالْأَثَامِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُزِيلُ عَنْهَا

گناہی اور گناہوں سے۔ اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ہمیں چھٹائے

بِرُدِّ عَفْوِكَ وَتُرْتُقِنَا بِهَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنَا حُبَّهُ عِنْدَكَ

اپنی عفو کی ٹھنڈک اور عطا کرے ہمیں اپنی محبت اور ہر اس شخص کی محبت جس کی محبت نفع دے ہمیں تیرے ہاں

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا عَنْ فِعْلِ كُلِّ مُبْتَدِعٍ

اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے ہر بدعتی کے فعل سے

وَتُرْزُقُنَا بِهَا نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَصَلِّ عَلَى

اور عطا کرے بطیفیل اس کے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صلوة نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَرْتُقِنَا بِهَا حُسْنَ الظَّنِّ فِيمَا يُرْضِيكَ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل عطا فرمائے ہیں حسن ظن ان امور میں جو تجھے راضی کریں اور اللہ

وَتُلْهِمُنَا بِهَا الْكُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُنَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

فرمائے ہیں ہر نیک عمل کا جو ہمیں نفع دے تیرے حضور۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَدْخُلُنَا بِهَا ظِلًّا ظَلِيلًا وَتَسْتُرُنَا بِهَا سِتْرًا جَمِيلًا وَ

محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں داخل فرمائے (جنت کے) گھنے سایوں میں اور چھپائے ہیں اچھے انداز میں اور

تَحْمِينًا بِهَا مِنْ الْأَشْرَارِ وَتَكْفِينًا بِهَا شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

نگاہ رکھے ہیں شریروں سے اور کفایت فرمائے ہیں شب و روز کے لئے ہونے شر سے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُسَلِّكُنَا بِهَا مَسْلَكَ أَوْلِيَاءِكَ وَتُرْوِينَا

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں چلائے اولیاء کے مسلک پر اور میراب فرمائے

بِهَامِنْ شَرَابٍ أَصْفِيَاءِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُوصِلُنَا

ہمیں اپنے اصفیاء کی شراب سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں اپنے تک واسل

بِهَآ إِلَيْكَ وَتُدِيمُ بِهَا حُضُورَنَا إِلَيْكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرمائے اور دائمی بنادے اپنے حضور ہماری حاضری۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمْرَاتِهِ وَتُجِيرُنَا بِهَا

جس صلوات کے طفیل آسان فرمائے ہم پر موت کی شدتیں اور سختیاں اور بچائے ہیں بطفیل اس کے

مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَكُرْبَتِهِ وَتَمْلَأُ بِهَا قُبُورَنَا بِأَنْوَارِ الرَّحْمَةِ وَ

قبر کی وحشت اور تنگی سے اور بھردے بطفیل اس کے ہماری قبروں کو انوار رحمت کے ساتھ اور

تَجْعَلُ بِهَا قَبْرَنَا رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بنادے بطفیل اس کے ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَتَبْعَثُنَا بِهَا

محمد پر جس کے طفیل ہمیں اٹھائے بروز قیامت انبیاء و صدیقین کے ساتھ اور اٹھائے ہمیں

مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَتُبْنَحُنَا بِهَا قُرْبَةً وَشَفَاعَةً وَتُقْبَلُ بِهَا

شهداء اور صالحین کے ساتھ اور عطا فرمائے ہمیں نبی اکرم کا قرب اور شفاعت اور جاری فرمائے ہم پر

بِهَا عَلَيْنَا بِرُكَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَبْلِغُنَا بِهَا الْبِرَّ

ان کی برکت - اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پہنچائے آرزوں تک

وَتَرْزُقُنَا بِهَا الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَتُنِيلُنَا بِهَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

اور عطا فرمائے میانہ روی فقر اور غنا میں اور میسر فرمائے ہمیں بطفیل اس کے نیکیاں کرنا

وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِعْلِ السَّيِّئَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور بچائے بطفیل اس کے برائیوں اور گناہوں کے فعل سے اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَشْبِلُنَا بِهَا

محمد پر کہ محفوظ فرمائے بطفیل اس کے قیامت کے دن کی ہر شدت سے اور احاطہ فرمائے اس کے

يَوْمَ الْجَزَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ وَتُثَقِّلُ بِهَا مِيزَانَنَا وَتُثَبِّتُ بِهَا

قیامت کے دن ساتھ رحمت اور کرم کے اور وزنی فرمائے ہمارے میزان کو اور ثابت رکھے بطفیل اس کے

عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا عَنِ

پل صراط پر ہمارے اقدام کو - اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ بطفیل اس کے بچائے ہمیں

الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ وَتَرْزُقُنَا بِهَا التَّعِيمَ وَتَشْبِعُ بِهَا مَنَا جُوعَاتِنَا وَ

دوزخ کے گرم پانی سے اور دوزخ سے - اور عطا فرمائے ہمیں نعمتیں اور سیر فرمائے بطفیل اس کے ہماری جھوکوں کو

تُنْفِئُ بِهَا عَنَّا كُرْبَاتِنَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُزِيلُ بِهَا

اور دور کرے ہم سے ہماری شدتوں اور سختیوں کو - اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل زائل کرے

عَنَّا مَكْرَ الْمَاكِرِينَ وَتُرِيِّنُنَا بِهَا بِرِيْنَةَ الْمُتَّقِينَ وَتُعَلِّمُنَا بِهَا مَا

ہم سے اہل مکر کا مکر اور مزین فرمائے ہمیں اہل فتویٰ کی زینت کے ساتھ اور سکھائے بطفیل اس کے

جَهْلَنَا وَتُلْهِمُنَا بِهَا مَا يَنْفَعُنَا وَتُدْفِعُ عَنَّا مَا يَضُرُّنَا وَتُغِيثُنَا بِهَا

جس سے ہم جاہل ہیں اور العوام فرمائے اس کا جو ہمیں نفع دے - اور دور فرمائے جو ہمیں ضرر دے اور عطا فرمائے ہمیں

عَيْنًا نَافِعًا وَتُنَحِّنَابِهَا عَفْوًا وَاسْعًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

نفع رسال بارش اور عطا فرمائے وسیع عفو درگزر۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات

تَرْفَعُ لَنَا بِهَا الْأَعْمَالَ وَتَرْجُو بِهَا الشَّفَاعَةَ إِذَا انْقَطَعَتِ الْأُمَالُ

کے طفیل بلند فرمائے ہمارے اعمال اور امید رکھیں ہم شفاعت کی جب کہ منقطع ہو جائیں امیدیں

وَ تَمُنَحِّنَابِهَا الْيُسْرَى وَتُدْفَعُ بِهَا عَنَّا الْبِئْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَتَحْفَظُنَا

اور بچتے ہیں بطفیل اس کے سہولت اور دور کرے ہم سے شدت اور ضرر اور محفوظ فرمائے ہمیں

بِهَا مِنَ الْهَجْسِ وَالْهُوسِ وَتُنَقِّي بِهَا عَنَّا خَطَايَا نَا كَمَا يُنْقِي

بطفیل اس کے برے خیالات اور حرص و ہوا سے اور دور فرمائے ہم سے ہمارے گناہ جیسے پاک کیا جاتا ہے

التُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

سفید کپڑا میں پھیل سے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تَرْزُقُنَا بِهَا الْقَنَاعَةَ وَتُعِزُّنَا بِهَا عِزَّ الطَّاعَةِ وَتَرْحَمُنَا بِهَا فِيمَنْ

ہمیں قناعت عطا کرے اور اطاعت گزاری کی عزت سے سرفراز فرمائے اور رحم فرمائے ہم پر

تَرْحَمُ وَتَتَجَاوَزُ بِهَا عَنَّا تَعْلَمُ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا بِلَاغًا حَسَنًا وَتُنَوِّرُ

رحمت کے حقداروں میں اور درگزر فرمائے ہمارے رگنا ہوں سے جو تیرے علم میں ہیں اور پہنچائے ہمیں اچھے مقام پر اور

بِهَامِنَّا الْقُلُوبَ سِرًّا وَعَلَانًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

منور فرمائے بطفیل اس کے ہمارے قلوب کو خفیہ اور علانیہ طور پر اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تَدْخُلُنَا بِهَا جَنَّةَ النَّعِيمِ بِأَجْسَابٍ وَتُبَيِّحُ لَنَا بِهَا النَّظَرَ إِلَى

ہمیں داخل فرمائے جنت نعیم میں بغیر حساب کے اور مباح فرمائے ہمارے لیے نظر طرف اپنی ذات

وَجْهِكَ الْكَرِيمِ مَعَ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ ارْشِدْنَا السِّرَّ الْخَفِيَّ مِنْ

کریم کے مع تمام احباب کے۔ اے اللہ ہمیں رہنمائی فرما اپنے سر مخفی کی

سِرِّ سِرِّكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ مَعَ الْمُوَحِّدِينَ الْوَاصِلِينَ

اپنے مخفی ترین اسرار میں سے ساتھ موحدین و واصلین کے

وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا نُقْطَةَ مَرْكَزِ جَمِيعِ التَّجَلِّيَّاتِ وَيَا كَائِنًا

اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر لے تمام تجلیات کے مرکزی نقطہ اور لے حسن کے سرچشمہ

الْحُسْنِ الَّذِي طَارَتْ مِنْهُ الرَّشَاشَاتُ فَأَقْتَسَمَتْهَا بِحُكْمِ الْمَشِيئَةِ

آبجیات جس سے چھینٹے اڑے پس ان سے حصہ وصول کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق

إِلٰهِمَّ جَمِيعِ الْمُبْدَعَاتِ وَيَا مَعْنَى كِتَابِ الْحُسْنِ الْمَطْلُوقِ الَّذِي

تمام مخلوقات نے اور لے حسن مطلق کی کتاب کے معنی و مقصود جو کہ وجود و متحقق

إِعْتَنَكْتَ فِي حَضْرَةِ جَمِيعِ الْمَحَاسِنِ لِتَقْرَأَ حُرُوفَ حُسْنِهِ الْمَقِيدَاتِ

بے تمام محاسن کی جلوہ گاہوں میں تاکہ قراءت کریں ان کے نقوش حسن کی تمام مقیدات

وَيَا مَنْ أَرَحَيْتَ حَقَائِقَ الْكَمَالِ كُلَّهَا بِرَفْعِ الْحِجَابِ دُونَ الْخَلْقِ

اے کہ پھیلانے تو نے کمال کے حقائق تمام تر مخلوق کے سامنے سے حجاب اٹھا کر اور

أَجْمَعْتَ أَنْ لَا تَنْظُرَ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَكُونَاتِ وَيَا مَنْ

پختہ عزم کر رکھا ہے تو نے کہ نہ نظر کرے طرف ماسوا کے تمام مخلوقات سے مگر ساتھ اسی کے اور لے

يَنَابِيعِ تَجَارِحِ الْأَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّاتِ الشَّعْشَعَانِيَّاتِ وَيَا مَنْ

جگہ کرنے تمام چمکیے انوار سبحانیہ کے موجیں مارنے چشموں کی اور لے کہ

تَعَشَّقْتُ بِكَمَالِهِ جَمِيعِ الْمَحَاسِنِ إِلٰهِمَّ يَا قُوَّةَ الْأَنْزِلِ

عاشق ہو چکے ہیں ان کے کمال پر تمام تر محاسن النبیہ اور لے ازل یا قوت

يَا مَقْنَاطِيسَ الْكَمَالَاتِ قَدْ أَيْسَتْ الْعُقُولُ وَالْفُهُومُ وَالْأَلْسُنُ

اے کمالات کے مقناطیس تحقیق مایوس و نامید ہو چکے تمام عقل و فہم اور زبانیں

وَجَمِيعِ الْإِدْرَاكَاتِ أَنْ تَقْرَأَ رُقُومَ مَسْطُورِ كُنْهِيَّاتِ الرَّحْمَنِ

اور تمام اقسام ادراک کے کہ پڑھ سکیں محمدی حقائق کے کھے ہوئے نقوش کو

أَوْ تَصِلَ إِلَى حَقِيقَةِ مَكُونَاتِ عُلُومِكَ الدُّنْيَا وَكَيْفَ

یا پہنچ سکیں تمہارے علوم لدنیہ کے ممکنوں و مستور حقائق تک اور کیونکر اس طرح نہ ہو

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ لَوْحٍ مَحْفُوظٍ كُنْهَكَ قَرَأَ الْمُقَرَّبُونَ كُلُّهُمْ

اے رسول اللہ جبکہ تمہاری حقیقت و کنتہ کی لوح محفوظ سے ہی پڑھا ہے تمام مقربین نے

حَقِيقَةً تَجَلِّيَاتِكَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ الْبَرِّ يَا يَا مَنْ

آپ کی تجلیات کی حقیقت کو۔ رحمت کاملہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ آپ پر اے تمام مخلوقات کی زینت اور

لَوْلَا هُوَ لَمْ تَطْهَرِ لِلْعَالَمِ عَيْنٌ مِّنَ الْحَقِيقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے کہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو نہ ظہور پذیر ہوتا جہان کا کوئی فرد پر دہلے عدم و خفا سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُورِكَ اللَّامِعِ وَمُظْهِرِ سِرِّكَ الْهَامِعِ الَّذِي طَرَزْتَ

ہمارے آقا محمد پر جو تیرے روشن نور ہیں اور تیرے راز کے منظر جس کے جمال کے ساتھ مزین فرمایا تو نے

بِحَبَالِهِ الْأَكْوَانَ وَتَرَيْتِ بِبَهْجَةِ جَلَالِهِ الْأَوَانَ الَّذِي فَتَحْتَ

تمام جہانوں کو اور مزین کیا ان کے جلال کی رونق کے ساتھ تمام زمانوں کو۔ جن کے نور حقیقت سے

ظُهُورَ الْعَالَمِ مِنْ نُورِ حَقِيقَتِهِ وَخَتَمْتَ كِبَالَهُ بِأَسْرَارِ نُبُوَّتِهِ

آغاز کیا تو نے ظہور عالم کا اور سر بہر کیا ان کے کمال کو اسرار نبوت کے ساتھ

فَطَهَّرْتَ صُورَ الْحُسْنِ مِنْ فَيْضِهِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَوْلَا هُوَ

پس ظاہر ہوئیں حسن کی صورتیں ان کے فیض سے احسن انداز میں اور اگر وہ نہ ہوتے

مَا ظَهَرَتْ لِصُورَةٍ عَيْنٌ مِّنَ الْعَدَمِ الرَّمِيمِ الَّذِي مَا اسْتَعَانَكَ

تو نہ ظاہر ہوتا کسی صورت کا جو ہر شخص بوسیدہ عدم سے۔ وہ کہ جس بھوکے نے بھی ان کے ساتھ تجھ سے ترسل کیا

بِهِ جَائِعٌ إِلَّا شِبَعٌ وَلَا ظَهْمَانٌ إِلَّا دُرُوي وَلَا خَائِفٌ إِلَّا أَمِنَ وَلَا لَهْفَانٌ

تو وہ سیر ہو گیا اور جس پیاسے نے تو وہ سیراب ہو گیا اور نہ خوفزدہ نے گھرا من میں ہو گیا اور نہ افسوس والے نے

إِلَّا اِغِيثَ وَإِنِّي لِحَقَّانٌ مُسْتَغِيثُكَ اسْتَبَطِرُ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةَ

مگر اس کی امداد کی گئی اور میں افسوس زدہ ہوں۔ فریادی ہوں طلب کرتا ہوں تیری وسیع رحمت کی بارش

مِنْ خَزَائِنِ جُودِكَ فَأَغِثْنِي يَا رَحْمَنُ يَا مَنْ إِذَا نَظَرَ بَعَيْنٌ حَلْبَهُ

تیرے جو دو نوال کے خزانوں سے پس میری فریاد کو پہنچ اے رحمن۔ اے کہ اگر نظر فرمائے اپنے تجل اور عفو کی

بِهِ جَائِعٌ إِلَّا شِبَعٌ وَلَا ظَهْمَانٌ إِلَّا دُرُوي وَلَا خَائِفٌ إِلَّا أَمِنَ وَلَا لَهْفَانٌ

وَعَفْوُهُ لَمْ يَظْهَرْ فِي جَنْبٍ كَبِيرٍ يَأْتِيهِ وَعَظْمَةٌ عَفْوُهُ ذَاتُ

نگاہ سے تو نہ ظاہر ہوا اس کے تحمل کی بڑائی اور عفو کی عظمت کے پہلو میں کوئی گناہ پس مغفرت فرما میرے لیے

فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ وَتَجَاوَزْ عَنِّي يَا كَرِيمَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيَّ وَعَلَىٰ عَائِلَتِي

اور مجھ پر نظر رحمت فرما اور مجھ سے درگزر فرما دے کریم۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما خالق و خودیہ

الْحَقَائِقِ الْوُجُودِيَّةِ الْبَطْلَقَةِ الْاَلْهَوِيَّةِ وَمَتَّبِعِ الدَّقَائِقِ اللَّطِيفَةِ

مطلقہ، لاہونیہ کے سرچشمہ پر اور دقائق لطیفہ متقیدیہ جسامتہ کے

الْمَقَيَّدَةِ النَّاسُوتِيَّةِ صُورَةَ الْجَمَالِ وَمَطْلَعِ الْجَلَالِ وَجَلِي الْاَلُوْهِيَّةِ

منبع پر جو جمال کی صورت اور جلال کا مطلع اور الوہیت کی جلوہ گاہ ہیں اور سرربستہ

وَسِرِّ اِطْلَاقِ الْاَحْدَاثِ وَعَرْشِ اِسْتِوَاءِ الذَّاتِ وَوَجْهِ مَحَاسِنِ

راز ہیں احدیت مطلقہ کے اور عرش ہیں تیری ذات کے استواء و غلبہ کا اور چہرہ اور منظر ہیں حسین

الصِّفَاتِ وَمَزْيَلِ بُرْقَعِ حِجَابِ ظُلُمَاتِ اللَّيْسِ بِطَلْعَةِ شَمْسِ

صفات کا۔ اور زائل کرنے والے ہیں اشتباہ و اقتباس کی ظلمات کے حجاب و برقع کو ساتھ نفیس ترین ذات کے

حَقَائِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ الْاَنْفِيسِ عَنْ وَجْهِ تَجَلِّيَاتِ الْكَمَالِ الْاِلَهِيِّ

حقائق کنہ و باطن کے آفتاب کی طلعت کے الوہیت کے کمال اقدس کی تجلیات کے چہرہ سے

الْاَقْدَسِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ جَمْعِ اَحْدَاثِ الذَّاتِ الْحَقِّ فِي رِقِّ تَشْوِيرِ

جو لکھی ہوئی کتاب ہیں ذات حق کی احدیت کے مرتبہ جمع کے وسیع و عریض طومار میں جو کہ ہے شوق الہیہ

تَجَلِّيَاتِ الشُّعُونِ الْاِلَهِيَّةِ الْمُسْتَسِي بِكَثْرَةِ صُورِهَا بِالْخَلْقِ وَجَانِبِ

کے تجلیات کا جس کو موسوم کیا گیا ہے صورتوں کی کثرت کی وجہ سے خلق کے ساتھ اور جو جانب امین ہیں کوہ طور

طُورِ الْحَقَائِقِ الرُّوحِيَّةِ الْاَيْمَنِ الْمَكْلَمِ مِنْهُ مُوسَى النَّفْسِ يَا اَنَا اللهُ

کی بارگاہ قدس میں واسطے حقائق روحیہ الایمن کے جس سے موسیٰ نے نفس کے ساتھ کلام کیا گیا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں

لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ يَا كَامِلَ الذَّاتِ يَا جَمِيْلَ الصِّفَاتِ يَا

نہیں معبود برحق مگر میں۔ اے کامل ذات والے، اے جمیل صفات والے۔ اے

مُنْتَهَى الْغَايَاتِ يَا نُورَ الْحَقِّ يَا سِرَاجَ الْعَوَالِمِ يَا مُحَمَّدًا يَا أَحْمَدًا يَا

تمام غایات کا منتہا۔ اے نور حق۔ اے تمام جہانوں کے روشن چراغ۔ اے محمد۔ اے احمد۔ اے

أَبَا الْقَاسِمِ جَلَّ كِبَالُكَ أَنْ يُعْبِرَ عَنْهُ لِسَانٌ وَعَزَّ جِبَالُكَ أَنْ يَكُونَ

ابوالقاسم تیرا کمال اس سے بلند تر ہے کہ اسے کوئی زبان بیان کر سکے اور آپ کا جمال عزیز و غالب اس سے کہ وہ

مُدْرِكًا لِإِنْسَانٍ وَتَعَاظِمَ جَلَالِكَ أَنْ يَخْطُرَ فِي جَنَانِ صَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ

احاطہ کیا ہوا ہو کسی انسان کا اور آپ کا جلال عظیم تر ہے اس سے کہ کھٹکے کسی دل میں۔ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائے اللہ سبحانہ

وَتَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مَجْلَى الْكِمَالَاتِ الْإِلَهِيَّةِ

و تعالیٰ آپ پر یا رسول اللہ۔ اے کمالات الہیہ کی عظیم تر جلوہ گاہ

الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سُلْطَانِ حَضْرَاتِ الذَّاتِ مَالِكِ أَرْمَةِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما اپنی ذات والا کی بارگاہوں کے سلطان

تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ وَقُطْبِ رَحَى عَوَالِمِ الْاُلُوْهِيَّةِ وَكَثِيْبِ الرُّوْيَةِ

پر۔ تجلیات صفات کی لگاموں کے مالک پر۔ الوہیت کے جہانوں کی چکی کے قطب و مرکز پر اور اپنی رویت

يَوْمَ الدَّوْرِ الْأَعْظَمِ فِي مَشَاهِدِكَ الْجَنَانِيَّةِ وَجِبَالِ مَوْجِ بَحَارِ

کے طور ٹیلے پر دور اعظم میں اپنی قلبی مشاہد و جلوہ گاہوں میں اور ذات احدیہ کے سمندروں کی

الذَّاتِ الْاَحْدِيَّةِ وَطَلِسْمِ كُنُوْزِ الْمَعَارِفِ الْاِلَهِيَّاتِ الدَّائِيَّاتِ وَ

پہاڑوں جیسی موج اور لہر پر الوہیات کے معارف ذاتیہ کے خزانوں کے (محافظ) طلسم پر اور مخلوقات کے صفات احاطیہ کے

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى الْاِحَاطِيَّاتِ الْاَخْلَقِيَّاتِ الصِّفَاتِيَّاتِ وَبَيْتِ مَعْمُورِ

سدرة المنتہی پر باری تعالیٰ کی کتبہ و حقیقت کی تجلیات ذاتیہ کے بیت معمور پر

التَّجَلِّيَّاتِ الْكُنْهِيَّاتِ الدَّائِيَّاتِ وَسَقْفِ مَرْفُوعِ الْكِمَالَاتِ الْاِسْمَائِيَّةِ

کمالات اسمائیہ کی بلند و بالا چھت پر۔ علوم لدنیہ کے اُبتے سمندر پر

وَبِحَرَمِ سَجُورِ الْعُلُومِ الدِّدِيَّاتِ وَحَوْضِ الْاُلُوْهِيَّةِ الْاَعْظَمِ الْمُبْدِي لِبَحَارِ

الوہیت و وجوب کے عظیم تر حوض پر جو معاون و مدد ہے صورتہائے عالم کی

أَمْوَاجِ صُورِ الْكَوْنِ الظَّاهِرَةِ مِنْ فَيُوضِ حَقَائِقِ أَنْفَاسِهِ وَقَلَمِ

امواج کے سمندروں کے لیے جو صورتیں ظہور پذیر ہوتے والی ہیں ان کے انفاس حقائق کے فیوض سے اور

الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْعَظِيمَةِ وَالْكَاتِبِ فِي لَوْحِ نَفْسِهِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ

عظیم ترقدرت الہیہ کے قلم پر اور اپنے لوح نفس میں لکھنے والے پر جو کچھ ہو چکا اور جو ہو گا

مِنْ مَحَاسِنِ مُبْدَعَاتِ الْعَالَمِ وَتَقْلِيَابَاتِهِ وَجَمَالِ كُلِّ صُورَةٍ الْإِلَهِيَّةِ وَسِرِّ

جہان کے ایجادات کے محاسن اور تغیرات سے اور ہر صورت الہیہ کے جمال مجسم پر اور اس کے سر

حَقِيقَتِهَا غَيْبًا وَشَهَادَةً وَجَلَالِ كُلِّ مَعْنَى كَمَا لِي بِدَاءِ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حقیقت پر از روئے غیب و شہادت کے اور ہر معنی کمال افتتاحی کے جلال مجسم پر۔ اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ سِرًّا مِنْ سِرِّكَ وَنُورًا مِنْ نُورِكَ وَرُوحًا مِنْ أَمْرِكَ يَوْمَ تَنْزِي

مجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رازوں میں سے ایک راز کا اور مخصوص انوار میں سے نور کا اور تیرے عالم امر سے روح کا جو مجھے

السُّكُونِ لِمَقْدُورِكَ وَوَفَّقْتَنِي بِتَوْفِيقِكَ يَوْ قَطَعْتَنِي مِنْ غَفْلَتِي وَ

دراست بنانے سکون و قرار کا تیرے مقدر امر پر اور مجھے خاص توفیق مہیا فرما جو مجھے غفلت سے جگانے اور

يَعْلِمَنِي جَهْلِي وَيُوضِعُ إِلَيْكَ طَرِيقِي وَيَكُونُ فِي النَّجْعَةِ وَالرَّجْعَةِ

علم سے بدل دے میرے جہل کو اور واضح کرے میرے لیے راستہ کو اور میری رفیق ہو آغاز و ابتداء میں اور بازگشت میں

رَفِيقِي فِيكَ إِجْتِهَادِي وَعَلَيْكَ إِعْتِمَادِي وَإِلَيْكَ مَرْجِعِي وَبَيْنَ

تیرے لیے ہی میری سعی ہے اور تجھی پر میرا اعتماد ہے اور تیری طرف ہی میری بازگشت ہے اور تیرے سامنے اور

يَدَيْكَ مَصْرَعِي تَعْلَمُ حَقِيقَةَ أَمْرِي وَسُؤْلِي لَدَيْكَ سِرِّي وَجَهْرِي

رو برو ہے میری ہلاکت و فنا۔ تو جانتا ہے میرے معاملہ کی حقیقت اور میرا مطلوب تیرے سامنے ہے میرا اندرون اور بیرون۔

تَعَالَيْتَ عَنْ سَمَاتِ الْمَحْدَثَاتِ وَتَنَزَّهْتَ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْأَفْطَاتِ

تو بلند تر ہے محدثات کے علامات و نشانات سے اور تو منزہ ہے نقائص اور آفات سے

وَتَقَدَّسَ عَنْكَ عَنْ مُعَارَضَةِ الشَّهَوَاتِ الْإِلَهِيَّ أَسْأَلُكَ تَوْبَةً كَرِيمَةً

اور پاک ہے تیرا علم خواہشات کے معارضہ و رکاوٹ سے۔ اے میرے الٰہ میں مجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی توبہ کا کہ جس کے طفیل

بِهَازِلِي وَتُثْقِلُ بِهَا عَمَلِي وَتُصَلِّحُ بِهَا ظَاهِرِي وَتُطَهِّرُ بِهَا بَاطِنِي

مٹائے میری لغزش کو اور وزنی بنائے میرے عمل کو اور درست فرمائے میرے ظاہر کو اور پاک فرمائے میرے باطن کو

وَتَجْمَعُ بِهَا شِبْلِي وَتُقَدِّسُ بِهَا سِرِّي وَتُبَسِّرُ بِهَا تَقْدِيرِي وَتُزَكِّي

اور جمعیت بخٹے میرے پراگندہ امور کو اور پاک فرمائے میرے باطن کو اور آسان فرمائے بظیفیل اس کے میری تطہیر اور پاک کرے

بِهَافْسِي وَتُطَهِّرُنِي بِهَا مِنْ رَجْسِي وَهَبْ لِي نُورَ اَمْنِكَ اَمْشِي بِهِ فِي

میرے نفس کو اور پاک فرمائے مجھے ہر پلیدی سے اور مجھے عطا فرما اپنا خاص نور کہ اس کے ساتھ میں لوگوں میں

النَّاسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ الذُّنُوبِ شَيْئًا وَ

روشنی پھیلاتا رہوں۔ اے اللہ مجھے وصل بخش اپنے عظیم اسم کے ساتھ کہ ضرر نہیں دیتے گناہ اس کے ساتھ ذرہ بھرا اور

اجْعَلْ لِي مِنْهُ وَجْهًا تَقْضِي بِهِ حَوَائِجَ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ وَالرُّوحِ وَالشُّوقِ

مجھے بظیفیل اس کے ایسی وجاہت عطا فرما کہ پورے فرمائے بسبب اس کے تمام حاجات میرے قلب و عقل کے اور روح و شوق

وَالنَّفْسِ وَالْبَدَنِ وَادْرِجْ اَسْمَاءِي تَحْتَ اَسْمَائِكَ وَصِفَاتِي تَحْتَ

کے اور نفس و بدن کے اور مندرج فرما میرے اسماء کو اپنے اسماء میں اور میری صفات کو اپنی

صِفَاتِكَ وَاَفْعَالِي تَحْتَ اَفْعَالِكَ اِلَى دَرَجَةِ السَّلَامَةِ عَنِ

صفات میں اور میرے افعال کو اپنے افعال میں انہیں لے جاتے ہوئے طرف راہ سلامت کے

الْاِسْقَاطِ وَالنَّدَامَةِ وَتَنْزِلِ الْكِرَامَةِ وَظَهُورِ الْاِمَامَةِ وَكُنْ لِي

گرائے جانے اور ندامت اٹھانے سے بمع نزول کرامت اور ظہور امامت کے اور تو میرا مددگار ہو ان

فِيْمَا اِبْتَلَيْتَ بِهِ مِنْ اَيِّمَةِ الْهُدٰى مِنْ عِلَيْكَ وَاَمْتِنِي حَتّٰى تَفْنِي

امور میں کہ آزمایا ان کے ساتھ ائمہ ہدیٰ کو اپنے علم سے۔ اور مجھے اختیاری موت دے حتیٰ کہ فنا کر دے

بِيْ مِنْ شِدَّتِ وَاَحْيِنِي حَتّٰى تُحْيِيْ بِيْ مِنْ شِدَّتِ مِنْ عِبَادِكَ وَاجْعَلْنِي

میرے ذریعے جس کو چاہے اور عطا فرما مجھے ایسی زندگی کہ زندہ کر دے میرے ذریعے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اور بنا دے

خَزَانَةَ الْاَرْبَعِيْنَ وَمِنْ خَاصَّةِ الْمُتَّقِيْنَ وَاعْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَنْالُهُ

مجھے خزانہ چلکشتیوں کا اور خاص متقیوں سے اور مجھے بخش دے کیونکہ مغفرت و بخشش کو نہیں پاتے

الظالمون يَا اللَّهُ افْتَحْ قَلْبِي بِنُورِكَ وَعَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ وَاحْفَظْ

اہل ظلم۔ اے اللہ میرا دل اپنے نور کے ساتھ کشادہ فرما اور مجھے عطا فرما اپنے مخصوص علم سے اور مجھے محفوظ فرما

بِحِفْظِكَ وَأَسْبِعْنِي وَفَهِّمْنِي عِلْمَكَ وَبَصِّرْنِي بِكَ وَسَبِّبْ لِي سَبِيلًا

اپنی حفاظت خاصہ کے ساتھ اور مجھے سنا اور سمجھا اپنا علم۔ اور مجھے صاحب بصیرت بنا اپنے متعلق اور مہیا فرما میرے سبب

مِنْ فَضْلِكَ تُغْنِينِي بِهِ مِنَ الْفَقْرِ وَتُعِزِّنِي بِهِ مِنَ الدَّلِّ وَتُصَلِّحْ

اپنے فضل سے جس کے ذریعے بے پروا کرے مجھے فقر سے اور عزت دے مجھے حقارت سے اور میری اصلاح فرمائے

لِي بِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَتَصِلْنِي بِهِ إِلَى نَظَرِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جَنَّةِ

بسبب اس کے دنیا و آخرت میں اور واصل فرمائے بسبب اس کے اپنی ذات کریمہ کے دیدار تک جنت

التَّعِيمِ ثُمَّ أَسْأَلُكَ بِقِيُومِيَّتِكَ أَنْ تُقِيمَنِي إِلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَيَاتِكَ

نییم میں میں پھر سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیری قیومیت کے کہ مجھے قائم فرمائے اپنی طرف اور سوال کرتا ہوں تجھ سے

حَيَاةَ الْقَلْبِ وَسَلَامَتَهُ كَذَلِكَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفِي مَا

تیری حیات کے طفیل قلبی حیات کا اور اسی طرح اس کی سلامتی کا دین و دنیا اور آخرت میں اور ان

بَيْنَهُمَا وَاحْفَظْ عَلَيَّ جَمِيعَ ذَلِكَ يَا مَنْ لَا يُودِعُ شَيْءًا مِمَّنْ حَفِظَهُ نَأْمًا

دونوں کے درمیان یعنی برزخ میں اور محافظت فرما ان تمام امور میں اے کہ جسے نہیں تھکاتی کوئی شئی حفاظت کرنے سے اے بزرگ

إِلَى أَنْ أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ يَا اللَّهُ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ مِّنْكَ وَالْعَمْرُ

یہاں تک کہ میں تجھ سے ملاقات کروں اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو اے اللہ حسین ترین حالت میں اور خوش دلی کی

بِأَكْبَلِ الْمَحَنَةِ وَالْأَعْقُوبِيَّةِ فِي الدِّينِ وَالْأَخِرَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَوْلَادِ فِي

کیفیت میں بغیر کسی محنت اور عقوبت کے دین و دنیا میں اور نہ اولاد و مال میں اور

الْمَالِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ احْفَظْ

نہ آخرت میں بطفیل اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں محفوظ فرما

يَا ذَاتِ الْكُرْيمَةِ وَالْأَسْمَاءِ الْعَظِيمَةِ أَسْأَلُكَ رِزْقًا غَالِبًا غَيْرَ مُغْلَبٍ

اے کریم ذات والے اے عظیم اسماء والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے رزق کا جو غالب ہو مغلوب نہ ہو

طَالِبًا غَيْرَ مُطْلُوبٍ بِأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اور طالب نہ ہو بطفیل اپنے اس قول کے تو نے ان پر انعام فرمایا نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا

أَمِينَ اللَّهُ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ

آمین۔ اے اللہ اگر میرا رزق آسمان میں ہے تو اس کو اتار اور زمین ہے تو اس کو نکال

فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَبَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ

اور اگر دور ہے تو اسے قریب فرما اور قریب ہے تو آسان فرما اور معدوم ہے تو

مَعْدُومًا فَأَوْجِدْهُ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا فَأَثْبِتْهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا

موجود فرما اور محال و منتہی ہے تو اسے ثابت و محقق فرما اور تھیل ہے

فَاكْثِرْهُ وَبَارِكْ اللَّهُمَّ وَفِيهِ وَآتِنِي بِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَتَوَكَّلْ أَنْتَ

تو کثیر اور بابرکت بنا اے اللہ عطا فرما مجھے اپنی بارگاہ سے اور متولی و کار ساز ہو

أَمْرِي فِيهِ وَاجْعَلْ يَدَيَّ عَالِيَةً بِالْإِعْطَاءِ وَلَا تَجْعَلْهَا سُفْلَى

میرا اس امر میں اور میرے ہاتھ کو بند و برتر بنا ساتھ عطا کرنے کے اور نہ پست بنا اسے

بِالْإِسْتِعْطَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا رِزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنُ

بسب طلب و سوال کے بطفیل اپنی رحمت کے اے رزق۔ اے فتاح۔ اے کریم اے رحیم۔ اے رحمن

أَجِبْ دُعَائِي بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ

قبول فرما میری دعا اپنے فضل و کرم سے، بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَلْهَامِنِ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ بِالثَّلَاثِ الْعَصَى وَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے اسم اعظم (اللہم) کی ہا کے بطفیل بمع تین (حروف آلا) کے جو اٹھویں

الْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ وَبِالْيَمِينِ الطَّبِيسِ الْأَبْتَرِ وَاللَّامِ وَالْأَرْبَعَةِ

کی مانند ہیں۔ اور الف مقصورہ کے اور یمین کے جو مٹے ہوئے اور اندھے (سرے والا) اور آخر سے کٹا ہوا ہے اور بطفیل لام کے اور بطفیل چاروں حرف

الَّتِي كَالْكَافِ بِلَا مَعْصِيَةٍ وَبِالْهَاءِ الْمَشْقُوقَةِ وَالْوَاوِ الْمَعْظَمِ

کے جو ک کی مانند بغیر جوڑ اور کلانی کے ہیں اور بچاڑی ہوئی ہ کے اور (و) کے جو کہ واو معظم کی مانند ہے کہ جو صورت

کے جو ک کی مانند بغیر جوڑ اور کلانی کے ہیں اور بچاڑی ہوئی ہ کے اور (و) کے جو کہ واو معظم کی مانند ہے کہ جو صورت

صُورَةٌ اسْمِكَ الشَّرِيفِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرَحْمَتِكَ

ہے تیرے اسم شریف اسم اعظم کی کہ صلوٰۃ نازل فرمائے سیدنا محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ حَرْفٍ جَارِي بِهِ الْقَلَمُ وَأَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ہر اس حرف کے کہ جاری ہوا ساتھ اس کے قلم قدرت اور پوری فرما میری ہر حاجت۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِطَاءِ طَوْلِكَ وَبِبَاءِ بَقَائِكَ وَبِقَافِ قُدْرَتِكَ وَبِتَاءِ تَبَرُّكَ

تیرے طول و طاقت کی طاء کے طفیل اور تیری بقا کی باء کے طفیل اور تیری قدرت کے قاف کے طفیل اور تیرے تبرک کی تاء کے

وَبِتَاءِ ثُبُوتِ مُلْكِكَ وَوَسْعِ كُرْسِيِّكَ يَا مَنْ لَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ

طفیل اور تیرے ملک کے ثبوت (وردوام) کی تاء کے طفیل اور تیری کرسی کی وسعت کے طفیل اے کہ جس کو اشتباہ میں نہیں ڈالتے ظنون

فِي مُلْكِهِ يَا مَنْ يُسْتَجِيرُهُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا وَهُوَ

اپنے ملک میں۔ اے کہ جس سے ہر شئی پناہ طلب کرتی ہے اور مخلوق میں سے سبھی اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اسے پناہ نہیں

بِهِ يُسْتَجِيرُ وَلَا يَجَارِي فِي مُلْكِهِ اللَّهُمَّ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا

دی جاتی اپنے ملک میں، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ کیونکہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے نفع کا

وَلَا ضَرًّا إِلَّا بِإِذْنِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدْتَهُ بِهِ

اور نہ نقصان کا مگر تیرے اذن سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس وعدہ کے طفیل جو تو نے کیا

أَنْبِيَائِكَ وَأَرْشَدْتَهُ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ يَا جَلِيلٌ يَا عَظِيمٌ يَا قُدُّوسٌ

اپنے انبیاء کے ساتھ اور رہنمائی فرمائی ساتھ اس کے اپنے اولیاء کی۔ اے اللہ اے جلیل۔ اے عظیم۔ اے قدوس

يَا اللَّهُ يَا مَنْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِكَ

اے اللہ اے کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک۔ اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل تیرے عز و جاہ

وَبِعَيْنِ عِلْمِكَ وَبِعَيْنِ غُفْرَانِكَ وَبِقَاءِ فَضْلِكَ وَبِكَبْرِ بَارِعَتِكَ

اور تیرے علم کی عین کے طفیل اور غفران کی عین اور فضل کی فاء کبریائی کی کاف

وَبِلَامِ لُطْفِكَ وَبِبَاءِ يَقِينِكَ وَبِأَلْفِ الْوَهْيَتِكَ وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَ

لطف کے لام۔ یقین کی باء کے طفیل۔ الوہیت کی الف اور ضیاء کی ضاد اور

وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَ

وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَبِضَادِ ضِيَاءِكَ وَ

بِرَّاءِ زِينَتِكَ وَيَشِينِ شِفَائِكَ وَبِقَافِ الْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ وَبِلَامِ

تیری زینت کی زاء اور شفاء کی شین اور قدرت و احاطہ کے قاف اور لوح و لطف کے لام

اللَّوْحِ وَاللُّطْفِ وَبِهَاءِ الْهَيْبَةِ وَالْهُدَايَةِ وَبِوَاوِ الْوِلَايَةِ أَنْ تَجْعَلَ لِي

اور ہیبت و ہدایت کی ہاء اور ولایت کی واؤ کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ پیدا فرمائے میرے لیے

قُدْرَةً وَإِحَاطَةً عَلَى دَقَائِقِ الْكَائِنَاتِ اللَّوْحِيَّةِ مُبْتَهَجًا بِبَاءِ الْهَيْبَةِ

قدرت و احاطہ لوح محفوظ کی کائنات کے دقائق پر جبکہ میں فرجاں و شاداں ہوں ساتھ ہیبت کی باء کے

مُهْتَدِيًا هَادِيًا لِمَنْ شِئْتَ هِدَايَتَكَ أَنْتَ الْهَادِي مَنْ اسْتَهْدَيْتَكَ يَا مَنْ

ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا ہر جاؤں ہر اس شخص کو جس کی ہدایت تو چاہے تو ہی ہدایت دینے والا ہے طالب ہدایت

تَنْزَعًا عَنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَالتَّغْيِرَاتِ وَالتَّعْطِيلَاتِ وَالْحَوَادِثِ وَالتَّنْظِيرِ

کو لے کر جو منزہ ہے تمام جہات اور تغیرات سے اور تعطل و بیکاری سے اور حوادث سے اور نظیر و

وَالصِّدِّ وَالْإِنْقِسَامِ وَالْعَدَدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَا وَاحِدٌ فِي دِيْمُومِيَّةِ

اصداد سے اور انقسام و تعدد سے۔ فرما دو وہ اللہ یکتا ہے۔ اے جو یگانہ ہے اپنے دوام اور شان قدیمی میں

الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ تَحْوِيلٍ وَلَا تَجَسُّمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِوَاوِ الْوَحْدَانِيَّةِ

تغیر و تبدیل سے اور جسمانیت اختیار کرنے سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وحدانیت کی واؤ کے طفیل

وَالْأَلْفِ الْمَعْطُوفِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ النَّشْأَةِ الدَّوْرِيَّةِ وَبِحَاءِ الْحَيَوَةِ

اور الف معطوفہ مدورہ کے طفیل جو کہ اصل ہے کردی مخلوقات کی اور بطفیل حیات

الْأَزَلِيَّةِ وَبِدَالِ الدَّوَامِ الْإِبْدِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَصْرِ وَوَقْتٍ وَعَدَدٍ وَلَا

ازلیہ کی حاء کے اور دوام ابدیت کی دال کے بلا کسی حصر اور توقیت اور تعداد کے اور

صَاحِبَةِ وَلَا وَلِيٍّ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحَدًا مِّنْ

بغیر بیوی اور بیٹے کے۔ تو ہی اللہ ہے واحد و یکتا۔ اے اللہ مجھے بنا دے یکتا اپنے یکتا

الْأَحَادِ وَفَرْدًا مِّنَ الْأَفْرَادِ وَأَمُدُّنِي بِنَشْأَةٍ مِّنْ نَّشْأَةِ الرُّوحَانِيَّةِ

اور یگانہ روزگار لوگوں سے اور منفرد انفرادی شان والوں سے اور میری امداد فرما ساتھ ایجاد خاص کے الف معطوفہ مدورہ کی روحانی نشاۃ

الْأَلْفِ الْمَعْطُوفِ حَتَّىٰ أَخُوْضُ بِعَوْضِ ذَلِكِ بِجَاهِ الْمُقَرَّبِينَ

وایجاد سے حتیٰ کہ میں داخل ہو جاؤں اس کے عوض بطفیل تیرے مقربین کی عنود جاہ کے

الْأَفْرَادِ وَأَخِي نَفْسِي بِتَفْحَةٍ حَكِيمَةٍ مِّنْ تَفْحَاتِكَ وَرَوْحَانِيكَ

افراد منفردہ میں اور زندہ فرما میرے نفس کو ساتھ حکمت والی تمک کے اپنی تمکوں میں سے اور ساتھ روحانیت کے

مَمْدُودَةٍ بِعَظِيمِ الْأَمْدِ حَتَّىٰ أَكُونَ رَاجِيًّا مِّنَ السَّعَادَةِ وَالْإِشْرَاقِ

جو بڑھائی گئی ہو عظیم امداد کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جاؤں امیدوار سعادت و ارشاد کا اور

وَرَجِيْهَا بَيْنَ عِبَادِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْمَعَادِ وَأَسْأَلُكَ بِصَادِ الصِّدْقِ وَالصَّبْرِ

صاحب و جاہت تیرے بندگان خاص میں قیامت تک کے لیے اور میں سوال کرتا ہوں بطفیل صدق و صبر کی صاد

وَبِيْمِ السُّلْكِ وَالْمَجْدِ وَبِيَاءِ الْيَقْظَةِ وَالْيَقِيْنِ أَنْ تَجْعَلَنِي صَادِقًا صَادِقًا

اور ملک و مجد کی میم اور یقظہ (بیداری) اور یقین کی یاد کے طفیل کہ بناؤں مجھے صادق و صدوق

مَالِكًا كَاجِيدًا مُّبَجَّدًا بِالْيَقْظَةِ مُعْتَقِدًا بِالْيَقِيْنِ مَمْدُودًا مِّنْ عَظِيمِ كَرَمِكَ

مالک، بزرگ اور بڑائی دیا ہوا ساتھ بیدار مغزی کے، صاحب اعتقاد ساتھ یقین کے، مدد دیا ہوا اپنے کرم عظیم سے

وَصِدِّيقًا مِّنْ مَّلاَئِكَتِكَ اسْتَعِيْنُ بِهٖ عَلَىٰ صِلَاحِ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور بنائے میرے صدیق اپنے ملائکہ میں سے کہ مدد حاصل کروں اس سے دنیوی اور اخروی امور کی اصلاح میں

وَأَجْعَلْ لِّيْ عَوْنًا مِّنْ غَيْرِ عَائِقٍ مُّضِرٍّ إِلَىٰ الْآبِدِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِكَافٍ

اور بنائے میرا معاون بغير کسی ضرر رسال رکاوٹ کے ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ میری کفایت فرما بطفیل اپنی کفایت کا

كِفَايَتِكَ حَتَّىٰ لَا أَلْتَجِيَّ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ مَّخْلُوقَاتِكَ وَنُورِ نُوْرًا نُّوْرَكَ

کے حتیٰ کہ میں نہ پناہ ڈھونڈوں تیری مخلوق میں سے کسی کی اور مجھے منور فرما اپنی نورانیت کے نور سے یہاں تک

حَتَّىٰ أَفُوْزَ بِفَاءِ الْفَوْزِ وَالنَّجَاةِ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِينَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ

کہ میں کامیاب ہو جاؤں بطفیل فوز و نجات کی خاد کے تیرے مقرب بندوں کے درمیان بے شک تو ہر

شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ قَدْرِيْ بِقَدْرِ مَحَبَّتِكَ لَا رُوْحَ إِلَّا بِكَ

شئی پر کامل و متوسر والا ہے۔ اے قادر۔ اے صاحب اقتدار مقدر فرما میرے لیے (اپنی محبت) مطابق اپنی محبت کے ساتھ ارواح انبیاء

وَالْأَوْلِيَاءِ فِي رُوحِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

داویاء کے میری روح میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُكُلٍ رَدِيٍّ وَرَمْلٍ وَخَدَلٍ وَجَزَلٍ وَخَزَلٍ وَرَقِيْقٍ

محمد پر مطابق تعداد ہر روی شئی اور ریت کے اور ہر پر گوشت اور فریب کے اور گرانبار اور باریک

وَخَاقٍ وَوَحْدِقٍ وَحَلِقٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور متوسط اور چابک و چیت اور بن بال کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُكُلٍ رَدِيٍّ وَرَهْيَاءِ رَجَبٍ وَرَدِيٍّ وَرَسِيبٍ وَوَحِبٍ

محمد پر مطابق تعداد ہر پشیمان اور سہارا کے اور کمزور و کابل کے اور شرمیلے کے اور بند کوبے اور تیز دھار والی تلوار کے اور محبت

وَوَحِيَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و یاہمی دوستی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

بَعْدَ دُكُلٍ رَطِيٍّ وَرُعْبٍ وَرَعِيْبٍ وَرَقِيْبٍ وَرَيْبٍ وَرَغِيْبٍ وَرُقُوبٍ

مطابق تعداد ہر تر و تازہ اور رعب و دبدبہ اور رغبت کے اور ہر نگران و محافظ اور ریب و زرد اور مرغوب و پسندیدہ اور انتظار کے

وَرُكُوبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سوار ہونے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ دُكُلٍ رَيْتٍ وَوَيْتٍ وَرَيْثَةٍ وَرَايَةٍ وَرَايَةٍ وَوَحَايَةٍ وَوَجْوَاهِ

مطابق تعداد ہر سخت اور پھیلائے ہوئے کے اور کمزور حالت اور انتظار و مہلت اور امیدوار اور چکنے والے اور کچے اندرائں اور حج کرمبولوں

وَرَوَائِحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تمام تر خوشنویوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ دُكُلٍ رَيْبٍ وَرَخَائِجٍ وَرُخُودَةٍ وَرُشْدٍ وَرَفْدٍ وَرَأْشِدٍ وَرُشْدٍ

مطابق تعداد ہر منفعت اور ضعیف و ناتواں اور ملائمت و نرمی کے اور بھلائی و عطیہ کے اور رد کرنے کے اور ہدایت یافتہ اور ہدایت

وَرُشْدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور صاحب رشد و ہدایت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

بَعْدَ كُلِّ رَقْدٍ وَرَكُودٍ وَرُؤْيٍ وَرَبِيضٍ وَرَبْرَجٍ وَحَيُودٍ وَحَبِيدٍ وَخَبِيدٍ

مطابق تعداد نیند اور ایڑی مارنے اور درغلانے کے اور ہر زیرک و دانا کے اور گناہ اور بازگشت اور ہر حمد اور لائق حمد کے

وَحُوذِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

اور احاطہ و حفاظت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

كُلِّ زَوْجٍ وَزِيَاطٍ وَنَرِيغٍ وَزَافٍ وَزُخُوفٍ وَزُخْرَفٍ وَجُدُوفٍ وَبَدِيقٍ

ہر جفت کے اور ہر پیچ و پیکار کے اور ناز و ادا سے چلنے والے اور منگبر کے اور تراش و خراش اور تیز رفتاری اور

وَجَزْفِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تخمینہ و اکل پیچ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ كُلِّ زُقْفٍ وَزَعْرِفٍ وَزَعْفٍ وَزَلْفٍ وَزَبَعِيْقٍ وَذَبَابٍ وَذَرْبٍ وَ

مطابق تعداد ہر اچکے اور وافر پانی والے اور ہر ٹکڑے اور ہر درجہ اور بدخلق و بدکردار اور ہر کھسی اور لاعلاج بیماری

ذَعَابٍ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

اور زور سے برسنے والے بادل کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ زُحْلِقٍ وَزِدْقٍ وَزُعْبِقٍ وَزُعَاقٍ وَزُعْلُوقٍ وَخَلُوقٍ وَخِلَاقٍ وَ

ہر پھسلن اور سبجائی اور پراگندہ اور سخت کڑوے پانی اور شادمان اور مرکب خوشبو اور زعفرانی پوڈر اور

خُفُوقٍ وَخَفِيْقٍ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

چمک و دھک کے اور مہیبت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ زُقْرَاقَةٍ وَزَيْقٍ وَزَهْرَقَةٍ وَزَاعِقٍ وَزِهَاقٍ وَدُورِقٍ

پر مطابق تعداد ہر چونکہ دینے والے جانور اور پھسلن اور دوری اور چلانے والے اور نیستی و نابودگی اور بڑے لوٹے اور

وَحِلْقٍ وَرَاجِقٍ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر مویشی اور ہر خالص شے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ زَبَعِيْكٍ وَزَبْتَلٍ وَزَجِلٍ وَزَغْفَلٍ وَزَفْقَلَةٍ وَخَلَقَةٍ

پر مطابق تعداد ہر بدکردار اور کوناہ قامت اور الگ نھنک اور کذاب اور سرعت اور حاجت اور

خَيْرَةٌ وَخَلُوتِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خیر والی اور ہر ذمت کے لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سَوَادٍ وَسَاكِينٍ وَسَعِيدٍ وَعَدِيدٍ وَعَسْبِدٍ وَعِدَادٍ اللَّهُمَّ

پر مطابق تعداد ہر سیاہی اور ساکن اور نیک بخت اور تیار شئی کے اور ہر جوہر اور گنتی و شمار کے لئے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سَاعَةٍ وَسَاعَةٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر حسن و جمال کے اور ہر ساعت کے

وَسَعْسَعٍ وَسَوْغٍ وَسِجَافٍ وَكُفٍّ وَكُشَافٍ وَكَفَافٍ اللَّهُمَّ

اور ہر تحریک و جنبش اور خوشگواری اور پردہ اور جانب و پہلو اور محبت و الفت اور کھولنے والے اور گزران کے لئے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سُرْعَةٍ وَسُرْعَةٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ہر ناز و نعمت والے

وَسَفِيْفٍ وَسَلْفٍ وَسَوْفٍ وَسَاهِفٍ وَعَفَافٍ وَعَكُوفٍ وَعَاكِفٍ

اور کھجور کے پتوں کی ٹوکری اور پیش رو اور صبر و تابخیر اور فرحت والے اور پاکدامنی اور دست بستہ قیام اور متکلف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ

لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر

سُحْقٍ وَسَيْلَاقٍ وَسُقِّقٍ وَسَمُوقٍ وَسَهُوقٍ وَعَبِقٍ وَعَتَاقٍ وَعَتِيقٍ اللَّهُمَّ

دوری کے اور تیز رفتار سواری اور بندش و رکاوٹ اور ترش چھل والے ذمت اور کذاب اور نمک اور قوت و توانائی اور آزادی کے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سَفْوِكٍ

لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر خوریزہ نظام اور

وَسُبْتِلٍ وَسَتْلٍ وَسِفَالٍ وَسَخْمٍ وَعَمَلٍ وَعَمُولٍ وَعَنَادِلٍ وَعَوَلٍ اللَّهُمَّ

بہزیوں کے بیچ تنگ راستہ اور ہر کمینہ و رزق اور بعض و کینہ اور عمل اور شریک عمل اور تمام بلیوں اور بازگشت کے لئے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ سُدِّعٍ وَسُرْعَةٍ وَسُرْعَةٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر رنج و الم اور سرعت اور

سَاكِعٌ وَسَمِيعٌ وَسَمِعٌ وَفِينِعٌ وَقَنِعٌ وَصَنِيعٌ وَقَلْبٌ وَفَلَوٌ وَاللَّهُ

مسافر و اجنبی اور سننے والے اور سننے اور مالدار اور کثرت سخا اور بخیلی اور بہت کاٹنے والے اور تمام کمزوروں کے لئے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَسَبْحِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر شے اور بد بخت

وَشَيْطَانٍ وَشَعْرٍ وَشَرَفٍ وَشَطَافٍ وَشَنْطُوفٍ وَشَحْسَارٍ وَشَرِّ شَارِبٍ

اور شیطان کے اور ہر بال اور بلندی اور ہر تنگی اور سختی اور ہر شے کی فرع اور دراز قد اور ہر پھین یا مگرے

وَشَطْرٍ وَشَنْزَرَةٍ وَشَرِيْرٍ وَشَائِسٍ وَشَحْطٍ وَشَقِيْظٍ وَشَسْطٍ وَ

اور جزو حقہ اور موٹائی و سختی اور صاحب ہلاکت و شدت اور پتھری جگہ اور آلودگی اور ٹھیکری اور رکاوٹ اور

شَوَاظٍ وَشَبِيعٍ وَشَرْجِعٍ وَشَعْلَةٍ وَشَوْعٍ وَشَوْقٍ وَشَرْمٍ وَشَحْنٍ

آگ کے شعلے اور سیری اور دراز قد اور طویل قامت اور بالوں کی پراگندگی۔ شوق و ذوق اور سندر کے گہرے حقے

وَشَطْرٍ وَشَوْبُوبٍ وَشَبِيْحٍ وَكَلْبٍ وَكَسِيْحٍ وَكَادِيْحٍ وَكَلْبِ اللّٰهِمَّ كُلِّ

غم و اندوہ۔ کنارہ و ساحل۔ موسلا دھار بارش اور آمیزش۔ شجاع و بہادر و عاجز و ناتوانی اور محنتی و خالص کے لئے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَسَبْحِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر صغیر اور

صَوْفٍ وَصَوَابٍ وَصَالِحٍ وَصَابِرٍ وَصَخِيْبٍ وَصَعِيْبٍ وَصَمْتٍ وَصَلْبٍ

اون اور صحیح و صواب اور صالح و صابر اور شور و غل۔ سخت۔ خاموش۔ شدت و سختی اور

صَبِيْحٍ وَصَرِيْحٍ وَصَرْلَفِيْحٍ وَصَلَاِيْحٍ وَصِيَاِيْحٍ وَصِنْدِيْدٍ وَصِدْرٍ وَصَلْبٍ

تندرستی بند مکان۔ پیچ و پکار۔ نیکی و تقویٰ اور پیچ و پکار۔ رئیس و سرغنہ۔ صبر اور شکرے اور

صَنَافِيْرٍ وَصَعُوْطٍ وَصِرَاطٍ وَصَدِيْعٍ وَصُنْعٍ وَصَبِيْعٍ وَصَمْنَةٍ وَصَرْفٍ وَصَلْبٍ

جوہر و اصل کے اور نساور۔ راستہ۔ زور سے پھٹنے۔ کاریگری۔ رنگ۔ گوند۔ تبدیلی اور نوع و قسم کے

وَصِدْقٍ وَصَمِيْكٍ وَصَدْمٍ وَكُظْمٍ وَكُظِيْمٍ وَكَاطِمٍ اللّٰهِمَّ

اور سچائی۔ جاہل و شرپسند۔ دفاع۔ غصہ پینے بہت غصہ پینے والے اور سیراب کے لئے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ ضَبَقٍ وَضَوْءٍ وَضَوْءٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر تنگ اور دشوار کے اور معدن و کان اور

وَالصَّهْبَاءِ وَالضُّيُودِ وَالضُّبَابِ وَالضُّرُورِ وَالضَّرَائِعِ وَ

روشنی کے اور دودھ سے خالی عورت کے اور زکام والی۔ بد مقابل۔ بہت سخت۔ نقصان۔ ضرر اور مستفتت والی ضرورت

ضُرُورَةٍ وَضَفِيرٍ وَضَخْرٍ وَضَمْرٍ وَأَضْوَرٍ وَضَفِيرٍ وَضَبِيرٍ وَضَبِيرٍ وَ

و مجبوری۔ زلف۔ متکبر و مغرور۔ شدید و سخت۔ سخت بھوک۔ نازک بدن اور سخت مزاج کے

ضَوْضَاءَةٍ وَقَانُوسٍ وَقَرَادِيسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لڑائی کے شور و غل اور قانوس اور باغات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ طَوِيلٍ وَطَلٍّ وَطَبَاةٍ وَطَاءَةٍ وَطُنٍّ وَ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر دراز قد۔ ہلکی بارش۔ خصیت۔ پامالی اور پر عزم کے اور

طَبٍّ وَطَرْبٍ وَطَرْحَةٍ وَطَلُوثٍ وَطَثْرٍ وَطَافِحَةٍ وَطَلِجٍ وَطَفْدٍ وَ

علاج۔ خوشی و طرب۔ ہلکاپن۔ جاری و ساری۔ چینیٹی اور خشک یا بھر پور۔ خاردار دزخت اور قبر کے اور

طَبْدٍ وَطَيْسٍ وَطَيْرَانٍ وَطَبْرٍ وَطَحْرٍ وَطَبْرٍ وَطَبْرٍ وَطَبْرٍ وَ

شر و فساد۔ وافر مقدار۔ پرواز۔ پہاڑ کے کنارے۔ غلط بیانی۔ کذاب۔ سیاہ نام۔ انتہاء و غایت کے اور

طَبْرٍ وَطَبْرٍ وَطَبْرٍ وَطَبْرٍ وَطَبْرٍ وَطَبْرٍ وَطَبْرٍ وَ

وافر پانی۔ سرکش شیطان۔ نرم و سہل۔ کثیر النسل۔ بھوار۔ حقیر و ناقص۔ طاق قابل اعتماد

وَتَوْفِيْقٍ وَتَسْنِيْقٍ وَتَسْنِيْقٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور توفیق اور پرزے اور سجادت و خوبصورتی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ ظَرْعٍ وَظَابٍ وَظَنْبٍ وَظِرٍّ وَظَالِعٍ وَظَرْفٍ

آل محمد پر مطابق تعداد منجمد پانی۔ ظالم۔ پنڈلی کی باریک ہڈی۔ دھاردار پتھر۔ لنگڑے۔ طرف و برتن

وَظَلْفٍ وَظَلٍّ وَظَلَّةٍ وَظَلَالَةٍ وَظَلَالٍ وَظَاظٍ وَظَلْمٍ وَظَلْمٍ وَظَعْنٍ وَظَنْ

اور جائز و مباح کے اور عام سایہ۔ خاص قسم کے سایہ۔ سایہ دار شئی اور سلیبے۔ ہمزلت ظلم و زیادتی اور ہمزلت۔ کو توج کرنے اور گمان

وَّظُرَابٍ وَظُرْبٍ وَظِهَاءٍ وَظَبْطَابٍ وَظَهْرَةٍ وَظُهُورٍ وَظَلِيفٍ وَظَالٍ

بڑے ٹیسے - چھوٹے ٹیسے - پیاس - عیب و نقص - گھر کے سامان - ظہور - بد حال و ذلیل اور ظاہر و

وَظَهِيرٍ وَظِلٍّ وَظِلَالٍ وَأُظْلَالٍ وَظَلَالٍ وَظَلِيلٍ وَظُلُولٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

غالب کے اور مددگار - سایہ - سائے - سایہ دار اشیاء - بادل - چھتریوں اور آرام و سکون کے - اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ عَرْضٍ وَعَظِيمٍ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر چوڑائی - ہر بڑی شئی کے اور ہر چوڑی

عَرِيضٍ وَعَمِيْقٍ وَعَيْبٍ وَعَيْبٍ وَعَنْبٍ وَعَنْبٍ وَعَنْكِيْثٍ وَعَجَاجٍ

چیز اور گہرے کے - بہر تیاری - حسن و خوبی - طغیانی کے ابتدائی حصے - مشقت اور اجتماع اور غبار اڑانے والے

وَعَذَابٍ وَعَيْدٍ وَعَيْدٍ وَعَدَارٍ وَعَرِيْدٍ وَعَسْبٍ وَعَطْوِدٍ وَعَعْوِدٍ

شیریں و خوشگوار - عید و خوشی - عبد و غلام - عداد و شمار - بد خلقی - قیمتی جوہر اور شدید اور طویل و دراز

عَوْدٍ وَعَيْدَانٍ وَعَبْقَرِيٍّ وَعَبْرٍ وَعَسْكَرٍ وَعَشِيرٍ وَعَصِرٍ وَعَبْرٍ

رجوع - پناہ و سہارے - رئیس و سردار - زگس - اصل و جوہر - شکر - عشر اور زمانہ - عمر - کوئے

وَعَوِيْرٍ وَمَرَامِرٍ وَمَرِيْرٍ وَمَدَارٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

باطل و ناحق - پختہ عزم والے اور زوردار بارش کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ غَلِيْظٍ وَغَافِلٍ وَغَائِبٍ وَغَضْرِبٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر سخت طبعی اور غافل اور غائب - سبزہ زار -

وَعَيْهَبٍ وَعَيْبٍ وَغَرْتَانٍ وَغَيْثٍ وَعُنَابٍ وَغَزِيْدٍ وَغَلِيْدٍ وَغَبْرٍ

سخت تاریک - عیب - بھوکے - بارش - تازو نخرہ اور شدید آواز - سخت طبع - پیچھے رہنے

وَعَزِيْرٍ وَغَزِيْرٍ وَغَزِيْرَةٍ وَغَضِيْرٍ وَغَمِيْرٍ وَغَمِيْرٍ

طبعی تقاضے - جھگڑالو - بھجور کی گوکری - ظلم - سخت آواز اور نرم و نازک کے سمندر کے گہرے حصے - گہرائی

وَعَرِيْشٍ وَعَرِيْضٍ وَعُظْمَاطَةٍ وَغَوْغَاءٍ وَغَرْفٍ وَغَدَقٍ وَغَطَلٍ

بینی نبات - روٹی کے سکے - نشانہ و ہدف - جوش و متوجہ اور تمام شریر لوگوں کے چلو بھرنے - سرسبز و شاداب ہونے یا امن کی فرحت

وَعِظْمٍ وَعَصَاةٍ وَعَدْوَةٍ وَعَالِيَةٍ يَأْتُرُ كُلُّ شَيْءٍ وَهَدَاهُ أَنْتَ الَّذِي

وسیع سمندر۔ تروتازگی۔ صبح کی سیر اور خوشبو کے لئے نور ہر شئی کے اور ہدایت ہر شئی کی تو

فَلَقْتَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ الَّتِي كَتَفْتَهَا بِنُورِكَ الْجَامِدَةِ

ہی نے پھاڑا ہے ظلمتوں کو اپنے نور کے ساتھ۔ تو ہی روشن کرنے والا ہے تمام آسمانوں کو جنہیں تو نے لباس پہنایا اپنے نور کے ساتھ

بِتَخْلِيْطِ الْأَنْجُزَةِ الْجَلَالِيَّةِ وَالْجَمَالِيَّةِ وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بِتَخْلِيْقِكَ

جو آسمان کہ ٹھوس ہیں بسبب ملانے جلالی اور جمالی بخارات کے اور چمکایا سورج کو بسبب پیدا کرنے تیرے

مِرْصَهَا مِنْ نُورِ الْجَلَالِ الْغَالِبِ حَتَّى عَكَسَتْ عَلَى النَّوْرِ وَصَارَتْ

اس کی ٹمبیہ کو غالب نور جلال سے یہاں تک کہ اس نے عکس و پرتو ڈالا اور ہر تنور کے اور ہوا

الْهَوَاءُ حَارَّةً بِتَحَرُّ الشُّعَاعَاتِ طَبَاخَةٌ وَخَلَقْتَ الْقَمَرَ مُضِيًّا بَارِدَةً

گرم ہو گئی بسبب شعاعوں کی حرارت کے درآئیکہ وہ پزیر بخت کا کام دیتی ہیں اور پیدا کیا تو نے چاند کو درآئیکہ روشن ہے اور

شُعَاعَاتِهِ وَكَوْنَتِ الْكَوَاكِبُ بِرَاقَةٍ هَادِيَةً رَاجِمَةً أَنْفَصَلَتْ شُعَاعَاتُهَا

کی شعاعیں ٹھنڈی ہیں اور بنایا تو نے ستاروں کو چمکدار۔ رہنمائی کرنے والے اور بسبب ہلاکت (شیاطین کے لیے) جدا ہوتی ہیں ان سے شعاعیں

فِيهَا تَتَّصِلُ بِمَقَارِهَا وَمَرَكَزِهَا حَتَّى صَارَتْ السَّمَوَاتُ السَّيْعَ مَزِيْنَةً

پھر متصل ہوتی ہیں اپنی قرار گاہوں اور مرکزوں کے ساتھ حتیٰ کہ ہو گئے ساتوں آسمان

بِأَحْسَنِ زِينَةٍ ثُمَّ أْبَدَعْتَ أَشْخَاصَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ غَيْرِ تَامُورٍ وَتَامُورٍ

خوبترین زینت کے ساتھ مزین پھرتو نے از سر نو پیدا فرمایا ملائکہ کے اشخاص کو بغیر تاندروں کے ملاپ کے

مِنْ إِهَابٍ وَلَحْمٍ وَعِظَامٍ مَّسْكُوتَةٍ بَلْ أَوْجَدْتَهُمْ مِنْ صِرْفِ نُورٍ لَطِيفٍ

بغیر چمڑے۔ گوشت اور ہڈیوں کے بلکہ تو نے انہیں ایجاد فرمایا خالص لطیف نور سے

قَابِلِ الشَّكْلِ اللَّطِيفِ أَوِ الْكَثِيفِ مَعَ بَقَاءِ الْهَيْئَةِ الْمَلَكِيَّةِ النَّوْرَانِيَّةِ

جو قبول کرنے والا ہے لطیف و کثیف شکل کو بمع باقی رہنے نورانی ملکیت کے ان کے

فِي هَيْئَاتِهَا الْجِبَلِيَّةِ حَتَّى تَيْسَّرَ عَلَيْهِمُ الْهَبُوطُ وَالصُّعُودُ فِي أَدْنَى لَمْحَةٍ

کی جبلی اور خلقی ہیئت میں حتیٰ کہ آسان ہو گیا ان پر اترنا اور چڑھنا ادنیٰ لمحہ میں

وَالْجِهَاتُ طَوِيَتْ فِي لَطَافَةِ بَرَاقَتِهَا وَصَارَتْ جِهَةً وَحْدًا إِنِّي لَكُنْ
 اور تمام جہات سمیٹ دی گئیں ان کی لطیف چمک اور نورانیت کے سامنے اور وہ مانند ایک جیت کے ہو گئیں اور ملا کر
 سَوَاسِيَّةٌ يَدْلُحُظْنَ بِهَا أَحْوَالَ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَى كَسْبِ
 ہو گئے سراپا آنکھ کہ ملاحظہ کرتے ہیں تمام موجودات کے احوال کا بغیر کسب و حیلہ گری کے
 بَلْ هُمْ ذَوَاتٌ بِالْفِعْلِ نَفَاذَةٌ مَخْلُخَلَةٌ مُجَلِّدَةٌ تَتَرَشَّحُ مِنْهَا الْأَنْوَارُ
 بلکہ وہ بالفعل نفوذ و سرایت کرنے والی ذاتیں ہیں۔ اشیاء کے اندر حلول کرنے والے ہیں اقویٰ آواز والے ہیں جن سے انوار منعکس
 عَلَى قُلُوبِ الْعَارِفِينَ بِهَا يَهْتَدُونَ إِلَى اللَّهِ وَتُشْرَحُ صُدُورُهُمْ بِالنُّورِ
 ہوتے ہیں عارفوں کے دلوں پر جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راہ پاتے ہیں اور ان کے سینے کشادہ ہوتے ہیں ان معارف
 سَمَّيْتُ بِالْهَامَاتِ الْمَلَكَةِ وَخَلَقْتُ الْأَرْوَاحَ مِنْ نُورِهَا الْمُقَرَّبِ الْمُهْدِيِّ
 کے ساتھ جنہیں الہام ملائکہ کہا جاتا ہے اور تو نے پیدا فرمایا ارواح کو اپنے (حبیب) کے مقرب اور ہادی نور سے
 وَفَلَقْتُ الْبَيْضَاءَ الْفَرَقَاءَ مِنَ السُّودِ آءِ الْقُبْصَاءِ اللَّهُمَّ نُورِكَ فَوْقَ كُلِّ
 اور بھٹا اتونے سپیدہ سحر کو جو جدا ہونے والا ہے رات کے سیاہ قبض سے۔ اے اللہ تیرا نور فائق و بلند تر ہے ہر
 نُورٍ وَنَارٍ وَكُلِّ مَنْ فَرُوعَ أَنْوَارِكَ وَسَمَائِكَ فَتُورِ قَلْبِي لِاسْتِعْدَادِهِ
 نور و نار سے اور سبھی فروعات ہیں تیرے انوار کے اور آسمان کے پس منور فرما میرے دل کو انوار کے کرات کے مشابہ
 مُشَاهِدَةً كَرَاتِ الْأَنْوَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا تَغْيِيبٍ وَأَعِدْ نَفْسِي لِحُلُولِ
 کی اہلیت و استعداد کے لیے بغیر تھکان اور غیبت کے اور مستعد فرما میرے روح و نفس کو فیوض اور
 الْأَفْيَاضِ وَأَنْوَارِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِيَ عُلُومٌ بِالنِّسْبَةِ وَخَوَارِقٌ بِالْقَدَرِ وَ
 انوار حقائق کے نزول کے لیے جو کہ ایک لحاظ سے علوم ہیں اور قدرت کی رو سے کرامات ہیں۔ اور پیدا
 اجْعَلْ فَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا مُجِيطًا حَتَّى لَا أَرَى بِالْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةَ إِلَّا نُورَكَ
 فرما میرے اوپر نور اور نیچے نور محیط حتی کہ نہ دیکھوں میں سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ سے مگر تیرے رہنما نور کو
 الْهَادِي بِنُورِكَ الْقَاضِي وَجَمَلٌ رُوحِي بِحَيْثُ تَهَافَتُ الْأَنْوَارُ عَلَيْكَ
 مع تیرے نور قضا و حکم ازل کے اور میری روح کو جمیل بنا اس انداز سے کہ انوار برسوں

وَتَسْرِي مِنْهُ الْمُسْتَرْشِدِينَ وَالْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى هَذَا الدَّاعِي وَالْإِلَى

اس پر اور پھر اس سے مریدین کی طرف سرایت کریں اور ہر اس شخص کی طرف جو متوجہ ہو اس دعا گو کی طرف اور ہر

مَنْ أَرَادَ بِهِ نَفْعًا يَا مُذَلِّ كُلِّ جَبَّارٍ عِنْدَ بِقَهْرِكَ عَزِيزُ سُلْطَانُهُ

اس شخص کی طرف جو نفع حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ لے ذیل کرنے والے ہر سرکش و معاند کو ساتھ اپنے قہر کے

ذَلِكَ أَيْ عَدُوِّي وَعَدُوَّ أَحِبَّائِي وَذَلِكَ أَيَّامُ رَجَاءٍ حَيْثُ يَشَاءُ

غالب ہے تیرا تصرف و تسلط۔ ذیل فرما میرے اور میرے احباب کے ہر دشمن کو اور ذیل فرما شیطان کو جب بھی وہ

الْتَسُلُطُ عَلَيَّ بِالْجَبْرِ وَالْقَهْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُدَلِّ لِكُلِّ جَبَّارٍ قَهَّارٍ

مجھ پر تسلط اور غلبہ چاہے ساتھ جبر و قہر کے۔ لے اللہ تو ہی ذیل کرنے والا ہے ہر جبار و تمہارے

كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ بِيَدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ

جیسے کہ تو نے ذیل کیا فرعون اور اس کے شکر لیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ لے اللہ

أَنْتَ قَهْرٌ مَنِيعٌ ذُو سُلْطَانَةٍ وَغَلْبَةٍ وَسَلَاطِينِ الْأَرْضِ مُذَلِّلَةٌ

تو قہر۔ بند شان۔ مالک ملک اور غالب ہے اور سلاطین عالم مغلوب ہیں

تَحْتَ سُلْطَانَتِكَ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تُجِيبُ دَعْوَتَهُ يَا ذَلَّالُ لِكُلِّ جَبَّارٍ

تیری سلطنت کے سامنے پس بنا مجھے مستجاب اور عورت لوگوں سے۔ لے مغلوب کرنے والے ہر جبار

عِنْدَ مُفْرِطٍ أَيْ كَانُ بَرِيًّا أَوْ بَحْرِيًّا أَوْ جَنِيًّا أَوْ مَلِكِيًّا كَمَا ذَلَّلْتَ

سرکش اور قصور وار کے خواہ خشکی کا ہو یا تیزی کا اور جن ہر یا فرشتہ (بالفرض و التقدير) جیسے مغلوب اور مینوع

الطُّيُورِ وَالْجِنِّ وَالرِّيِّحِ تَحْتَ أَمْرِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنَّ الْوِلَايَةَ

فرمایا پرندوں کو اور جنوں اور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لیکن نبوت کا سلسلہ باقی

يَأْقِيهِ إِلَى يَوْمِ الْفَجَاءِ فَاجْعَلْنِي مِنَ الرَّؤْسَاءِ الْمُتَصَرِّفِينَ فِي الْأَعْرَازِ

نہیں رہا تو سلسلہ ولایت باقی ہے قیامت تک پس مجھے بنا رؤساء اولیاء سے جو ارباب تصرف ہیں عزت دینے

وَالْأَرْضَ ذَالٍ بِحَقِّ قَوْلِكَ تَعَزُّمَنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ

اور ذویل بنانے میں بطفیل اپنے اس قول کے "تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے ذیل کرنا چاہے تیرے

الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا قَدُّوسَ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

دست کرم میں خیر ہے۔ بیشک تو ہی ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے ہر نقص سے مقدس و طاہر

فَلَا شَيْءٌ يُعَانُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ قَدْ سَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ

تمام مخلوقات میں سے کوئی شئی ایسی نہیں جس سے تعاون لیا جاسکے تیرے لطف و کرم کے بدلے۔ مجھے پاک فرما اس رتبت

الْبَيْئَةِ إِلَيْهَا طَبِيعِي وَنَفْسِي وَهُوَ نَقْصٌ عِنْدَ الْقُدُّوسِ وَطَهَّرَنِي عَنْ كُلِّ

و کمینگی سے جس کی طرف میری طبیعت اور نفس راغب ہے جبکہ وہ عیب و نقص ہے تجھ قدوس کے نزدیک۔ اور مجھے پاک فرما ہر

نَقْصٍ عَائِقٍ مِّنْ أَسْبَابِ الْوُصُولِ ثُمَّ جَرَّدَنِي مِنْهَا حَتَّىٰ لَا تَبْقَىٰ فِي قَلْبِي

اس نقص سے جو مانع ہے اسباب وصول سے پھر مجھے خالی اور فارغ فرما اس سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے میرے دل میں

إِلَّا هَوِيَّةً أَحَدِيَّةً هِيَ عَيْنٌ وَحَدَاةٌ بِوَجُودِ كُلِّ حَقِيقَةٍ قُدُّوسِي ظَاهِرٌ

مگر ہویت احدیہ جو کہ عین وحدت ہے ساتھ کلی حقیقی کے وجود کے جو مقدس و طاہر ہے تمام

جَمِيعِ النَّقَائِصِ فَلَا يُغَالِبُهُ أَحَدٌ مِّنْ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ الْفِعْلِيَّةِ وَلَا

نقائص سے پس غلبہ نہیں پا سکتا اس پر کوئی موجودات فعلیہ اور

الْإِمْكَانِيَّةِ الْمُحَضَّةِ الْقَرِيبَةِ أَوِ الْبَعِيدَةِ مِنَ الْفِعْلِ فَأَنْتَ قُدُّوسٌ تَجُزُّ

امکانیہ محضہ سے جو تحقیق کے قریب ہیں یا اس سے بعید ہیں۔ پس تو پاک ہے ہر

جَمِيعَ مَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ كَيْفِيَّةً وَكَيْمِيَّةً وَخَلَقْتَ الْجَدَّادَاتِ مُنْذَرَهً

کیفیت و کیمیت سے جو تیری طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور تو نے پیدا فرمایا اس نئی مخلوق کو اس حال میں کہ منزہ

عَنِ الشَّهَوَاتِ وَالْكَفُورِ وَسَائِرِ مَا لَا يَنْبَغِي فَقَدَّسَتْ وَطَهَّرَتْ

ہیں خواہشات نفسانیہ سے اور کفر و برادری سے اور تمام نامناسب امور سے پس وہ مقدس و مطہر ہو گئے

بَطْهُورًا قَدْ سَيِّتَكَ حَتَّىٰ بَرَأْتَ عَنِ الْبِعَاصِي فَلَا يَعْصُونَكَ

تیرے تصور قدوسیت کے طفیل حتیٰ کہ میرا و منزہ ہو گئے تمام تر معاصی سے لہذا نافرمانی نہیں کرتے اور

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَطَهَّرَ قَلْبِي وَقَدَّسَ سِرِّي لِأَقْبَسِ مَا فِي

وہی کرتے ہیں جس کا حکم دئے جلتے ہیں۔ پاک فرما میرے دل کو اور مقدس فرما میرے اندرون کو واسطے حاصل کرنے

عَالَمِ الْمَجْرَدَاتِ الْمُسْتَسْتَبِي بِعَالَمِ الْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَرُبُّ

عالم مجردات کے انوار کے جس عالم کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے پرورش فرماتا ہے

مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ أَجِبْ أَمِينَ دَعْوَةَ هَذَا الْإِسْمِ فِي

ہر اس شئی کی جسے چاہے اور تو ہی دائمی علم والا ہے۔ اے اللہ قبول فرما آمین دعوت اس اسم کی اس اسم

مَفْهُومِ هَذَا الْإِسْمِ الَّذِي شَرَحْتَهُ عَلَيَّ فِي قَضَائِكَ وَقُدْرِكَ وَ

کے مفہوم میں جس کی شرح فرمائی مجھ پر اپنی قضاء و قدر میں اور تمام

سَائِرِ الْخَوَاصِّ الَّتِي لَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَمِينَ مَعَ كُلِّ رُوحِي قُدْسِي وَ

تمام خواص میں جن پر ہم مطلع نہیں ہیں آمین ساتھ ہر روحانی قدسی کے اور

نَبِيٍّ وَوَلِيِّ يَأْمُرُ بِالْبِرِّ وَيَنْهَى عَنِ الْفِرْيَافِ وَمُعِيدُهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ قَدْ أَوْجَدْتَ

ہر نبی اور ولی کے۔ اے پیدا کرنے والے مخلوقات کے پہلی دفعہ اور دوبارہ پیدا کرنے والے فنا کے بعد اپنی قدرت کا ملہ سے۔ البتہ ایسا

أَجْنَاسًا وَأَنْوَاعًا ثَمَّ فَصَلَّتْهَا فَنَوْعٌ تَتَّحَصَّرُ الْأَشْخَاصُ فِيهِ وَنَوْعٌ مِنْهُ

فرمایا تو نے اجناس و انواع کو پھر انہیں ممتاز فرمایا، کوئی نوع ایسی ہے کہ مخصوص اشخاص میں منحصر ہے اور کوئی ایسی ہے کہ اس میں

تَوَالِدُ وَتَتَأَسَّلُ حَتَّى أَمْتَلَاتِ الْأَرْضُ ثُمَّ تُهْلِكُهَا وَتُقَدِّسُهَا فَتَحْشُرُهَا

توالد و تناسل ہے حتیٰ کہ بھر دیا تو نے اس سے زمین کو، پھر تو انہیں ہلاک فرماتا ہے اور مقدس ٹھہراتا ہے پھر ان کا حشر کرتے

بِقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ فَلَا يُعَارِضُكَ أَحَدٌ فِيهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ

گا اپنی قدرت غالبہ سے اور نہیں معارضت و مقابلہ کر سکے گا تیرے ساتھ کوئی بھی اس معاملہ میں اور نہ کلام کر سکے گا مگر وہی جسے تو اجازت

لَهُ وَتَقْدِيرِ أَنْ تُخْرِجَ الْهَوْتِي مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَرْقِدِ عَلَى هَيْئَةٍ جَمِيلَةٍ

دے گا اور تو قادر ہے اس پر کہ نکالے مردوں کو زمین اور قبروں سے خوبصورت حالت پر

وَإِنْ كَانَتْ عَلَى هَيْئَةٍ قَبِيحَةٍ وَكَذَلِكَ الْمَذْنُبِينَ تَسْتُرُهُمْ تَحْتِ سِتْرِ

اگرچہ ہوں (بذات خود) قبیح حالت پر اور ایسے ہی پردہ ڈالے گا گناہگاروں پر اپنی

رَحْمَتِكَ وَعُفْرَانِكَ وَلَا تُفْضِحْ بَيْنَ يَدَيِ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رحمت اور مغفرت کا اور نہیں رسوا کرے گا انہیں مخلوق کے سامنے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ فَرْعٍ وَفَرْعٍ وَوَسْطِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر فرع اور فرد کے اور سخت قبیح امر کے

قَوْلٍ وَفَسِقٍ وَفُوقٍ وَفَبَاءَةٍ وَفَنَاءٍ وَفَلِيَةٍ وَفَرَجٍ وَفَرَسِيٍّ وَفَصِيٍّ

اور ہر غلاف دیرودہ اور فسق و فجور اور فوقیت و بلندی کے۔ موسلا دھار بارش۔ قنار۔ کشادگی۔ فرحت فراخی وضعت

فَدِيدٍ وَفَوْجٍ وَفَاخِرٍ وَفَقِيرٍ وَفَسِيٍّ وَفَوْرٍ وَفَدِيمٍ وَفِكْرٍ وَفَرْنٍ وَفَقْرٍ وَ

بلندی آواز۔ فوج۔ صاحب فخر۔ فقر۔ کشادگی۔ کامیابی۔ سر بلند۔ فکر۔ جدائی۔ موت و ہلاکت اور ہر

رَكَازِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

دقیقہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

كُلِّ فَا حِشَّةٍ وَفَارِضٍ وَفَيْضٍ وَفَرَطٍ وَفَلْقَطٍ وَفَلِطٍ وَفَلَاطٍ وَفَرَمٍ

ہر فاشتہ اور بوڑھی کے اور ہر فیض اور سبقت کے اور حیرانگی اور پانک آمد کے اور چوٹی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ قَصِيدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر کوتاہ قامت کے

وَقَاعِدٍ وَقَائِمٍ وَقَدِيمٍ وَقَلِيلٍ وَكَثِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور بیٹھے اور کھڑے اور قدیم کے اور ہر قلیل و کثیر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ فَتَاةٍ وَفَصِيحَةٍ وَمَلِيٍّ وَقَلْبِيٍّ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر کفتار۔ فصیح۔ خوبصورت۔ کشادہ اور

قَبِيٍّ وَعَجِيٍّ وَعَعِيٍّ وَعُرُوجٍ وَعَعِيٍّ وَكَانِيٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بد صورت کے ہر چلانے والے اور ہر بیچ کے اور بلندی پر چڑھنے اور دوڑنے کے اور مٹی گوند کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ فَنَاءٍ وَقَابَةِ وَقَتِيٍّ وَقَصَلَةٍ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر نضاب والی اور خشک شے کے اور عطیہ و ہدیہ اور قوی و شدید

قَطْرٍ وَعَكْبٍ وَعَاكِبٍ وَعُكُوبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ہر چور یا بھڑیا اور غبار اور بھیڑ اور آزد ہاموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اور ہر چور یا بھڑیا اور غبار اور بھیڑ اور آزد ہاموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ قَعْنَبٍ وَقَعَائِبٍ وَقَهْرِبٍ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر کثیر وافر اور طویل و دراز اور کوتاہ قامت اور

قُنُوتٍ وَقُرْزُجٍ وَفَسِيحٍ وَفَوْجٍ وَفِيَا حِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

عجز و انکسار۔ گھوڑے۔ فراخی۔ ٹھک اور ٹکنے والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ قَزْدٍ وَقَفْعَدٍ وَقَدَرٍ وَقَعْرٍ وَ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر قصد و ارادہ۔ پینٹہ۔ مقدار۔ گہرائی اور بہت بڑے شکاری کے

قُتُورٍ بِفَضْلِ قُرْآنٍ عَلٰی قَزِيْرٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مطابق پہاڑوں کی برتری کے تمام سٹی سٹری اشیاء پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ قُدَّاحِيسٍ وَقُدَّوْسٍ وَقُقَيْسٍ وَقُقَسَائِسٍ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر شجاع و بہادر۔ مقدس۔ تلاش و جستجو والے اور رہبر و رہنما کے اور

قُقَيْسٍ وَقُقَيْسٍ وَقُقَيْسٍ وَقُقَيْسٍ وَقُقَيْسٍ وَقُقَيْسٍ وَقُقَيْسٍ وَقُقَيْسٍ

غوط خور۔ پاکیزہ۔ حسین و خوبصورت اور منزہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ قُبُضٍ وَقَطْقِطٍ وَقَفْلٍ وَقَلِّ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر تنگی و فقر۔ اولے۔ رجوع۔ قلت کے

قَوْلٍ وَقَبُولٍ وَاسْتِهْسَالٍ وَمِفْصَالٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور ہر قول۔ قبول۔ بلا اجازت سوار ہونے اور بہت جدا کرنے والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كَبِيْرٍ وَكَلِمَةٍ وَكَلَامٍ وَقَسَمٍ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر کبیر۔ کلمہ اور کلام کے اور قسم

وَقَسَامٍ وَقَسِيْمٍ وَقِيَامٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تقسیم کرنے والے اور باٹنے والے اور قائم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كَلَاءٍ وَكِبَابٍ وَكُتَاتٍ وَكُرْبِيَّةٍ وَكُوْتِيٍّ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر سبزہ اور تمام اونٹوں کے۔ اور آہستہ چلنے اور ہر مصیبت اور کوتاہی

قَاضِي وَفِي وَرَضِي اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قاضی - مشفق اور مضبوط و مستحکم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كَثَاثٍ وَكُنَافِيهِ وَكُنُوفِهِ وَكُنُوفِهِ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر سنگریزے۔ لا تعداد اشیاء مشقت۔ بلند کوبان اور

كَثْرًا وَقَزِيرًا وَقَرَارًا وَمَطْرَانًا وَمِزَالًا صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بنتاب اور سگڑنے سمٹنے والے اور مٹی وغیرہ کی مٹھی بھرتے والے اور نقش و نگار والے اور ہر تریزہ فضیلت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كَوْتِرٍ وَكَيْفِيٍّ وَكَيْسٍ وَكَعِصٍ فِي كُلِّ شَرِيحٍ

نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق تعداد ہر کثرت۔ بلند پہاڑ۔ کف و بے دینی۔ لوگوں کے اجتماع۔ طعام کے ہر دفعہ خارج ہونے

وَشَاحِصٍ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور برآمد ہونے کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

كُلِّ كَضْكُضَةٍ وَكُرْتَعٍ وَكُرَاعٍ وَكُثْفٍ وَقَاحِفٍ وَقُحَافٍ وَ

ہر تیز رفتاری اور پچھاڑنے۔ منہ لگا کر پینے۔ گھوڑوں۔ اونٹوں۔ جماعت۔ شدید آندھی۔

قُعَافٍ وَشَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

زبردست سیلاب۔ زور دار بارش اور ہر شریف اور تمام اشرف کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ كَدِيفٍ وَكُسْفَةٍ وَكُحْلٍ وَكُحْلٍ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر آواز پا۔ ہر ٹکڑے۔ پہلو و جانب۔ سرمہ۔ صابون اور غسل

وَعَسِيلٍ وَغَزَالٍ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دئے ہونے اور ہر ہرن کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لَيْلٍ وَلَيْلٍ وَلَيْلٍ وَكَيْسٍ وَكَيْسٍ وَكَيْسٍ

آل پر مطابق تعداد ہر رات۔ نرمی۔ خاص عقل پہنھانے کے شعور۔ بہت مارنے والے۔ نئی۔

غَنِيٍّ وَغَنِيٍّ وَغَنِيٍّ وَغَنِيٍّ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چوڑی چیز سے پٹائی۔ ناز و نخرہ۔ گھونٹ بھرنے اور تلوار میان میں ڈالنے اور بھر پور کشتی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لَوْثٍ وَكَيْثٍ وَوَلِيَّاحٍ وَوَلَدِيْدَانٍ وَ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر آلودگی اور تمام بہادروں اور ہر سفید و روشن چیز اور وادی کے دو پہلوؤں

لِيَادِ كُرَاتٍ وَكَيْثٍ وَكَشُوْتِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور سرکش و باغی اور گندنے اور گھنے بالوں والے کے اور اقیتموں کے لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لَجْدٍ وَوَلَدَةٍ وَكَمَزٍ وَوَلَعِيْسٍ وَوَلِيْفِيْسٍ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر چاٹ اور لذت۔ عیب جوئی۔ کاٹنے یا گنجان ہونے۔

وَسُوَيْسٍ وَوَسَائِيْسٍ وَقَلَابِيْسٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

شجاع و بہادر۔ گھن۔ نگران اور ہر بخرزخار کے۔ لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لِيَصِّ وَوَلَعِيْضٍ وَوَلَمُوْصِيْصٍ وَوَلْفِيْطٍ وَوَلْعَاعِ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر چور اور سخت و دشوار اور جھوٹے۔ فریبی۔ کلام کے شور۔ ابتدائی روئیدگی

وَدِفَاعٍ وَوَدْفِيْعٍ وَوَدْرِيْعٍ وَوَدَارِيْعٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دور کرتے دفع کرتے اور ہرزورہ اور زورہ پوشش کے۔ لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ لَعَلْعَةٍ وَوَلِيْقِيْصٍ وَوَلَمَلُوْمٍ وَوَلَدِيْنٍ وَوَلَسِيْنٍ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر شکتگی کے اور کھٹنے یا مٹانے اور جماعت اور نرم و ملائم اور فصیح زبان

وَحُسَيْنٍ وَوَحْسِيْنٍ وَوَحْسَانٍ وَوَجْدِيْنٍ وَوَحْدِيْنٍ وَوَحْزِيْنٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور حسن اور حسین اور بہت خوبصورت اور دوست اور پیارے دوست اور ہرزخیرہ کے۔ لئے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ مَاثِيْشٍ وَوَسْتِيْقِيْظٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر پیادہ اور بیدار

وَمِيْرٍ وَوَمُوْجُوْدٍ وَوَمَعْدُوْمٍ وَوَحْرِيْمٍ وَوَحْرِيْمٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور کڑوے اور ہر موجود اور معدوم اور تمام تر عزتوں اور عزت والے مقام کے۔ لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ مُوْحِدٍ وَوَمُشْرِكٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر موحد اور مشرک کے

وَمَذْكُورٌ وَمَوْنٌ وَمُحَدَّثٌ وَدَيُوثٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور ہر مذکورہ مونت کے اور بچڑے اور دیوث کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَوَاتٍ وَمَغْرِبٍ وَمَوْجٍ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر پردہ اور لطائی اور موج و

مَهْجَةٍ وَمَخٍّ وَصَيْبٍ وَصَبَاحٍ وَصَحِيحٍ وَصَحَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

لہر اور روح و حیات اور بوسیدہ کپڑے کے اور حسین اور روشن ترین اور تندرست اور موزوں و درست کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَرَجٍ وَمَسِجٍ وَمَصُورٍ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر ناز و ادا اور حسن کرنے اور سرور اور مغز اور ترقی و تازگی اور کھلے

وَمَخٍّ وَمَادٍ وَفُلْدٍ وَفَوْنٍ وَقَزِينٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بیوند کے اور مصاحب و ساتھی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مِدٍّ وَمِدَّةٍ وَمَصْدٍ وَمَلِدٍ وَمَهْدٍ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر مد اور مدت کے اور گرمی کی شدت اور معتدل کیفیت کے اور سامان رکھنے

وَمَنْضِدٍ وَمَلَاذٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کے ٹیبل اور جائے پناہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَيْدٍ وَمَيْدٍ وَمَذْمَاذٍ وَمَجْرٍ وَمَطْرٍ وَزَيْدٍ وَسُرُجٍ

آل پر مطابق تعداد ہر جنبش کے اور چھوٹے کے اور بہت باتونی اور بڑی فوج اور بارش اور حد سے متجاوز اور جمال رخ

وَسِرَاجٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ہر چراغ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ مَوْهٍ وَمَاتِعٍ وَمَتَاعٍ وَمَلِكٍ وَمَقِيلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ہر گردش۔ ہر نفع رساں۔ سامان اور فرشتہ اور دیکھنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ نَامٍ وَنَائِمٍ وَنَهَارٍ وَنَهَارٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر نشوونما کے اور سونے والے اور دن اور خبر دینے اور پیدائش

وَنُحْبٍ وَنُحْبَةٍ وَنُحْرُوبٍ وَنِيرِبٍ وَنَقِيبٍ وَنَقِيبَةٍ وَنُقْبَةٍ وَنُوبٍ وَ

اور شدید گریہ وزاری اور قرعہ اور سوراخ اور چنلی وفساد اور سوراخ اور گھرائی اور دراز اور حادثہ پیش آنے اور

نَبِتٍ وَنَعْتٍ وَنَكِيثَةٍ وَنُورَجَةٍ وَنَشِجٍ وَنُدُجٍ وَنَطِحٍ وَنَقَاحٍ وَنَجْدٍ وَ

اگنے اور نعمت گوئی اور بازگشت اور نکتہ چینی اور سیرابی اور فرانی و کشادگی اور مقابلہ و لڑائی اور مغز و حقیقت تک رسائی اور

نَشْدَةٍ وَنَفَادٍ وَنِزٍّ وَنِدَاءٍ وَنَفْسٍ وَإِنِّيْتَانِشٍ وَإِنِكْمَاشٍ وَإِنْتِعَاشٍ

قوت و توانائی اور آواز و اعلان اور نافذ کرنے اور چشموں والی جگہ اور کھنگھار و اینٹ اور سانس اور پکڑنے اور کڑنے اور سستی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ

بعد چستی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر

وَجُوبٍ وَذُوبٍ وَوَسْبٍ وَوَصْبٍ وَوُطُوبٍ وَوَكُوبٍ وَوَلُوبٍ وَوَقْتٍ

ثبوت و تحقق اور پگھلنے اور گھاس اور بیماری اور دائمی عمل اور آہستگی سے چلنے اور جلدی سے داخل ہونے اور زمانے کے

وَوَلِيَّتٍ وَوَارِثٍ وَوَاسِعٍ وَوَدٍّ وَوَلِيَّتٍ وَوَجٍّ وَوَشِيحَةٍ وَوَجَّاجٍ وَوَجَلِّدٍ

نعین اور حق میں کمی کرنے اور وارث اور وسیع اور محبت و الفت اور پکے وعدہ اور تیزی اور باطنی تعلق اور جلدی داخل ہونے اور بہت تیز و جلدی

وَرِيحٍ وَوَادٍ وَوَطِيٍّ وَوَذُوذَةٍ وَوَلِدٍ وَوَبِيٍّ وَوَتِدٍ وَوَطِرٍ وَوَسُوسَةٍ وَ

اور دردناک اور زندہ درگور کرنے اور مضبوط کرنے اور جلدی کرنے اور جہم دینے اور بد حالی اور میخ اور حاجت اور وسوسہ اور

إِخْتِصَاصٍ وَاتِّرَاصٍ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مخصوص ٹھہرانے اور ہموار اور خالص کرنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ هَبٍّ وَهَبْرٍ وَهَبَابٍ وَهَبِّ وَهَدَابَةٍ وَهَلْبٍ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر قوی اٹھان اور اٹھان والے اور سرعت اور ہلکان اور بہت بالوں والے

وَهَنْقِيبٍ وَهَوْبٍ وَهَمْرَجَةٍ وَهَجُودٍ وَهَوْنٍ وَهَجِسٍ وَهَلِسٍ وَهَمِسٍ وَ

اور کوتاہ قامت اور دوری والے اور خیر میں گڑ بڑ کرنے والے اور شب بیدار اور مخلوق اور اندیشہ اور لاغر کرنے اور دھیمی آواز اور

هَنْشِيشٍ وَهَمُودٍ وَهَبَادِيٍّ وَهَبْتِرٍ وَهَتِرٍ وَهَزِيْرٍ وَهَوِشٍ وَهَيْشٍ وَهَلْنَفِصٍ

بکے پھلے اور بے آب و گیاه اور تیز رفتار اونٹ اور کوتاہ قد اور ہتک کرنے اور جنبش دے ہونے اور خالی پیٹ اور تخریب کار اور

وَهَرَمَعٍ وَهُوعٍ وَأَسْبَاغٍ وَإِضَاغٍ وَإِسْتِفْرَاغٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو تہاہ قامت اور تیز رفتار اور سخت بری حرص اور کامل و مکمل کرنے کے خوشحالی و شادابی اور خالی کرنے کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَبَارِحَ وَيَبِينُ بْنُ كَيْسَانَ وَكَيْسَانَ

پر اور آل محمد پر مطابق تعداد یا جوج و ماجوج کے ہر ہر فرد کے اور قلب اور روبر اور شدت اور آسانی اور تو نگر

يَسَارٍ وَيَسْتَعِيرُ وَيَعْرِ وَيَهْرُ وَيَأْسٍ وَيَيْسٍ وَيَشِّشٍ وَيَتُّوعٍ وَيِرَاعِعُ وَيُرُوعُ وَيُفَعُّو

اور باطل و ناحق اور بگری کے بچے کے جو شکار بھنسانے کیلئے باندھا جائے اور وسیع جگہ اور نامیدی اور خشکی اور مسرت و خوشی اور شیردار پودے اور گلستان اور

يَانِعَاتٍ وَيَانِعٍ وَيَلِقُ وَيَيْتِمٍ وَيَوْمٌ وَيَمِينٌ وَيَمِينُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بزدل اور جوان اور بچتہ بھل اور تیار بھل اور سفید بگری اور یتیم اور دن اور قسم اور ہر بکت کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ أَلِفٍ وَبَاءٍ وَتَاءٍ وَثَاءٍ وَجِيمٍ وَحَاءٍ وَذَالٍ وَذَالٍ

و آل محمد پر مطابق تعداد ہر الف - باء - تاء - ثاء - جیم - حاء - خاء - دال اور ذال کے

وَرَاءٍ وَزَاةٍ وَسَيْنٍ وَشَيْنٍ وَصَادٍ وَظَاءٍ وَظَاءٍ وَعَيْنٍ وَغَيْنٍ وَفَاءٍ

اور راء - زاء - سین و شین - صاد و ضاد - ظاء و طاء - عین و غین کے اور فاء

وَقَافٍ وَكَافٍ وَلَامٍ وَمِيمٍ وَنُونٍ وَوَاوٍ وَهَاءٍ وَوَاوٍ وَهَمْزَةٍ وَوَاوٍ فِي الْوَاوِ

وقاف - کاف - لام - میم و نون - واؤ اور ہاء اور لام و ہمزه اور ہاء کے جو ثورات

وَالْأَنْجِيلِ وَالزُّبُورِ وَالْفُرْقَانَ الْحَمِيدِ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدِ وَفِي مِائَةِ صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ

و انجیل اور زبور اور فرقان حمید - قرآن مجید اور سو صحیفوں میں ہے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ أَلِفٍ وَبَاءٍ وَتَاءٍ وَثَاءٍ وَجِيمٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر الف - باء - تاء - ثاء اور جیم کے

وَحَاءٍ وَخَاءٍ وَذَالٍ وَذَالٍ وَرَاءٍ وَزَاةٍ وَسَيْنٍ وَشَيْنٍ وَصَادٍ وَظَاءٍ وَظَاءٍ

اور حاء - خاء - دال - ذال - راء - زاء - سین - شین - صاد - ضاد - ظاء اور ظاء کے اور

عَيْنٍ وَغَيْنٍ وَفَاءٍ وَقَافٍ وَكَافٍ وَلَامٍ وَمِيمٍ وَنُونٍ وَوَاوٍ وَهَاءٍ وَوَاوٍ وَهَمْزَةٍ وَوَاوٍ

عین - غین - فاء - قاف - کاف - لام - میم - نون - واؤ - ہاء اور لام و ہمزه

وَيَا فِي أَحَادِيثِ الرُّسُلِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسِ وَكُلِّ ذِي رُوحٍ وَالْبِحَانِ وَغَيْرِهِمْ

اور یاد کے جو رسل کرام اور ملائکہ اور انسانوں اور ہر ذی روح اور جنوں وغیرہ کی کلاموں میں ہے

مِنْ لِسَانِ الْحَالِ وَالْقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نواہ زبان حال سے سرزد ہوئی ہوں یا زبان قال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ تَفْصِيلٍ وَجَمَلٍ وَإِشَارَاتٍ وَمُعْجَمٍ وَنُقْطٍ وَمُحْكَمٍ وَ

پر مطابق تعداد ہر تفصیل اور تمام جملوں اور اشاروں اور حروف منقوطہ اور نقطوں کے اور ہر محکم اور

مَنْطُوقٍ وَمَفْهُومٍ وَخَاصٍ وَعَامٍ وَأَخْبَارٍ وَأَحْكَامٍ وَشَكْلِ وَحَرَكَاتٍ وَ

مدلول صریح اور مدلول غیر صریح اور خاص و عام اور اخبار و احکام اور ہر شکل اور تمام حرکات و

سَكَنَاتٍ وَمُهْبِلٍ وَمُفْصِلٍ وَجُزْئِيَّاتٍ وَكُلِّيَّاتٍ وَمُتَشَابِهَاتٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ

سکناات کے اور مہمل و مفصل اور تمام جزئیات و کلیات اور متشابہات کے اور امر و نہی

وَنَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ وَعِبْرٍ وَقَصِصٍ وَعُدَاوَةٍ وَعِيدٍ وَشِدَاوَةٍ وَمِدَاوَةٍ وَحُرُوفٍ وَ

اور ناسخ و منسوخ اور تمام عبارات و قصص اور ہر وعدہ و وعید اور ہر شد و تد اور تمام حروف کے اور

حَلْقَةِ الْحُرُوفِ وَأَنْوَارِ الْحُرُوفِ فِي الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حروف کے حلقہ اور ان حروف کے انوار کے جو قرآن مجید میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا فِي خَلْفٍ وَأَمَامٍ وَغَيْرِهِمْ فِي عِلْمِ

محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو کچھ چلی اور سامنے والی جہت اور ان کے ماسوا میں ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے

اللَّهِ يَا مَحْمُودُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ مَدَدْتُ يَدِي وَفِي مَا عِنْدَكَ عَظَمْتُ رَغْبَتِي

مطابق اے محمود۔ اے اللہ میں نے تیری طرف ہی بڑھایا ہے اپنے ہاتھ کو اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسی میں عظیم ہوئی میری

فَأَقْبِلْ دَعْوَتِي وَأَقْلِبْ عَثْرَاتِي وَأَرْحَمْ تَضَرُّعِي وَجُدْ لِي بِمَغْفِرَتِكَ

رغبت پس میری دعا قبول فرما۔ میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ میری حالت زار پر رحم فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کی سخاوت فرما

وَأَعِزَّنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ حُقُوقًا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيَّ

اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے پناہ دے۔ اے اللہ بیشک تیرے حقوق ہیں مجھ پر پس وہ مجھ پر صدقہ فرمائے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّكِّ الْجَلِيِّ وَالشَّرِّ الْخَفِيِّ وَالْجَبَانِ

اے اللہ بیشک میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں واضح شک سے اور نخی و جلی شرک سے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَحِيمٌ

میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے جس سے پناہ طلب کی تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رحم فرماتے والے

كُلِّ صَرِيحٍ وَمَكْرُوبٍ وَيَا غِيَاثَهُ وَمَعَاذَ سَجْحَرِي كُلِّ شَيْءٍ عَرِينٌ مَطَاهِرٌ

ہر فریادی اور اندوہناک پر اور اس کے فریادرس اور جائے پناہ مسخر فرما میرے لیے مظاہر

الرَّحْمِيَّةِ مِنْ فَلَكَ وَنَبِيِّ مُرْسِلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَهِيدٍ مَسْطُورٍ فِي كَلَامِ

رحمیت کی ہر شئی فلكی ہو یا نبی مرسل اور ولی و مرشد ہو یا شہید جو لکھے ہوئے ہیں کلام

إِلَهِي حَتَّى يَحْبُوَنِي وَيَنْصُرُونِي فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِرَحْمَتِكَ لِلْعِبَادِ

الہی میں حتی کہ مجھ سے محبت کریں اور میری مدد کریں دین و دنیا میں بظہیل تیری رحمت کے واسطے ان بندوں کے

الْمُصْرِحِينَ فِي دَعْوَاتِهِمْ وَأَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَالتُّحَاقِ الدَّاءِ

جو فریاد کرنے والے ہیں اپنی دعوؤں اور زاریوں والی آوازوں میں بلاؤں کے نزول اور بیماریوں کے لاحق ہونے پر

إِمَّا لِلْجِسْمِ كَأَنْوَاعِ الْأَمْرَاضِ فَتُعْطَى الشِّفَاءَ السَّارِيَّ فِي سَوَادِ الْأَدْوِيَةِ

خواہ جسم کے لیے مانند مختلف اقسام کے امراض کے پس تو عطا فرما ایسی شفا جو سرایت کرے مرکب اور مفرد

الْمَرْكَبَةِ أَوِ الْبَسِيطَةِ وَإِمَّا لِلْبَوَاطِنِ الْجَسِيَّةِ حِينَ تَسْرِي الْهُوَاءُ فِيهَا

ادویہ میں اور خواہ باطنی حواس کو لاحق ہوں جبکہ سرایت کرے ان میں ہوا و باد

مُعْتَمِدًا لِلْأَهْوِيَةِ الْفَاسِدَةِ الْمُتَبَكِّنَةِ فِي الْعُرُوقِ فَتُخْرِجُهَا بِرَحْمَتِكَ

ان فاسد ہواؤں کے بل بوتے پر جو رگوں میں قرار پذیر ہوتی ہیں پس نکال دے تو انہیں اپنی رحمت اور

شَفَقَةٍ دَاعِيَةٍ إِلَى حِكْمَةٍ نَاجِيَةٍ وَتَرْحَمُ عَلَى السَّالِكِينَ الْبَتُّورِ حَمِيمِينَ إِلَيْكَ

شفقت سے جو داعی ہے نجات دینے والی حکمت کی طرف اور رحم فرما ان اہل سلوک پر جو تیری طرف متوجہ ہیں

حِينَ تَسْبِقُ الْخَطَرَاتُ الْمَانِعَاتُ لِلْوُصُولِ إِلَيَّ إِلَى رُوحِ قَلْبِي وَوَلَدِي

جبکہ سبقت لے جائیں خطرات و ممانعات جو وصول سے مانع ہوں طرف ان کے پاکیزہ قدوسی اور سبوحی

أَوْ سُبُوحِي فَتُرِيْلَهَا مَحْوَةً فَطَهَّرَ مِنْ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى حِينَ

روحوں کے پس تو نے زائل فرمائے انہیں لمبیا میٹ کرتے ہوئے۔ پس پاکیزہ فرما ادنیٰ سے اعلیٰ ترین کی طرف ترقی دیتے

يَقُولُ عِنْدَكَ السَّالِكُ وَطَهَّرَنِي عَنِ الْخَطَرَاتِ كُلِّهَا صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا

ہوئے جبکہ غرض کرے حضور سالک۔ اور پاک فرما مجھے تمام تر صغیرہ و کبیرہ خطرات و خطرات سے جو

الْمَانِعَةَ لِتَقَرُّبِي بِالْأَرْوَاحِ الْقُدُّوسِيَّةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِجَابَةُ لِصَرِيحِ نَاسُوتِي

مانع ہوں میرے تقرب میں ساتھ ارواح قدوسیہ کے اور اگر نہ میسر ہو قبولیت ناسوتی و مادی

أَوْ مَلَكُوتِي لَسَدَّ طَرِيقَ الرَّحْمَةِ وَفَرَحَتِ الشَّيَاطِينُ الذَّارِيَةُ الْجَهَادِيَّةُ وَ

اور ملکوتی و روحانی فریادیوں کے لیے تو رحمت کا راستہ بند ہو جائے گا اور خوش ہوں گے جہادی و

الَّذِينَ مَجْبُوعًا عَنْ رِعَايَةِ الْحُقُوقِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ الرَّحْمَانِيَّةِ فَالْجَنَّةُ

ناری شیاطین اور دنیوی و اخروی رحمانی حقوق کی رعایت سے محبوب و محروم لوگ پس جنت

رَحْمَةٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْمُظَاهِرِ الرَّحْمَانِيَّةِ ذَرَأَتُهَا تَصْرَحُ

رحمت ہے اور جو سعادت مند کئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منظر و محل رحمت میں ہیں اور مظاہر رحمانیہ کے تمام ذرات زاری اور فریاد

وَكُلٌّ يَصْرَخُ وَيَسْتَعِيثُ عَلَى قَابِلِيَّتِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِمُظَاهِرِ خَاصِّ دُونِ خَاصِّ حَتَّى

کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں اپنی قابلیت و استعداد اور تعلق پر ساتھ منظر مخصوص کے بغیر دوسرے منظر کے حتیٰ کہ

الْأَشْجَارِ وَالْجِبَادَاتِ عَلَى حَسْبِ أَجْدَارِيَّتِهِ حَتَّى قُلْتُ وَخَاطَبْتُ لِزَكَرِيَّا عَلَيْهِ

نباتات اور جمادات بھی اپنی لیاقت اور صلاحیت کے مطابق حتیٰ کہ تو نے فرمایا اور خطاب کیا حضرت زکریا علیہ

السَّلَامُ عِنْدَ الصُّرَاخِ وَالِدَّاعُوَّةِ إِلَى الرَّحْمَةِ بَعْدَ الصُّرَاخِ لِسُبْقَةِ الرَّحْمَةِ

السلام کو ان کی فریاد اور التجا رحمت کے وقت ساتھ (صبر اور) سکوت کے بسبب سبقت لے جانے رحمت باری کے

الْإِتِّقَةِ بِالنُّبُوَّةِ الصَّبْرِيَّةِ السَّابِقَةِ الْجِبَالِيَّةِ الْكَمَالِيَّةِ عِنْدَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ

جو لائق ہے مقام نبوت کے جو سبقت لے جانے والے صبر اور جمال و کمال والی ہے قیامت کے دن۔ اور وہ

فِي عَيْنِ الرَّحْمَةِ لِتَقْدِيرِ النُّبُوَّةِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ ظُهُورِ الْمَالِكِيَّةِ وَالسُّلْطَنَةِ

عین رحمت میں ہیں بسبب مقدر ہونے ان کی نبوت کے جو سراپا ظہور ہے مالکیت و سلطنت کا

الْمُجَرَّدَةَ عَنْ شَوَائِبِ الظُّلْمَةِ مِنْ تَعْيِّنَاتِ الْمُقَيَّدَةِ وَالْمُتَوَكِّلَاتِ

جو مبرا ہے ظلمت اور تاریکی کی آمیزشوں سے یعنی تعینات مقیدہ سے اور مختلف قسم کی خواہشات نفسانیہ سے

وَلَمْ يَكُنْ زَكْرِيَّا مَكْشُوفَ الْحَالِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يَقْصِدِ الْإِلَهَ

اور حضرت زکریا علیہ السلام مطلع نہ تھے حقیقتِ حال پر اس حالت میں ورنہ قصد نہ کرتے فریاد

الصُّرَاخِ وَالِاسْتِعَانَةَ بَلْ مَنَعَ الْقَلْبَ عَنِ الدَّعْوَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِإِنِّهَا

اور استغاثہ کا بلکہ روکتے دل کو حقیقی دُعا سے بسبب واصل ہونے ان کے حق

إِلَى الْحَقِّ بِسَبَبِ دَاءٍ شَدِيدٍ أَلِيَهُ مُفَرِّقٍ لِلْهَيْئَةِ الْبَدَنِيَّةِ فَيَا إِلَهَ كُلِّ

کی طرف بسبب شدید اور دردناک بیماری کے جو پراگندہ کرنے والی تھی بدنی ہیئت کو پس اے تمام

مَوْجُودَاتٍ أَنْتَ رَحِيمٌ رَحِمَ بِاسْتِعْدَادِ الْخَاصِّ حَتَّى أَتَرْتَنِي فِي كُلِّ

موجودات کے معبود تو رحیم ہے پس رحم فرما استعدادِ خاص عطا فرما کہ حتیٰ کہ میں ترقی کروں ہر ہر

لِحَاةٍ وَبَرَهَةٍ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ إِلَى جَسَدِي أَوْ قَلْبِي أَوْ غَلْبَةِ نَفْسِي أَمْ لِي

لمحہ اور ساعت بغیر کسی جہان اور قلبی مانع کے اور نفسِ امارہ کے غلبہ کے

مُلْحَقَةٍ بِنَارِيَّةٍ وَهَارِيَّةٍ إِلَهِي الْإِنِّكَ مُتَعَاقِبَةٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ طَائِرَةٌ

جو لاحق کرنے والا ہے دوزخ کی آگ کے ساتھ اور اس میں گرانے والا ہے۔ اے میرے الٰہ تیری نعمتیں مسلسل اور غیر محدود اور ظاہر ہیں

مُجُوبَةٌ عَنْ تَعْدِيدٍ وَأَحْصَاءٍ بَلْ مُتَحَدِّثَةٌ فِي قُوَّةٍ بَاصِرَةٍ فَيُنَادِيكَ بِالنَّارِ

ان کی گنتی اور احاطہ ناممکن ہے بلکہ وہ نگاہوں کو حیران اور خیرہ کرنے والی ہیں پس تیری حمد (کا سلسلہ) دراز ہے۔

وَشُكْرُكَ عَسِيرٌ وَلُطْفُكَ يَسِيرٌ وَإِلَّا كَيْنَ أَنَا مُصِيبٌ إِلَهِي قَدْتُ

اور تیرا شکر مشکل ہے اور تیرا لطف و کرم آسان ہے (از روئے حصول کے) ورنہ میں اسے کس طرح پاسکتا۔ اے میرے الٰہ بیشک تمام

الْحَرَكَاتُ فِي الشَّخْصِيَّاتِ وَالسَّكِّنَاتِ فَكَيْلُنِي الْآنَ وَالْآنَ

و کمال ہر جگہ ہیں حرکات و سکناات کائنات کے اشخاص میں پس اب مجھے کمال فرما اور میرے اعضاء و اجزاء کو حتیٰ کہ میں تصرف

كَلَّ فِي مَرْكَزِهِ وَمَحَلِّهِ مَعَ بَصِيرَةٍ عَرَّافَةٍ لِحُزْنِيَّاتِ لِحُزْنِيَّاتِ

کروں ہر فرد کائنات میں اس کے مرکز اور محل میں بسچ اس بصیرت کے جو پہچان کرنے والی ہو جزئیاتِ لاحقہ کی جو مندرج ہوں

وَلَايَةَ كُلِّيَّةٍ بِحَيْثُ يُوَافِقُهَا الْوَلَايَةُ الْأَقْطَابِيَّةُ وَالْأَوْتَادِيَّةُ مَعَ فُنُونِ

ولایت کلیہ کے تحت اس انداز سے کہ موافق ہوان کے ولایت اقطابیہ اور اوتادیہ بمع اپنے مختلف طریقوں کے

طُرُقَهَا طَاوِيَةً لِعَلِّي الطَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا اللَّهُمَّ كَيْلُ أَوْقَاتِي

در آنجا یکہ وہ ولایت پیننے والی ہو ظاہری و باطنی علموں کو ان کے ظاہر سے ۔ لے اللہ کامل فرما میرے اوقات

وَتَيْمَمِ أَنَا تِي بِحَيْثُ تَخَالِصُهُ عَنْ تَشْوِيشَاتِ خَطَرَاتِي وَوَسَاوِسِ خَتَّاسِي

کو اور کمل فرما میرے لمحات کو اس انداز سے کہ خالص کر دے انہیں میرے اندیشوں کی پراگندگیوں اور خناس کے وسوسوں

اللَّهُمَّ بِنُورِكَ السَّاطِعِ فِي بَدَنِي حَتَّى تَمْلَأَ عُرْوَتِي وَأَمْعَانِي وَيُخْرِجَ مِنْ

لے اللہ بسبب اپنے نور کے جو غلبہ پانے والا ہے میرے بدن میں حتی کہ میری رگوں اور انتڑیوں کو بھر پور کر دے اور

حَدَاقَةِ بَصَرِي شُعَاعٌ مُجِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَيَصِيدُ نَحْوَ الْعَلْتِ غَدَاءَ لِمَنْ

برآمد ہو میری آنکھ کی پتلی سے ایسی شعاع جو ہر شئی کو محیط ہو اور ہو جائے مانند جو علی گندم کے غذا واسطے ہر شخص

يُقَابِلُ بِهِ وَيَسْتَرْشِدُ هَذَا مِنْ إِعْطَائِكَ وَإِقْدَارِكَ اللَّهُمَّ نُورُكَ مِعْزَلِمَنْ

کے جو سامنے آئے اور یہ رشد اور بھلائی تیری عطا اور توفیق سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے ۔ لے اللہ تیرا نور عزت بخشے اور بے تیری

يَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ وَمِنْ لِمَنْ يُعْرَضُ عَنْكَ فَعِظْمَتِي بِمُشَاهَدَةِ أَنْوَارِكَ وَبِالْعَلْتِ

طرف متوجہ ہونے والے کو اور ذلیل کرنے والا ہے تجھ سے منہ موڑنے والے کو، مجھے عظمت بخش اپنے انوار کے مشاہدہ کے ساتھ اور ساتھ حقیر

مَعَ هَذِهِ الْأَمَارَةِ حَتَّى تَصِيرَ مُطْمَئِنَّةً فَادْخُلِي يَوْمَ السَّرُورِ فِي الْخُطَابِ فَذَلِكَ

انوار کے ساتھ نفس امارہ کے یہاں تک وہ نفس مطمئنہ بن جائے تاکہ ہو جائے مخاطب دخول جنت کے حکم کا سرور کے دن ۔ یہی ہے

غَايَةُ مُجْدِي وَفَخْرِي فَأَعْطِنِي فِيهَا أَمِينَ يَا عَظِيمُ ذَا الشَّانِ الْفَاخِرِ وَالْعَزِيزِ

میری انتہائی بزرگی اور سرمایہ فخر پس مجھے عطا فرما اس سے آمین ۔ لے عظیم ۔ لے قابل فخر شتاہ اور عزت و کبریاں

الْكَبِيرِ يَا عَظِيمِي بِالشَّانِ لَكَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَي نَفْسِكَ وَاجْعَلْنِي ذَا الْخَيْرِ بِحَيْثُ

کے مالک مجھے عظمت بخش اپنی شتاہ کے ساتھ مانند اس شتاہ کے جو ذات کے لیے کہ ہے اور بنا دے مجھے ایسے فخر و اعزاز وال

لَا يَزَالُ وَلَا يَخْفِضُ وَاجْعَلْنِي عَزِيزًا فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ أَمِينٌ يَا قَرِيبُ

کہ جو نہ زائل ہو اور نہ پست ہو اور بنا مجھے عزت والا اپنے ملک و ملکوت میں آمین ۔ لے قریب

الْبُحْبُوبُ الْمَكْدَانِيُّ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ قَرِيبَةٍ قَرِيبِي إِلَى الْعَقْلِ الْأَوَّلِ وَالْمَلِكِ

اے قبول کرنے والے۔ اے بہت فیض رساں۔ ہر چیز سے مقدم ہے قریب جس کا مجھے قریب فرما عقل اول اور ملک

الْمُقَرَّبِ صَاحِبِ اللُّوْحِ وَالْأَمِّ ثُمَّ مِنْهُ إِلَى أَنْوَارِهِ مِيَادِينِ الْجِبَالِ وَالْجَلَالِ فَأَجِبْنِي

مقرب کے جو لوح محفوظ اور ام کتاب پر مومل ہے۔ پھر اس سے ان انوار کی طرف جو جمال و جلال کا وسیع میدان ہیں پس قبول

يَا مُجِيبَ اللَّهُمَّ أَنْتَ مُحِيطٌ قَرِيبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ بِلا كَيْفٍ وَلَا كَيْفٌ بِلا كَيْفٍ هَذَا الْوُصْفُ

فرما مجھے۔ اے قبول کرنے والے۔ اے اللہ تو محیط و قریب ہے ہر شئی کے بلا کیف و کم بلکہ یہ توصیف بھی

أَيْضًا كَيْفٌ عِنْدَ التَّنْزِيهِ الْإِطْلَاقِي وَالتَّعْبِيرِ لِضَرُورَةِ دَاعِيَةٍ فِي الْعَبْدِ بِوَجُودِ

اثبات کیف (کے حکم میں) ہے تنزیہ مطلق کے وقت اور ہماری یہ تعبیر بوجہ مجبوری کے ہے جو داعی ہے عبد کے لیے سبب پلٹے

التَّعْذُرِ فِي الْأَدَاءِ الْمَطْلُوقِي وَأَنْتَ مُنْزَهٌ لِيَنْ أَنْ تُعْبَدَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مَقَامِ

جانے تعذر و استحالہ کے اداء مطلق میں اور تو منزہ ہے اس سے کہ تجھ پر حکم کیا جائے۔ اے اللہ بنا مجھے مقام

الْإِطْلَاقِ بِالْقُرْبِ مِنْكَ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ غَيْرُكَ ثُمَّ الْعِبَارَةُ أَيُّ عِبَارَةٍ كَانَتْ بَلْ

اطلاق اپنا قریب عطا فرما کر حتیٰ کہ ساقط ہو جائے تیرا ما سوا (میری نظر سے) پھر تعبیر جیسی بھی ہو مضائقہ نہیں بلکہ ہو

مُلَاحِظًا بِعَيْنِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْحَصِرَ فِي مَقَامِ دُونَهُ بَلْ تَشْرَعُ إِلَى وَرَاءِ

جا میں مشاہدہ کرنے والے دل کی آنکھ کے ساتھ بغیر مفید ہونے کے ساتھ ایک مقام کے بغیر دوسرے مقام کے بلکہ تنزیہ سے نیچے وہ تعبیر

فَلَكَ الْأَفْلَاقُ وَلَا تُقَرِّبْنِي مِنَ النَّاسِ وَالصَّلَاةُ الْعَنْصَرِيُّ الْكَثِيفِيُّ

فلک الافلاک کے پار اور نہ قریب فرمانا مجھے ناسوتی، ارضی، خشک بچنے والی کثیف عنصر والی مادی اشیاء کے

وَقَرِّبْنِي إِلَى أَبِي الْأَرْوَاحِ الْمُحَمَّدِيِّ بِالرُّوحِ وَالْقَلْبِ حِينَ بَقَاءِ

بلکہ قریب فرمانا مجھے ابو الارواح روح محمدی کے روح و قلب کے ساتھ تا وقتیکہ

الشَّخْصِ الْعَنْصَرِيِّ آمِينَ بِحَقِّ يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَمَعَاذِي عِنْدَ

شخص عنصری باقی ہے آمین بطفیل (ان التجاؤں کے) اے میرے فریاد رس ہرغم و اندوہ میں اور جائے پناہ

كُلِّ شِدَّةٍ وَمُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ وَرَجَائِي حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي أَحْسَنُ

ہر شدت اور سختی میں اے قبول فرمانے والے دعا کے وقت ہر سوال و دعا کے۔ اے میری رجا و امید وقت منقطع ہو جانے حیدری

هَذِهِ الدَّعَوَاتُ مِمِّي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ قَبْلَ شَبْرٍ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِلِلْهِةٌ أَمِينٌ ط

قبول فرما میری ان دعاؤں کو وقت قبول فرمانے کسی بھی دعا کے بطفیل و تصدق ان اسماء الہیہ کے آمین

يَا مُوَلَّائِي وَيَا نَجْوَانِي وَيَا شَكُوَانِي عَبْدُكَ قَدْ ضَاقَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَ

اے میرے مولیٰ۔ اے میرے ہمنشین و مشیر۔ اے میری شکایات دور کرنے والے تیرے اس عبد پر اسباب و وسائل

غُلِقَتْ دُونَهُ الْأَبْوَابُ وَتَعَدَّرَ عَلَيْهِ سُلُوكُ طَرِيقِ الصَّوَابِ وَزَادَ بِهِ

تنگ ہو چکے ہیں اور اس کے سامنے دروازے بند کر دئے گئے ہیں اور مشکل ہو گیا ہے اس پر راہ راست پر چلنا اور بڑھ گیا

الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْإِكْتِيَابُ وَالنَّقْضُ عَمْرَةً وَلَمْ يَفْتَحْ لَهُ إِلَى فَيْسِحِ تِلْكَ الْحَضْرَاتِ

ہے اس کا غم و اندوہ اور حزن و ملال اور ختم ہونے کو ہے عمر اس کی اور ابھی تک نہیں دور ہوئی اس کے لیے ان بارگاہوں کے وسیع میدانوں

وَمَنَاهِلِ الصَّفْوِ وَرَاعَاتِ بَابِهِ وَالنَّفْسُ ذَائِقَةٌ فِي مِيدَانِ الْغَفْلَةِ وَدَنِي

اور شقائق پانی کے گھاٹوں کی طرف جانے والے راستہ کی رکاوٹیں۔ اور اس کا نفس لذت گیر ہے میدان غفلت میں اور ایٹانے ہونے

الْإِكْتِسَابِ وَأَنْتَ الْمَرْجُو لِكَشْفِ هَذَا الْمِصَابِ هَاهَا هَاهَا هَاهَا

ہے گھٹیا افعال کو اور تجھی سے امید کی جاتی ہے اس آفت کے دور کرنے کی۔ افسوس، افسوس او۔ او۔

هَاهَا هَاهَا هَاهَا أَقْبَنِي بِصَدَقِ الْعِبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ

اے۔ اے۔ اے۔ قائم فرما مجھے سچی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں آمین۔ آمین۔ آمین

أَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اسماء کے طفیل کہ صلوات نازل فرمانے محمد کریم پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي إِيْمَانًا وَأَمَانًا مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور آل محمد پر اور مجھے ایمان و امان نصیب فرمانے دنیا و آخرت کی عقوبتوں سے

وَأَنْ تُصَرِّفَ عَنِّي أَبْصَارَ الظُّلْمَةِ وَالْمُرِيدِينَ بِنَا السُّوءِ وَأَنْ تُصَرِّفَ

اور پھیر دے مجھ سے ظالموں کی اور بڑے ارادہ والوں کی نظروں کو اور پھیر دے

قُلُوبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يُضِرُّونَهُ إِلَى خَيْرٍ فَإِلَيْبِكَ غَيْرِكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ

ان کے دلوں کو اس پر شبیدہ شر سے طرف اس خیر کے جس کا سوائے تیرے کوئی مالک نہیں ہے۔ اے اللہ یہ دعا و التجا ہے

مِثِّي وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ مِثِّي وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

میری طرف سے اور قبولیت تیری طرف سے ہی ہے۔ اور یہ میری سعی و کوشش ہے اور تجھی پر توکل ہے اور نہیں

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

قوت و طاقت مگر ساتھ اللہ علی عظیم کی توفیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ تَحِيٍّ بِهَا رُوحِي وَتَوْقُرٍ بِهَا فَتُوْحِي وَتَرْفَعُ بِهَا حُجْبِي وَتُنَوِّرُهَا

جس صلوٰۃ کے طفیل زندہ کر دے میری روح کو اور باوقار بنائے میری فتوحات کو اور اٹھائے میرے حجابات کو اور منور فرمائے

قَلْبِي وَتَأْكُدْ بِهَا حُجْبِي وَتُحَقِّقْ بِهَا قُرْبِي وَتُرَكِّبْ بِهَا لَبِّي وَتُقَرِّبْ بِهَا

میرے دل کو اور راسخ فرمائے میری محبت کو اور پائیدار بنائے میرے قرب کو اور پاک فرمائے میری عقل کو اور دور فرمائے

كُرْبِي وَتَكْشِفْ بِهَا غَيْبِي وَتَغْفِرْ بِهَا ذَنْبِي وَتَسْتُرْ بِهَا غَيْبِي وَتُوَهِّلُنِي

میرے رنج و الم کو اور دور کرے غم و اندوہ کو اور بخش دے میرے گناہ اور چھپا دے میرے عیوب کو اور اہل و قابل بنائے مجھے

بِهَا لِرُبِّيَّةٍ وَمُشَاهَدَاتِهِ وَرِضَائِهِ وَتُعَهِّدُنِي بِمُكَالَمَتِهِ وَمُشَافَهَتِهِ

اپنے محبوب کے مشاہدہ و دیدار کے اور ان کی رضا مندی کے اور تو عہد فرما میرے ساتھ ان سے ہمکلام کرنے اور رو برو بات چیت

وَوَفَّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى بِتَوَجُّهِ الْعَفَافَةِ بِالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کرانے کا۔ اور مجھے توفیق دے اپنے محبوب اور پسندیدہ امور کی بسبب متوجہ کرنے عفت و رضا کے میری طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ أَحَادِيثٍ وَالْأَثَارِ فِي جَمِيعِ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد تمام احادیث اور آثار کے جو تمام

كُتُبِ السَّمَاوِيِّ وَكُتُبِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آسمانی کتابوں اور ابرار کی کتابوں میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ الدَّلَائِلِ وَالْأَخْبَارِ فِي الْإِخْفَاءِ وَالْإِظْهَارِ مِنْ

آل محمد پر مطابق تعداد تمام دلائل اور اخبار کے خواہ اخفاء سے متعلق ہیں یا اظہار سے

كُلِّ الدُّنْيَا وَالذُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ساری دنیا سے اور تمام زمانوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ حَرَكَاتِ الْقَائِمِينَ الْقَائِدِينَ وَذَرَاتِ الْأَرْضِينَ وَحَرَكَاتِ

پر مطابق تعداد تمام اہل قیام اور اہل قعود کی تمام حرکات کے اور تمام زمینوں کے تمام ذرات کے اور آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَقَرَارِ الْأَرْضِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کی حرکات اور زمینوں کے قرار کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْغُفْرَانِ فِيْ حُبُوْحَةِ

محمد پر مطابق تعداد ہر رحمت اور رضوان کے اور مغفرت اور غفران کے جنتوں کے وسط اور اعلیٰ مقام

الْجَنَّةِ بِفَضْلِ الرَّحْمَنِ بِالْإِيقَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

میں ساتھ فضل رحمن کے بسبب توفیق ایقان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مِيزَانِ الْبِيزَانِ وَأَقْرَبِ الصَّنَدَانِ وَشَبَابِ وَشَبَابِ

آل محمد پر مطابق میزان کی پری۔ بلند ٹیبوں کی مقدار اور عداوت و دشمنی اور تمام جوانوں اور

شُجَاعِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا

بہادروں کی مقدار کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد شب و روز

تَكَرَّرَ الْجَدِيدَانِ وَمَا تَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَمَا اسْتَحَبَّ الْفِرْقَانِ وَحُلُومِ

کے تکرار کے اور زمانوں کے تعاقب و تسلسل کے اور فرقان نامی ستاروں کی باہمی محبت کے اور ہر شیرینی و ہر

فَيْضَانِ وَفُرْقَانِ وَمُدَاهِمَتَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور فیضان و فرقت اور سرسبز ترین جنتوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

بَعْدَ الْقُدْرِ وَالْإِمْكَانِ وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْخَيْرِ وَالْإِيقَانِ وَالْإِسْلَامِ

مطابق تعداد تقذیرات اور ممکنات کے اور برو احسان اور خیر و ایقان اور اسلام

الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

و ایمان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

صَائِعِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيْ آخِرِ عَشْرَةِ الرَّمَضَانَ اللَّهُمَّ

ماہ رمضان کے روزہ داروں کے اور قیام کرنے والوں کے لیلۃ القدر میں عشرہ اخیرہ کے اندر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ صَلَواتِ الْعَالَمِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر مطابق تعداد شور چشموں کے

وَخَيْرِ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَالْخَوَاطِرَ وَالظُّنُونِ وَفُتُونِ وَسَيِّئَاتِ الْجَبَّارِينَ وَالْجَبَّارِينَ

اور جمع کی ہوئی خیر اور بھلائیوں کے اور خیالات و گمانوں کے اور فتون و اقسام اور سیجون و جیجون اور امداد و اعانت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَعْضَاءِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اعضاء کے

وَتَسْحِيرِهَا وَالسَّفَرِ وَمَنْزِلِهَا وَالْهَدْيِ وَسُكَّانِهَا وَالْقَدْرِ وَعُطَيَّاتِهَا اللَّهُمَّ

اور ان کی سحر خیز یوں کے اور سفروں اور ان کی منزلوں کے اور سیرتوں اور ان پر کار بند لوگوں کے اور تقدیروں اور ان کی پردہ دار یوں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ النُّجُومِ وَكَوَاكِبِهَا

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد نجوم و کواکب کے اور

النباتاتِ وَأَصْنَافِهَا وَالْأَشْجَارِ وَأوراقِهَا وَالْأَحْجَارِ وَمَالِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

نباتات اور ان کے اقسام کے اور درختوں اور ان کے پتوں کے اور پتھروں اور ان کے ذرات کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذُرَّاتِ الشَّمْسِ وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ذرات آفتاب کے اور

مَنَازِلِهَا وَالطُّيُورِ وَأَجْنِحَتِهَا وَالْمَدَارِ وَالثَّقَالِهَا وَالْقَمَرِ وَأَنْوَارِهَا اللَّهُمَّ

اس کی منزلوں کے اور پرندوں کے اور پرندوں کے اور اوزان کے اور چاند اور اس کے انوار کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْوُحُوشِ وَبَالِهَا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد جنگلی جانوروں کے اور ان کے احوال کے

وَالْأَعْوَامِ وَشُهُورِهَا وَدَوَامِ دُهُورِهَا وَالْغُيُومِ وَسُرُورِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سالوں کے اور ان کے مہینوں کے اور زمانوں کے دوام اور ان کے غم اور خوشیوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبِحَارِ وَأَمْوَاجِهَا وَالْأَيَّامِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد سمندروں کے اور ان کی امواج کے اور ایام

وَكَيْالِيهَا وَالْعِلْمَ وَأَقْيَاسَهَا وَالْعُلُومَ وَإِقْتِيَاسَهَا وَالْكَوَاكِبَ وَمَنَازِلَهَا

اور ان کی راتوں کے اور علم کے اور اس کے قیاسات کے اور علوم اور ان کے حصول و استفادہ کے اور ستاروں اور ان کی منازل کے

وَالْمَلَائِكَةَ وَتَسْبِيحِهَا وَالسِّيَّارَاتِ وَتَسْبِيحِهَا وَالْقَمَرَ وَتَثْلِيثِهَا وَالشَّمْسَ وَ

اور ملائکہ اور ان کی تسبیحات کے اور سیارات اور ان کے شش پہلو ہونے کے اور چاند اور اس کے سہ پہلو ہونے کے اور سورج

تَحْوِيلِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْإِيَّامِ

اور اس کے ڈھلنے بدلنے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ایام

وَسَاعَاتِهَا وَالْأَحْيَاءِ وَأَمْوَاتِهَا وَشُهُورِهَا وَسَنِيَّهَا وَدُهُورِهَا وَدَيُّمِهَا اللَّهُمَّ

اور ان کی ساعات کے اور زندہ لوگوں اور ان کے فوت شدگان کے اور مہینوں۔ سالوں اور زمانوں اور ان کی قدیمی و درازی

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبُخْلُوقَاتِ وَأَنْفُسِهَا

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد مخلوقات کے اور ان کے نفوس کے

وَالْأَجْسَامَ وَأَرْوَاحِهَا وَالْأَقْطَابَ وَخِيَالِهَا وَالْأَغْوَاتِ وَحَالِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اجسام اور ان کے ارواح کے اور اقطاب اور ان کے خیالات کے اور اغوات اور ان کے احوال کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَفْلَاقِ وَأَبْرَاجِهَا وَالطَّبَائِعِ

و سلم نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد افلاک کے اور ان کے برجوں کے اور طبائع کے

وَأَمْتِزَاجِهَا وَمُتَرَدِّدِ الْحَالِ وَإِسْتِمْرَاجِهَا وَالْمَرِيضِ وَإِسْتِعْلَاجِهَا اللَّهُمَّ

اور ان کے باہم اختلاط کے اور پراگندہ حال اور موافق طبائع والوں کے اور مریضوں کے اور ان کے معالجات کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الدَّوَابِّ وَبَوَاشِيْهَا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد جانوروں اور موشیوں کے

وَالشَّرَافِ وَأَشْرَافِهَا وَالْإِنْكَشَافِ وَإِنْكَشَافِهَا وَالتَّحَافِظِهَا وَالطَّافِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

اور شرفاء و اشراف کے اور انکشافات و توضیحات کے اور بیٹنے اور عنایات کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ الْبُخْلُوقَاتِ وَحُرُوفِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تمام مخلوقات کے انفاس کے اور لوح محفوظ کے حروف کے

اللَّوْحِ وَالذَّعْوَاتِ وَالتَّوْبَةِ وَاسْتِجَابَتِهَا وَالْخُشُوعِ وَاجْتَابَهَا اللَّهُ صَلَّى

اور دعوات کے اور توبہ اور اس کی قبولیت کے اور خشوع و فروتنی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَسْوَاكِنِ سَبْعِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد سکونت پذیروں کے ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں

وَأَشْعَارِ الْمَوْجُودَاتِ مَعَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْخَيَالَاتِ اللَّهُمَّ

اور موجودات کے بالوں اور حرکات و سکنات کے اور ان کے ارادوں اور خیالات کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ فَضْلِ اللَّهِ وَشُكْرِ اللَّهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل و شکر کے

وَذِكْرِ اللَّهِ وَاقْتِصَادِ اللَّهِ وَأَفْصَادِ اللَّهِ وَأَطَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور اس کے ذکر کے اور اس کی عطا کردہ میانہ روی اور جاگیروں اور بلند لیوں اور برتریوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَبِهَاءِ اللَّهِ وَإِصْطِفَاءِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی قضاء اور اس کی نورانیت اور اس کے انتخاب کے

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ عِنَايَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی عنایت کے

اللَّهُ وَحِمَايَةِ اللَّهِ وَأَحْبَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور حمایت اور احباب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِسْخِيَاءِ اللَّهِ وَأَنْبِيَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق تعداد اپنے سخیوں اور نبیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اتِّقْيَاءِ اللَّهِ وَأَوْلِيَاءِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے متقیین اور اپنے اولیاء کرام

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے

سَعْدَاءِ اللَّهِ وَشُهَدَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سعادتمندوں اور شہیدوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُنْبِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر مطابق تعداد اپنے ہر نبی اور ہر رسول کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَوْلِيَاءِ الْعِزْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے اولوالعزم مرسلین کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ نَجِيبِ اللَّهِ وَأَمِينِ اللَّهِ وَبَيَانِ اللَّهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے ہر نجیب و بلند نشان اور امین بندے کے اور اپنے بیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ خَيْرَةِ اللَّهِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے پسندیدہ افراد کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ خَيْرِ اللَّهِ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنے ہر پسندیدہ اور

حَبِيبِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

محبوب کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

كَرَامَةِ اللَّهِ وَحُجَّةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی کرامت و بزرگی کے اور اپنی دلیل و حجت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ هِدَايَةِ اللَّهِ وَصَفْوَةِ اللَّهِ وَعِبَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر مطابق تعداد اپنی ہدایتوں کے اور اختیار و انتخاب کے اور تمام بندوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ رِضَاءِ اللَّهِ وَعِلْمِ اللَّهِ وَخِلَاصَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد اپنی رضا اور علم اور اپنی خالص و مخلص مخلوق کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

نُقْبَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے مقرر کردہ نقباء و نگہبانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ نَجْبَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق تعداد اپنے عالی مرتبت بندوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَقْطَابِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر مطابق تعداد اپنے مقررہ فرمودہ اقطاب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل اطہار پر مطابق تعداد اپنے مقررہ فرمودہ دعوات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل اطہار پر مطابق تعداد اپنے تمام تر عشقوں اور محبتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل محمد پر مطابق تعداد اپنے تمام عشاق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد پر مطابق تعداد ہر عشق خلق کے جو متعلق ہے تیری ذات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر مطابق تعداد اپنے ہر معشوق و محبوب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی آل پر مطابق تعداد اپنی تمام بیانات و واضح آیات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنے تمام بلاد اور آبادیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُعَاوَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اپنے تمام اصفیاء و خالص عباد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَفْخُلُوقِ اللَّهِ إِلَيْهِمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد و آل محمد پر مطابق تعداد اپنی تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ظُهُ وَطَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ظہ اور طس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اسماء حسنیٰ کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْوَرَىٰ وَالثَّرَىٰ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام مخلوق کے اور دلہنی مٹی کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ السَّيَّارِ وَالثَّرِيَّا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد سیارات کے اور تریار کے ستاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرِّيحِ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر آندھی اور

الْبَوَارِي وَالصُّحُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جنگلات اور صحراؤں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطوار

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا خُلِقَ فِي الْبَدَايَةِ وَالنَّهَائَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر مطابق تعداد تمام مخلوق کے ابتداء و انتہاء میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ وَالصَّلَوَةُ وَالرَّحْمَةُ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق برکات و صلوات اور رحمت کے دوام کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ لَيْلَةِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شب معراج

الْبِعْرَاجِ وَالْعِمَامَةِ وَالنَّجَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور عمامہ اور تاج کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَالسَّفْعِ وَالْوَتْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

کی آل پر مطابق تعداد منازل قمر کے اور ہر جنت و طاق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الشُّوْكِ وَالشَّجْرِ وَالشَّمْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر کانٹے اور درخت اور پھل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا دَارَ الدُّهُورُ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک زمانہ دائرہ سائر رہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا تَكَرَّرَ رَجَبٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک بہترین مہینہ رجب

خَيْرِ الشُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بار بار آتا رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

بَرَكَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرَحْمَتِكَ

اپنی برکات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی رحمتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرَأْفَتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی رافت و مہربانی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرِضْوَانِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی رضا و رضوان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِمَعْلُومٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنے معلومات

لَكَ وَقِرَانِ اسْمِهِ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کے اور مقارن ہونے اس (محبوب) کے اسم کے ساتھ تیرے اسم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

آل پر مطابق تعداد روزہ رکھنے والوں کے ماہ رمضان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبَحْرِ وَأَنْهَارِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تمام سمندروں اور دریاؤں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد بلند مرتبت رسولوں کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَاهِبِ الْعَطِيَّاتِ وَالْخَيْرَاتِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد عطیات و خیرات کے ہمہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا خَلَقَ فِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق سمندروں کی مخلوقات

إِبْحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَلَّى

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ذرور بھیجنے

عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والوں کے ان پر تیری مخلوق میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

مطابق تعداد ان اشیاء کے جنہیں تیرا علم محیط ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا جَرَىٰ بِهِ قَلْبُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کے ساتھ تیرا قلم جاری ہوا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا نَفَذْتَ بِهِ مَنِيَّتَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل پر مطابق تعداد ان اشیاء کے کہ نافذ ہوئی ان کے ساتھ تقدیر تیری۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ان حضرات کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان علوم کے جو اللہ نے سکھائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّيْلِ وَالذُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر مطابق تعداد راتوں اور زمانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُخُولِ نُوْرِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور آل محمد پر مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ الوار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر رات کے جو اپنی تاریکی کے ساتھ ڈھانپ لے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر دن کے جبکہ روشن ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرَّمْلِ وَالْثَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ریت کے فرات کے اور گیل مٹی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُخُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنی مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ رَمْلِ الْقِفَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ویرانوں کی ریت کے دانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الزُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام کلیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ النَّوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد گناہ سے بھگنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَحُوشِ الْقِفَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد جنگلات کے جانوروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْبَرَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَنْتَ مُلَاحِظُهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کا تو ملاحظہ کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ خَلْقِ اللَّهِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اس مخلوق کے

فِي حُبِّهِ مَحْفُوظًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو ان کی محبت کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ مَا فِي اللَّهِ مَلْطَاظُ اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کی شریعت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دَرَاغِ الْبِطَاطِ حِفَاظُ اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اطہار پر مطابق تعداد بدخلقی سے منزہ محافظوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ تَبِعَتْهُ يَوْمَ الْبَعْثِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ان لوگوں کے جنہیں تو اٹھانے کا قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوات

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا هُوَ حَاضِرٌ بَيْنَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد حاضر ہونے والوں کے

يَدَايِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

تیرے حضور میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

مَا هُوَ ثَابِتٌ بِتُبَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کے جو ثابت و قائم ہیں تیرے قائم رکھنے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ أَحْبَبْتَهُمْ وَنَصَرْتَهُمْ عَلَى أَعْدَائِ الدِّينِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر مطابق تعداد ان اہل ایمان کے جن سے تو نے محبت کی اور انہیں اعدا دین پر مدد دی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الدَّاءِ وَالذَّوَاءِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر بیماری کے اور اس کی دوا کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

جَوَاهِرِ الْفَرْدِ الَّتِي أَثْبَتَهَا الْكَلَامِيُّونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان جواہر فردہ کے جنہیں متکلمین نے ثابت کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْإِسْتِعْدَادِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعَقْلِيُّونَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان استعدادات کے جن کا تذکرہ کیا اہل عقل اور فلاسفہ نے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْمَذَاهِبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد مذاہب کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْمَشَارِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد مشارب و سالک کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْأَقْوَالِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اقوال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْأَحْوَالِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد احوال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْأَفْعَالِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد افعال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْأَعْمَالِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اعمال کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ آيَاتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی آیات

الْبَيْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

بیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

مَقْدُورَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے مقدورات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ مُرَادِ أَيْتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے ارادہ کے متعلقات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَسْمُوعَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پر اپنے مسموعات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَبْصَرَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر اپنے مبصرات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَرْضَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی رضامندیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَكُونَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ظِلَالِ أَسْمَائِكَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے اسماء کے عکسوں اور پرتوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ صِفَاتِكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی صفات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

شَاهِدَاتِهِ الْأَبْصَارُ وَسَبْعَتُهُ الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ

ان اشیاء کے جن کا آنکھوں نے مشاہدہ کیا اور جنہیں کانوں نے سنا اور صلوٰۃ و سلام نازل فرما آنکھوں پر مطابق تعداد

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يَصِلْ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَ

ان پر درود بھیجنے والوں کے اور صلوٰۃ و سلام فرما ان پر مطابق تعداد درود نہ بھیجنے والوں کے۔ اور صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا

سلام نازل فرما ان پر جیسے تجھے محبوب و پسندیدہ ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے اور صلوات و سلام نازل فرما ان پر جیسے کہ

أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور صلوات و سلام نازل فرما ان پر جیسے کہ لائق ہے ان کے کہ ان پر درود بھیجا جائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عِدَدَ نِعْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ان پر اور ان کی آل پر مطابق تعداد اپنی نعمتوں کے اور

أَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

فضل و کرم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے اہل و اصحاب

وَأَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَأَنْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ

اور اولاد پر۔ نواسوں۔ ازواج مطہرات اور ذریعات و اہل بیت پر اور عزت

وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَ

و عشیرت پر اور آپ کے تمام سرسوں پر اور دامادوں پر اور احباب و متبعین پر اور

أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ وَخَزَنَةِ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِينِ أَنْوَارِهِ وَكُنُوزِ

اہل جماعت و انصار پر اور آپ کے اسرار کے خزانہ کرنے والوں اور انوار کے معاون و مظاہر پر اور

الْحَقَائِقِ وَهُدَاةِ الْخَلَائِقِ وَنُجُومِ الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَىٰ بِهِمْ

حقائق کے خزانوں پر اور مادیات خلائق اور ستارگان ہدایت پر واسطے اہل اقتداء کے

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ رَضَىٰ

اور سلام نازل فرما بے شمار۔ دائمی و ابدی سلام اور راضی ہو تمام صحابہ کرام سے دائمی رضامندی کے ساتھ

سَرْمَدًا عِدَدَ خَلْقِكَ وَرِثَانَةَ عَرْشِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَمِدَادَ

مطابق تعداد اپنی مخلوق کے اور اپنی وسعت عرش کے اور اپنی رضامندی کے اور اپنے کلمات کی

كَلِمَاتِكَ وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ

سیاہی کے اور مطابق ہر بار تیرا ذکر کرنے والوں کے ذکر کے اور ہر بار تیرے ذکر سے غافل ہونے والوں کی غفلت کے

الْعَافِلُونَ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَ لِحَقِّهِ اَدَاءً وَ لَنَا صَلَاحًا

ایسی صلوات جو تیری رضا کا سبب ہو اور ان کی ادا حق کا موجب اور ہماری بھلائی اور بہتری کا موجب

اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِي فِي مُدَّةِ حَيَاتِي وَ بَعْدَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بنائے میری طرف سے میری حیات میں اور میری ممات

مَيَاتِي اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذَلِكَ اَلْفَ اَلْفِ صَلَوةً وَ سَلَامٍ

کے بعد ہزار در ہزار صلوات و سلام سے کئی گنا زائد اور کئی گنا زیادتی کے

مَضْرُوبِينَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَ اَمْثَالِ اَمْثَالِ ذَلِكَ عَلَي عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ

جو ضرب دیئے گئے ہوں اپنی مثل اعداد صلوات میں اور ان کی امثال در امثال اپنے عبد خاص اور نبی و

وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَرْقِيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلَي اٰلِهِ وَ

رسول سیدنا محمد نبی اُمّی اور رسول عربی پر اور آپ کے آل و

اَصْحَابِهِ وَ اَوْلَادِهِ وَ اَنْسَابِهِ وَ ذُرِّيَّاتِهِ وَ اَهْلَ بَيْتِهِ وَ اَحْبَابِهِ

اصحاب پر اور اولاد و ازواج اور ذریات و اہل بیت اور احباب

وَ اَصْحَابِهِ وَ اَنْصَارِهِ وَ اَشْيَاعِهِ وَ مَوَالِيهِ وَ خُدَّامِهِ وَ

اور سرال اور انصار اور اہل جماعت اور اہل محبت پر اور خدام پر اور

مُجَابِبِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلَّ صَلَوةٍ مِّنْ كُلِّ ذَلِكَ تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ

دربانوں پر۔ اے اللہ بنا ہر صلوات ان صلوات میں سے فائق اور عمدہ

صَلَوةً الْبُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ السَّمَوَاتِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِ اَجْمَعِينَ

ان پر صلوات بھیجنے والوں کی صلوات سے خواہ اہل سموات ہوں یا اہل ارض

كَفَضْلِهِ الَّذِي فَضَّلْتَهُ عَلَي كَافَّةِ خَلْقِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَيَا اِذَا

مانند ان کی ذاتی فضیلت کے جو کہ افضل و برتر ہیں تیری تمام مخلوق سے، اے سب سے بزرگتر

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْاَمِيْنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

عرش عظیم و امین کے مالک۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بیشک تو ہی سننے والے

والا ہے

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور ہم پر نظر رحمت فرما بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِدَخْلِكَ نُورَةَ وَرَحْمَةً

سیدنا محمد پر و آل محمد پر کہ سابق و اول ہے تمام مخلوق سے نوران کا اور مہربان رحمت ہے

لِلْعَالَمِينَ ظُهُورَةَ عَدَدِ مَا مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ

تمام جہانوں کے لیے ظہوران کا مطابق تعداد اس مخلوق کے جو گزر چکی اور جو باقی ہے اور جتنے سعادت مند ہوئے

مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةً تَسْتَفْرِقُ الْعَدُوَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةً لَا

اور جتنے بد بخت ہوئے ایسی صلوٰۃ جو تمام اعدا و شمار کو مستغرق ہو اور حدود و نہایات کو محیط ہو۔ ایسی صلوٰۃ کہ نہ ہو

غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءً وَلَا أَمَدًا لَهَا وَلَا انْقِضَاءً صَلَوةً الَّتِي

اس کی غایت اور انتہاء اور نہ ہو اس کا آخر و اختتام مانند تیری صلوٰۃ کے جو

صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةً مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ

تو نے ان پر نازل فرمائی۔ ایسی صلوٰۃ جو ان کی بارگاہ میں باریاب اور مقبول ہو ان کے نزدیک اور محبوب و پسندیدہ

إِلَيْهِ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَاؤِ مَكَ وَبِاقِيَةِ بَقَائِكَ لَا مُنْتَهَىٰ لَهَا

ہو ان کے ہاں۔ ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو تیرے دوام کی طرح اور باقی رہے تیری بقا کی مانند نہ ہو اس کی انتہاء و تحدید

دُونَ عِلْمِكَ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتُرْضِي بِهَا عَنَّا

بغیر تیرے (غیر محدود) علم کے، ایسی صلوٰۃ جو تجھے راضی کرے اور انہیں راضی کرے اور تو ہم سے سبب بسبب اس کے

صَلَوةً تَمَلُّا الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ایسی صلوٰۃ جو بھر دے زمین اور آسمان کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدَ النَّبِيِّ الرَّاهِدِ الرَّسُولِ الْمَلِكِ الصَّمِيدِ الْوَاحِدِ صَلِّ

محمد پر جو تارک دنیا نبی، شہنشاہ رسول، بے نیاز خلق اور یکتائے روزگار ہیں۔ صلوٰۃ بھیجیے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً دَائِمَةً إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ الْأَيْدِي لَا انْقِطَاعَ

اللہ تعالیٰ اور سلام ان پر ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو منتہائے ابد تک بغیر انقطاع

وَلَا تَفَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى

واختتام کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد نبی امی پر اور آپ کی

إِلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ

آل پر ایسی صلوات کہ نہ احاطہ کیا جاسکے اس کے اعداد کا اور شمار کیا جاسکے اس کی کثرت و ارتقاء کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةٌ دَائِمَةٌ الْإِتِّصَالِ وَالتَّوَالِي مُتَعاقِبَةٌ بِتَعاقِبِ الْأَيَّامِ

ایسی صلوات کہ جس کا اتصال و تسلسل دائم ہو اور جو متواتر و متعاقب ہو دنوں اور راتوں

وَاللِّيَّالِي الْمُطَابِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

کے تواتر و تعاقب کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی پاکیزہ و

الطَّيِّبِينَ الْكِرَامِ صَلَوةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ الْإِتِّصَالِ بِدَوَامٍ

عالی مرتبت آل پر ایسی صلوات جو متصل اور دائمی تسلسل ہو مطابق تیری

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ذات جلیل و کریم کے دام کے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُورِكِ الْعُلْيَةِ الْإِلَهِيَّةِ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد مخلوقات کی ان صورتوں کے جو تیرے علم نازل

وَالْكُونِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَرْوَاحِكِ اللَّطِيفَةِ الْمَجْرَدَةِ الْعَقْلِيَّةِ

کی آل اطہار پر اپنے مخلوق لطیف و مجرد ارواح عقلیہ

وَالنَّفْسِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

و نفسیہ کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الصُّوْرِ الْبِثَالِيَّةِ وَالْمُطْلَقَةِ الْمَقْيَدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اطہار پر مطابق تعداد صور مثالیہ کے اور تمام صور مطلقہ و مقیدہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ صُوْرِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

الْاَجْسَامِ الْمَحْسُوسَةِ وَالْمَشْهُورَةِ الْوَسْمُورَةِ الْوَالْمُتَوَكَّلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اجسام محسوسہ و مشہورہ کی صورتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَا وُجِدَ وَسَيُوجَدُ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر اس شئی کے جو موجود ہو چکی اور جو موجود ہوگی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْعَاشِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عاشقوں کے آنسوؤں کے قطرات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطْرَاتِ دُمُوعِ الْمَعْشُورِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد معشوقوں کے آنسوؤں کے قطرات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الذَّاكِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق تعداد اہل ذکر کے انفاس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْاَحْوَالِ الْمَعْتَوِرَةِ عَلٰی قُلُوبِ

آپ کی آل پر مطابق تعداد ان احوال کے جو وارد ہوں گے بعد دیگرے عارفوں کے

الْعَارِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

قلوب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ بَعْدَ رَكَعَاتِ الْمُتَطَوِّعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر مطابق تعداد نفلی عبادات والوں کی رکعات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ سَجَدَاتِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر شکر گزار اہل توفیق کے

الشَّاكِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سجدوں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ شَيْئِكَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ إِلَى آخِرِ

اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے شیون و تجلیات کے ابتداء ازل سے انتہائے

الْأَبَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابد تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بَعْدَ كُلِّ ذَرَّةٍ فِي الْجِبَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق تعداد ان ذرات کے جو پہاڑوں میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ قَطْرَةٍ فِي الْبَحَارِ الْفِ مَرَّةٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ان قطرات کے جو سمندروں میں ہیں ان سے دس لاکھ گنا

فِي كُلِّ لَمْحَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر ہر لمحہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْوَهِّيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق تعداد مظاہر ربوبیت والوہیت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ اللَّاهُوتِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان مظاہر کے جو عالم لاہوت و تجرد

وَالجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور عالم جبروت و تعلق میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

پر مطابق تعداد ان مظاہر کے جو عالم محسوس اور غیر محسوس عالم میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُسْرَىٰ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ان مظاہر کے جو تیسری دائیں مٹھی میں ہیں

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

دُنْيَا و آخِرَت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُسْرَىٰ فِي الدُّنْيَا وَ

آل محمد پر مطابق تعداد تیسری بائیں مٹھی والے مظاہر کے دُنْيَا و

الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

آخِرَت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَعْمَالِ الْحَقِيقَةِ الْخَلْقِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

پر مطابق تعداد افعال حق کے جو مخلوق سے متعلق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ قُوَى الْأَسْمَاءِ مَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اسماء کی قوتوں کے جو

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَظْهَرْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ظاہر ہو میں ان میں سے خواہ ظاہر نہیں ہو میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَظَاهِرِ الْأَنْبِيَةِ الْهُوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر مطابق تعداد وجودات تشخصیہ کے مظاہر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْوَاحِدِيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد احدیت، واحدیت اور وحدانیت

الْوَحْدَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے مظاہر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اظہار پر

بَعْدَ إِتِّصَالِ كُلِّ إِسْمٍ إِلَى مَوْجُودٍ وَمَعْدُومٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مطابق تعداد ان اتصالات و تعلقات کے جو اسماء کے لیے موجودات و معدومات سے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ أَنْفَاسٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اہل نعمت اور ارباب کرامت

أَهْلِ التَّعْيِيرِ وَالْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے انفاس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِضْعَافِ مَرَاتِبِ الْعَدَدِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر اعداد کے مراتب غیر متناہیہ سے کئی گنا زائد تعداد میں۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَلِكٍ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان ملائکہ کے جو ساتوں آسمانوں

وَالْأَرْضِينَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحِينَ وَالرَّاكِعِينَ وَالسَّاجِدِينَ وَ

اور زمینوں و غیرہ میں ہیں خواہ تسبیح خواہ رکوع و سجد کرنے والے یا

الْمُرْكُوعِينَ وَالْمَسْجُودِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رکوع و سجد میں جھکائے جانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَواتٌ دَائِمَةٌ بَاقِيَةٌ بِبِقَائِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور آل محمد پر ایسی صلوات جو دائم و باقی ہو بطغییل تیرے باقی رکھنے کے قیامت تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بَعْدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ

مطابق تعداد اس مخلوق کے جو گزر چکی اور جو باقی ہے اور جو سعادت مند ہیں ان میں سے یا بدبخت

صَلَاةٌ تَسْتَفْرِقُ الْحَدَّ صَلَاةٌ لَا أَنْصِرَ أَمْرٌ لَهَا وَلَا أَنْقِضَ أَمْرٌ لَهَا اللَّهُمَّ

ایسی صلوات جو مستغرق ہو حدود و نہایت کو اور ایسی صلوات جو نہ منقطع ہو اور نہ اختتام پذیر ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِكُلِّ بَعْدٍ

صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ إِنْسَانٍ وَنَحْلِ وَنَمْلِ وَجَرَادٍ وَجِيحَانٍ وَقُمَّلَةٍ وَبَعُوضَةٍ

تمام انسانوں، شہد کی مکھیوں اور چونٹیوں کے اور مکڑیوں کے اور دریائے جیحان اور جوڑوں اور ٹھپروں کے

وَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَهَا مِنَ الْحَيَوَانِ وَكُلِّ ذِي رُوحٍ وَجِنٍّ وَ

اور ان سے جسم میں زائد اور کم حیوانات کے اور تمام ذی روح اشیاء اور جنوں اور

ذَابَّةٍ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَى تَحْتِ الثَّرَى

جانداروں کے جو زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں میں ہیں یا ان کے درمیان راؤ پر سے لیکر تھت الثری

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تک دنیا کی تخلیق کے دن سے روز قیامت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق ساتوں آسمانوں کے

إِلَى الْعَرْشِ الْعُلِيِّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَبِعَدَدِ الْأَرْضِينَ إِلَى تَحْتِ

بع عرش اعلیٰ کے اور ان کے درمیان کی اشیاء کے اور مطابق تمام زمینوں کے بمع تحت

الثَّرَى وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا لَمْ تُنْتَهَى لَهَا وَغَيْرِهِمْ مَا فِي عِلْمِ

الثری کے اور ان کے درمیان والی اشیاء کے اور مطابق ان تمام اشیاء کے جن کی انتہاء نہیں اور ان کے علاوہ جو کچھ علم

اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

الہی میں ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِثِقَلِ بِهِمُوتِ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ

آل محمد پر مطابق وزن و ثقل اس جانور کے کہ زمین اس کی پشت پر ہے اور

طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَمَا حَمَلَهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا

مطابق اس کے طول و عرض کے اور مطابق تعداد ان کے جو اس نے اٹھا رکھے ہیں یعنی آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے

فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

ان کی تعداد سے کروڑوں گنا زائد ہر دن میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزِنَةِ الْقَلَمِ وَطُولِ الْقَلَمِ وَمَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق قلم کے وزن کے اور اس کی درازی کے مطابق اور مطابق

يَجْرِي بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ

تعداد ان اشیاء کے جن کے ساتھ جاری ہو گی قیامت تک ہر دن میں اس قدر کروڑوں بار -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بِطُولِ مَلِكِ الَّذِي دَخَلَ تَحْتَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَطُولِهِ

پر مطابق درازی اس فرشتہ کے جو داخل ہوا ساتوں زمینوں کے نیچے اور اس کے طول

وَعَرْضِهِ وَتَنَفُّسِهِ وَتَقْدِيرِيسِهِ وَتَسْبِيحِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ أَلْفِ

عرض اور تنفس اور تقدیس و تسبیح کی مقدار ہر دن میں کروڑوں

أَلْفِ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مرتبہ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزِنَةِ الثُّورِ الَّذِي أُهْبِطَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ وَ

آل محمد پر مطابق وزن اس بیل کے جو اُتارا گیا فردوس اعلیٰ سے اور

بَطُولِهِ وَعَرْضِهِ وَبَعْدَ قُرُونِهِ وَقَوَائِمِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ

مطابق اس کے طول و عرض کے اور مطابق اس کے سینگوں اور پاؤں کے ہر دن میں

أَلْفِ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کروڑوں مرتبہ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزِنَةِ يَاقُوتَةِ خَضْرَاءَ عَلَى ظَهْرِهَا اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر مطابق وزن سبز یاقوت کے جو اس کی پشت پر ہے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرما سیتا محمد پر اور آل محمد پر

بَعْدَ قَطْرَاتِ الْبَحْرِ الَّذِي يَتَنَفَّسُ فِيهِ وَبَعْدَ مَدِّ الْبَحْرِ وَ

مطابق تعداد قطرات اس سمندر کے جس میں وہ سانس لیتا ہے اور مطابق اس سمندر کے اور

جَزْراً الْبَحْرِ بِتَنَفُّسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مدو جزر کے بسبب اس کے تنفس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیتا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزَنَةِ صَخْرَةِ التِّيْ ذَكَرَ لِقِمَانُ لِابْنِهِ وَبَطُولِهِ

اور آل محمد پر مطابق وزن اس پتھر کے جس کا تذکرہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا اور اس

وَعَرْضِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

کے طول و عرض کی تعداد ہر دن میں کروڑوں بار۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَ

نازل فرما سیتا محمد پر اور آل محمد پر تمام اولین و آخرین میں اور

فِي الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ملاء و اعلیٰ میں قیامت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزَنَةِ الْقَافِ وَطُولِهِ وَعَرْضِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

اور آپ کی آل پر کوہ قاف کی مقدار اور اس کے طول و عرض کی مقدار ہر دن میں

أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہزاروں مرتبہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آل محمد پر

بِثِقَلِ الْأَشْجَارِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ

تمام روئے زمین کے درختوں کے ثقل و وزن کی مقدار ہر دن میں ہزار بار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِثِقَلِ الْبَحْرِ وَ

صلوات و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آل محمد پر روئے زمین کے سمندروں

الْأَنْهَارِ وَالْأَبَارِ وَالْعُيُونِ عَلَى الْأَرْضِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ

دریاؤں، کنوؤں اور چشموں کے ثقل و وزن کی مقدار ہر دن میں ہزاروں بار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِزِنَةِ الرَّقْلِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق وزن روئے زمین کی

فِي الْأَرْضِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ریت کے ہر دن میں ہزار بار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلًّا الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَجْجَارِ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق زمین کی پری کے اور اس پر موجود اشیاء کے

وَالْأَشْجَارِ وَالْأَشْجَارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

یعنی پتھروں، درختوں اور پھلوں کے ہر دن میں ہزار بار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر یہاں تک کہ نہ باقی رہے

صَلَوَاتِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تیری صلوات میں سے کوئی صلوات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَلِيَّ سَيِّدِنَا

پر حتیٰ کہ نہ باقی رہے تیرے سلاموں میں سے کوئی سلام۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر حتیٰ کہ نہ باقی رہے تیری رحمتوں سے کوئی رحمت (جو ان پر نازل ہوئی ہو) اے اللہ

بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

برکت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر حتیٰ کہ نہ باقی رہے تیری برکات سے

بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کوئی برکت (جو ان پر نازل نہ ہو)۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ رِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَانَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ

پر مطابق اپنی رضائے ذات کے اور مطابق وسعت عرش کے اور اپنے کلمات غیر متناہیہ کی سیاہی اور منتہی علم

وَزِنَانَةَ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اور تمام مخلوقات کی مقدار کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدَى الدُّنْيَا وَمَدَى الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر وسعت دنیا اور وسعت آخرت کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَن

محمد پر اور آل محمد پر ہر بار کہ ذکر کریں ان کا ذکر کرنے والے اور ہر بار کہ غافل ہیں

ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

ان کے ذکر سے اہل غفلت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ قَطْرَةٍ الْبَطْرِ مِنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

پر مطابق تعداد قطرات باران کے تخلیق دنیا کے آغاز سے قیام قیامت تک

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ أَلْفٍ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہر دن ہزاروں بار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ سَاعَةٍ أَيَّامِ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلِ

پر ایام دنیا کی تمام ساعتوں کی مقدار ابتداء

اللَّهِمَّ أَعِزِّي عَلَى غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ

اللہ میری اعانت فرما موت کی شدتوں اور بہوشیوں

وَالْحَقِّنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

مجھے عالی مقام رفقاء یعنی انبیاء و ملائکہ کے ساتھ لاحق فرما اے اللہ

قَلَّةٌ حِيلَتِي وَهُوَ فِي عِلِّيِّ

ارگی کی اور مخلوق کے نزدیک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَقْرَبِهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَقْرَبِهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَقْرَبِهِ وَسَلَّمَ

الْمَخْلُوقِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ رَبِّ

حقارت کی اور توب سے زیادہ مہربان ہے اور تو ضعیفوں اور ناتوانوں کا رب ہے

إِلَى مَنْ تَكَلَّمْتُ إِلَى عَبْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوِّ مَلَكَتَهُ أَمْرِي إِنْ

اے میرے پروردگار تو مجھے کسے سونپتا ہے؟ اس عبد کے سپرد کرتا ہے جو مجھ پر جبر سے یا اس دشمن کے جس کو تو نے میرے امور کا مالک بنا

لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ مِّنْكَ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنَّ عَفْوَكَ أَوْسَعُ لِي اللَّهُمَّ

دیا ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہ ہو تو پھر میں پروا نہیں کرتا لیکن تیری درگزر بہت وسیع ہے میرے لیے۔ اے میرے رب

إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ تَلَوْنِ أَحْوَالِي وَتَوَقُّفِ سُؤَالِي يَا مَنْ تَعَلَّقَتْ

میں شکایت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اپنے احوال کے تغیر اور اپنے سوال کے موقوف رکھے جانے کی۔ اے کہ

بَلُطْفِ كَرَمِهِ وَجَبِيلِ عَوَائِدِهِ أَمَالِي يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَفِيٌّ

اسی کے لطف و کرم سے متعلق ہیں میری امیدیں اور اس کے بہترین انعامات سے اے کہ جس پر مخفی نہیں ہے

حَالِي يَا مَنْ يَعْلَمُ عَاقِبَةَ أَمْرِي وَمَالِي رَبِّ إِنْ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ

میرا حال مخفی، اے کہ جو عالم ہے میرے انجام کار اور بازگشت کار۔ اے میرے رب میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور

أُمُورِي كُلِّهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْكَ وَأَحْوَالِي لَا تَخْفَى عَلَيْكَ وَهَمُورِي وَأَحْزَانِي

میرے تمام امور کا مرجع تو ہے اور میرے احوال تجھ پر مخفی نہیں ہیں اور میرے تمام غم و اندوہ

مَعْلُومَةٌ لَدَيْكَ قَدْ جَلَّ مَصَابِي وَعَظَمَ اِكْتِيَابِي وَأَنْصَرَمَ شَبَابِي وَ

تجھے معلوم ہیں۔ میری مصیبت بہت بڑی ہو گئی اور پریشانی عظیم ہو گئی اور جوانی ختم ہو گئی اور

تَكَدَّرَ عَلَيَّ صَفُوشِرَائِي وَاجْتَمَعَتْ عَلَيَّ هَمُورِي وَأَوْصَابِي وَتَأَخَّرَ

گدلا ہو گیا مجھ پر میرا صاف و شفاف پانی اور مجتمع ہو گئے مجھ پر تمام غم اور کلفتیں اور دور ہو گیا

عَنِّي تَعْجِيلُ مَطْلَبِي وَتَنْجِيزُ اِعْتَابِي يَا مَنْ إِلَيْهِ مَرْجِعِي وَمَالِي يَا

مجھ سے میرے مطلب کا جلد حصول اور عتاب کا فوری ازالہ۔ اے کہ طرف اسی کے ہے میری بازگشت اور رجوع اے کہ

مَنْ يَسْبَعُ وَيَعْلَمُ هُوَ اِحْسَانِي وَعَلَانِيَةٌ خَطَابِي وَيَعْلَمُ مَاهِيَةَ اَمَلِي

جو سننا اور جانتا ہے میرے اندرونی خطرات و خیالات اور میرے خطاب و کلام کا ظاہر اور جانتا ہے میری آرزوں کی ماہیت

وَحَقِيقَةُ مَا بِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور میرے انجام کی حقیقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ایسی صلوٰۃ کہ

وَسَلَامًا مَا يَتَّقَدَّسُ فِيهَا عَنْ عَوَارِضِ الْإِمْكَانِ لِوُجُودِ إِتِّصَافِهِ بِالْكَبَالَةِ

اسلام مقدس و منزہ ہو جائیں آپ اس کی وجہ سے تمام عوارض احکامیہ سے بسبب متصف ہونے آپ کے وجود مسعود کے ساتھ تمام

جَمِيعِ جِهَاتِي فَأَكُونُ مَحْفُوظًا بِهِ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَيَعْمُرُ بِسِوَايَ نِعْمَةِ الْأُولَى

کلمات کے تمام جہات میں پس میں محفوظ ہو جاؤں بطریق اس صلوٰۃ و سلام کے شراعداء سے اور معمور ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کی تمام

وَالْآخِرَى وَيَنْطَلِقُ لِسَانِي مُتَرْجِمًا عَنْ أَسْرَارِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَتُعَلِّمُ

اکلی اور پچھلی نعمتوں سے اور رواں ہو جائے میری زبان کلمہ توحید کے اسرار کی ترجمانی میں اور سکھائے تو مجھے

مَنْ عَلَيْكَ الْأَقْدَسُ الْوَهْبِيُّ مَا اسْتُعْنِي بِهِ عَنِ الْمُعَلِّمِ وَأَنْتَ الْحَيُّ

اپنے وہی مقدس علوم سے اتنا قدر کہ میں مستغنی ہو جاؤں ہر معلم سے اور تو ہی ہمیشہ لائق حمد ہے

الْبَيْتِيُّ وَتَصْفُو مِرَاةَ سِرِّي بِنُظْرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِأَبْصَرِ بَصِيرَتِي

اور دائمی بزرگی و برتری والا ہے۔ اور صاف و شفاف ہو جائے میرے باطن کا آئینہ محمدی نگاہ کرم کی بدولت تاکہ دیکھوں میں اپنی

حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ الثَّابِتَةِ الْعَلِيَّةِ لِأَرْقِي بِهَيْئَتِهِ عَلَى مَعَارِجِ مَكَارِهِجِ

قلبی نگاہ کے ساتھ اشیاء ثابتہ عالیہ کے حقائق کو تاکہ میں ترقی پاؤں ان کی قلبی توجہ سے بزرگوں کے بلند و بالا مدارج

رَتَبِ الْكِرَامِ وَأُظْفِرُ بِسِرِّهِ الْمَخْصُوصِ بِبُلُوغِ الْمَرَامِ فِي الْبِدْءِ وَالْخِتَامِ

و مراتب تک اور کامیاب ہو جاؤں بطریق ان کے مخصوص راز مخفی کے بلوغ مرام میں آغاز کار اور انجام میں

فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ مِنْ رَبِّنَا وَمِنْكَ

بیشک تو سراسر سلامتی ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی میسر ہوتی ہے اور تیری طرف ہی سلامتی کی بازگشت ہے بے

اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ

ہمارے رب ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول معظم کی اتباع کی پس لکھ تو ہمیں اہل شہادت میں اور اے اللہ بنا ہمیں رفیق اور

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

ساختی ان انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کا

وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْصُرْنَا بِنَصْرِكَ فِي الْحَرَكَةِ

جن پر تونے انعام فرمایا۔ اور وہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ اے رب العالمین ہماری مدد فرما اپنی مخصوص امداد کے ساتھ ہر حرکت

وَالسُّكُونِ وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِكَ الَّذِي وَقَفْتَهُمْ بِفَهْمِ كِتَابِكَ الْمَكُونِ

وسکون میں اور داخل فرما ہمیں اپنے اس گروہ میں جنہیں تونے توفیق دی ہے اپنی محفوظ و مخفی کتاب سمجھنے کی تاکہ

لِنَدْخُلَ فِي حِزْبِكَ الْآنَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِلَّا إِنْ

ہم داخل ہو جائیں اس قول کی پناہ میں غور سے سنو بیشک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ غور سے سنو بیشک

أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور

يَتَّقُونَ ۝ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا

تقویٰ اختیار کرتے تھے " اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بیشک تو ہی سننے والے اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ بظیفیل محمد

مُحَمَّدٍ عِنْدَكَ وَبِقُدْرَةِ لَدَيْكَ نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنَزُولَ الشُّهَادَةِ

کریم کی حرمت و عزت کے اپنی بارگاہ میں اور قدر و منزلت کے اپنے ہاں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کامیابی کا وقت قضا کے اور

وَعِيشَ السُّعْدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْرَ عِبَادِكَ

منزل شہداء کا اور گزران اہل سعادت کی اور اعداء پر نصرت کا اور انبیاء کی رفاقت کا اور ہم تیرے ضعیف بندے ہیں

الضُّعَفَاءُ لَا نَعْبُدُ سِوَاكَ وَلَا نَطْلُبُ إِذْ أَمْسَنَا الضَّرَّ إِلَّا بِكَ فَإِنْ رَوْعَاتِنَا

نہیں عبادت کرتے تیرے سوا کسی کی اور نہیں طلب کرتے بوقت پہنچنے ضرر و نقصان کے مگر تجھی سے پس ان سے بدل ہمارے

وَأَجِبْ دَعْوَاتِنَا وَاقْضِ حَاجَاتِنَا وَاعْفُ ذُنُوبَنَا وَاسْتُرْ عِيُوبَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

خوف اور خشیتوں کو اور قبول فرما ہماری دعاؤں کو اور پورا فرما ہماری حاجات کو اور بخش دے ہمارے گناہوں کو اور پردہ ڈال ہمارے عیوب پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ نَعْمَ الْهَوَلِيُّ وَنِعْمَ النَّصِيرُ يَا مُفَرِّجُ فَرَجٍ وَ

بیشک تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے اور قبول دعوات کے لائق ہے۔ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے اور اے دور کرنے والے شدتوں کے دور کر

فَرِّجْ كُرْبَنَا وَهَمَّنَا وَغَمَّنَا وَأَنْ تَقْضِيَ عَنَّا دِينَنَا وَأَعْطِنَا مِنَ الْخَزَائِنِ الْوَاسِعَةِ

ہماری شدت و کربت اور غم و اندوہ اور ہمارے قرضے ادا فرما اور ہمیں وسیع خزانوں سے عطا فرما

إِنَّا عِبِيدُكَ وَجُنْدٌ مِّنْ جُنُودِكَ مُتَعَلِّقُونَ بِجَنَابِ نَبِيِّكَ ﷺ

بیشک ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں وابستہ ہیں تیرے نبی کی بارگاہ والا سے شفیق بنائے ہوئے

إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ اللَّهُمَّ ارِنَا حَرَمَكَ بِكَرَمِكَ وَبَلِّغْنَا زِيَارَةَ نَبِيِّكَ ﷺ

ہمیں تیری طرف تیرے حبیب مکرم کو لے کر اللہ ہمیں دکھلا اپنا حرم اپنے کرم کے صدقے میں اور واصل فرما ہمیں اپنے نبی محمد

نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا رُؤْيَا وَجَدِّهِ

کی زیارت قبر تک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا

نَبِيِّنَا فِي مَنَامِنَا وَيَقْظِنَا وَأَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَوةً دَائِمَةً

خواب میں اور بیداری میں اور یہ کہ صلوٰۃ و سلام بھیجے ان پر جو دائم ہوں

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ خَيْرِنَا وَكُنْ لَنَا هَوْنًا فِي جَمِيعِ

روز قیامت تک اور صلوٰۃ بھیجے ہم میں سے بہتر و برتر پر اور ہمارا معاون و مددگار بن تمام

أُمُورِنَا فَضَّلْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَوةً تَلِيْقُ بِجَنَابِهِ الشَّرِيفِ وَمَقَامِهِ

امور میں۔ پس صلوٰۃ و سلام نازل فرما ان پر جو شایاں اور لائق ہو ان کی بارگاہ

الْمَنِيْفِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا دَائِمًا كَرِيْمًا مَكْرَمًا فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَ

شرافت پناہ کے اور مقام والا جاہ کے اور سلام نازل فرما دائمی قدیم کرامت و تکریم والا۔ پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور

رَسُولِهِ النَّبِيِّ الرَّحْمٰنِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ

اس کے رسول نبی رحمتی کے جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے۔ اور اس کے کلمات کے اور ان کی اتباع کرو

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

تاکہ تم ہدایت کو پا لو۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ لَمْ يُولَدْ ۝

فرما دیجئے اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے نہیں جنا کسی کو اور نہ وہ خود جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں اس کا کوئی مماثل و ہمسر۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد لله المنة بفضل
کہ دین زمان سے امت القرآن میں
ایز و مٹان تحفہ عجا رب یہ غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہ شاہ کوئین حضر ہجرت
مسکتی بہ

مجموعۃ الرسول

الجزء الرابع والعشرون ۲۴

فِ أَوْامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت خواجہ نوری صاحب
خواجہ نوری صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِوَلِیِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِحَفِیِّ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ولی و مددگار ہے اور بظیفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِبَدِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو متفق مہربان ہے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو انوکھی اور عجیب ہے

وَبِمَنْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِشَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو بلند مقام والی ہے اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو

الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِكِ

شفیع ہے تمام ثنائیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے نہایت رحم والا مہربان ہے۔ جزا کے

یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

دن کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہیں

المُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ

راہ راست پر راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

اور نہ گمراہوں کی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور مومن مرد اور عورتیں

بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَّامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ

بعض ان سے بعض کے مددگار ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع

الْمُنْكَرِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَیُطِیْعُونَ اللّٰهَ وَ

کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول

رَسُوْلَهُ اُولَیْكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ وَقَالَ

کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان امتیازی اوصاف والوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ

اللہ تعالیٰ نے "توبہ کرنے والے۔ حمد کرنے والے۔ عبادت گزار۔ رکوع و

السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور

الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمائی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے اور بشارت دینے والے مومنین کو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ

جنہیں اگر ہم اقتدار بخشیں زمین میں تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور

أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام امور کا۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "جو دیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوا سے پکڑو اور جس سے روکیں

عَنْهُ فَانْتَهُوا إِلَيْهِمْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو اس سے رک جاؤ، اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اور برکتیں عطا کر سیدنا محمد کو

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ

اور آپ کی آل کو جو آقا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں

مِنَ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يَتَّبِعُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا

اللہ کی طرف سے جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں وہ مگر

وَحْيٌ يُوحَىٰ مِنْ وَحْيِ الْجَبَلِيِّ وَالْخَفِيِّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَوْمَ

وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے خواہ وحی جبلی و قرآن ہو خواہ وحی خفی و سنت اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "آج کے دن

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے

الإسلام ديننا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا

تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

محمد المطاع في الأمر والنهي اللهم صل على سيدنا محمد

محمد پر جن کی اطاعت کی جاتی ہے امر و نہی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وعلى آل سيدنا محمد في الأمر والنهي اللهم صل على سيدنا

و آل محمد پر جو حکم دینے والے اور منع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

محمد وعلى آل سيدنا محمد بالمدد الإلهي اللهم

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جن کی تائید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و خاص کے ساتھ۔ اے اللہ

صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأمر بشهادة

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اس شہادت کا

أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والنهي عن

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول برحق ہیں اور منع کرنے والے ہیں

الشرك بالله اللهم صل على سيدنا محمد في الأمر بالقرار

اللہ کے ساتھ شرک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنے

له بالرسالة والتبليغ والنهي عن أن ينكر المرء ذلك

یہ رسالت کا اور تبلیغ احکام کے اقرار کا۔ اور منع کرنے والے ہیں اس رسالت اور تبلیغ کے انکار سے

أوبزيع اللهم صل على سيدنا محمد في الأمر بالصلاة و

اور کجرو ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز قائم کرنے اور

إيتاء الزكاة والنهي عن الشبهات واتباع الشهوات اللهم

زکوٰۃ دینے کا اور منع فرمانے والے ہیں شبہات میں پڑنے اور خواہشات نفس کی اتباع سے۔ اے اللہ

صل على سيدنا محمد في الأمر بصيام شهر رمضان و

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کا اور

التَّاهِي عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

منع فرمانے والے ہیں بتوں کی پرستش سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم

بِالْحَبِيبِ وَالْعُمْرَةِ وَالتَّاهِي عَنْ تَرْكِ الْحَبِيبِ وَالْعُمْرَةِ مَنْ

دینے والے ہیں حج و عمرہ کا اور منع کرنے والے ہیں حج و عمرہ کے چھوڑنے سے باوجود

الْإِسْطَاعَةِ وَالْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالشَّيْ

استطاعت و قدرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سہی

وَالطَّوَافِ وَالتَّاهِي عَنْ الْغُلُوِّ وَالْإِسْرَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور طواف کا اور منع کرنے والے ہیں حد سے تجاوز اور فضول خرچی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالْإِحْرَامِ وَالتَّاهِي عَنْ التَّفَقُّةِ مِنْ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں تلبیہ و احرام کا اور منع کرنے والے ہیں مال حرام میں سے

الْمَالِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسِّدَامِ الْحَجَرِ

خرق کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں حجر اسود اور

الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيِّ وَالتَّاهِي عَنِ التَّسْوِيفِ وَالْأَجَانِي اللَّهُمَّ

رکن یمانی کے بوسے کا۔ اور منع فرمانے والے ہیں ٹال مٹول اور کھوکھی آرزوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْجَهْدِ وَالْجِهَادِ وَالتَّاهِي عَنِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سعی و کوشش اور جہاد کا۔ اور منع کرنے والے

الْفَسَادِ وَالْعِنَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْإِقَامَةِ

ہیں فساد اور باہمی دشمنی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اقامت

وَالْأَذَانَ وَالتَّاهِي عَنِ تَلْقَى الرُّكْبَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

و آذان کا۔ اور منع کرنے والے ہیں مال تجارت لانے والوں کو راستہ میں جاننے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِحِفْظِ الْأَوْقَاتِ وَالتَّاهِي عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اوقات کی نگہداشت کا۔ اور منع کرنے والے ہیں ایڑیوں پر بیٹھنے سے نمازیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْخَيْرِ وَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں چٹائی پر نماز کا اور

النَّاهِي عَنِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِتْرَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

منع کرنے والے ہیں نماز پڑھنے سے بغیر سترہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِأَنْ يَرُدَّ الْمُصَلِّيَّ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالنَّاهِي عَنِ الْجُلُوسِ

جو حکم دینے والے ہیں کہ نمازی روکے آگے سے گزرنے والے کو اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں

فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرُكَّعَ فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

بیٹھنے سے دو رکعت تہتہ المسجد پڑھنے سے پہلے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے

بِالْبَدَأِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيِ وَالنَّاهِي عَنِ النَّهْبِ وَالْبَغْيِ

والے ہیں اذان کا اور جلد پہنچنے کا جمعہ کے دن اور منع کرنے والے ہیں لوٹ مار اور بغاوت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِأَنْ تَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا

وَالنَّاهِي عَنِ التَّخَلِّيِّ عَلَى الطَّرِيقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور منع فرمانے والے ہیں راستوں پر قضاء حاجت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِالْإِيَّاسِ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَالنَّاهِي عَنِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ

جو حکم دینے والے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں موجود اشیاء سے نفس کو مایوس کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں اونٹ

فِي حَالِ التُّعَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّيْمُنِ فِي الْوُضُوءِ

کی حالت میں نماز پڑھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں وضو اور غسل میں

وَالغُسْلِ وَالنَّاهِي عَنِ الْفِعْلِ مَا يَقْطَعُ بِهِ الْعَقَبُ وَالنَّاسِلُ اللَّهُمَّ

دائیں جانب سے آغاز کا اور منع فرمانے والے ہیں ایسے فعل سے جو قطع کرے پس ماندگان اور نسل کو۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْبُيُوتِ وَالنَّاهِي عَنِ تَرْكِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نفل نماز کی ادائیگی کا گھروں میں اور منع کرنے والے ہیں فوت

الْقَنُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالدُّخَانِ عَلَى صَلَاتِهِ

کے ترک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں پانچوں نماز پر محافظت

الْخَمْسِ وَالتَّاهِي عَنِ التَّجَشُّعِ وَالْمَكْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ

کا۔ اور منع کرنے والے ہیں بیس میں دھوکے سے اور جبری عشرکی وصولی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو امر

بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي الْهَوَاجِرِ وَالتَّاهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

فرمانے والے ہیں ٹھنڈا کرنے کا گرمیوں میں صلوٰۃ تپ کر اور منع کرنے والے ہیں قبرستان میں نماز پڑھنے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالتَّاسِي بِهِ وَالتَّسْلِي وَالتَّاهِي

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنی اقتداء کا اور اس پر اطمینان کا اور منع کرنے

عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ

والے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے

بِسُجُودِ الشَّهْرِ وَالتَّاهِي عَنِ كَثْرَةِ الضَّحْكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُمَّ صَلِّ

والے ہیں سجدہ سو کا اور منع کرنے والے ہیں زیادہ ہنسنے اور کھینٹنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالتَّاهِي

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں صفت اول میں نماز پڑھنے کا اور منع کرنے والے ہیں

عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ

عسل خانہ میں پیشاب کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں

بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالتَّاهِي عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَ

نماز نفل کا مغرب اور عشاء کے درمیان اور منع کرنے والے ہیں نماز سے جبکہ حاضر ہو شام

الْعِشَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِأَقَامَةِ

کا کھانا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز پڑھنے کا پشت کو سیدھا

الصُّلْبِ وَالتَّاهِي عَنِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رکھنے کی حالت میں اور منع کرنے والے ہیں کلام کرنے سے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِأَعْزَابِنَا وَكَرَامِ الْعُلَمَاءِ وَالتَّاهِي عَنْ

فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں علماء کے اعزاز و اکرام کا اور منع کرنے والے ہیں نمازی کے

رَفِعِ الْبُصْبُ إِلَى رَأْسِهِ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آسمان کی طرف سر اٹھانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمِيرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَالتَّاهِي عَنْ تَرْكِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

جو حکم دینے والے ہیں صفوں کو درست اور سیدھا رکھنے کا اور منع کرنے والے ہیں سورج گرہن کی نماز ترک کرینے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي مَوَاطِنِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنی ذات پر درود بھیجنے کا عقلت

الْعُقْلَةِ وَالتَّاهِي عَنْ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کے مقامات میں اور منع کرنے والے ہیں قبلہ کی سمت کے علاوہ نماز پڑھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالتَّامِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالتَّاهِي عَنْ

سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں امام کے پیچھے آئین کہنے کا اور منع کرنے والے ہیں

التَّفْخِي فِي الصَّلَاةِ وَالْكَلامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نماز میں پھنکارنے اور کلام کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمِيرِ بِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَالتَّاهِي عَنْ تَخْطِي الرِّقَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جو حکم دینے والے ہیں نسبوں کی حفاظت کا اور منع فرمانے والے ہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے۔ اے اللہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالمَكَافَاتِ عَلَى المَعْرُوفِ وَالتَّاهِي عَنِ التَّلَامِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نیکی کے بدلہ دینے کا۔ اور منع کرنے والے ہیں صفوں میں خالی

فِي الصُّفُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ بِالتِّيَامِنِ فِي

جگہ چھوڑنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں دائیں جانب سے آغاز کا

التَّعَالِ وَالتَّاهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّعَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جوتے پہننے میں اور منع کرنے والے ہیں جوتوں میں نماز پڑھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّيَانِ الْمَسْجِدِ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں صبر کا مصیبت کے وقت اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں آنے سے اسے جو کھائے

ثُمَّ أَوْبَعًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الشَّيْخِ

پس اور پیار۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سجد اور رکوع کے

وَالرُّكُوعِ وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّيَانِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ خُشُوعٍ اللَّهُمَّ طَلِّ

کامل کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں نماز کو بغیر خشوع کے شروع کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالطَّهَانِيَّةِ وَالْإِعْتِدَالِ وَالنَّهْيِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اطمینان اور اعتدال کا اور منع کرنے والے ہیں

عَنِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الضَّلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گمراہی پر اکٹھے ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَالنَّهْيِ عَنِ أَنْ يُتْرَكَ

جو حکم دینے والے ہیں سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں قضاء الہی پر

الرِّضَا بِالقَضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّحَلُّهِ

ترک رضا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں ہدیہ اور

وَالْعَمْرَةَ وَالنَّهْيِ عَنِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ

عظیہ کا مدت عمر کے لیے اور منع کرنے والے ہیں نماز پڑھنے سے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالمَسِّ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْأَمْتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو بطور رخصت حکم دینے والے ہیں خفین پر مسح کا اور منع فرمانے والے ہیں دایئیں

بِالْيَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِأَلَّا يُتَحَالَ عِنْدَ

ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سرمہ لگانے کا

النَّوْمِ بِالْإِثْمِدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهُمَّ

نیند کے وقت اور منع کرنے والے ہیں (دینیوی) گفتگو سے مسجد میں۔ اے اللہ

میں سے مسجد میں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ وَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مسجدوں کی طرف چل کر جانے کا تاریکیوں میں اور

النَّاهِي عَنِ الرِّبَا فِي السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ

منع فرمانے والے ہیں سود سے بیع سلم میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے

بِالتَّعْبُدِ وَالتَّهَجُّدِ وَالتَّاهِي عَنِ انْشَادِ الضَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ

ہیں عبادت میں مجاہدہ کا اور تہجد کا اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِأَدَاةِ كُلِّ مِمَّا يَلِي الْإِنْسَانَ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں اپنے سامنے سے کھانے کا

وَالنَّاهِي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِذَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع کرنے والے ہیں مسجد سے (نماز پڑھے بغیر) نکلنے سے اذان کے بعد۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْبِرِّ وَالصَّلَاةِ وَالتَّاهِي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْقُبْلَةِ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں احسان اور صلہ رحمی کا اور منع کرنے والے ہیں مسجد میں اور قبلہ کی جانب تھوکنے سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْقَصْرِ فِي السَّفَرِ وَالتَّاهِي عَنِ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں قصر صلوات کا سفر میں اور منع کرنے والے ہیں

الضَّرَارِ وَالضَّرَّاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ

ضرر پہنچانے اور ضرر اٹھانے سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مساجد کی

الْمَسَاجِدِ وَالتَّاهِي عَنِ أَنْ يَتَنَاجَى الْإِثْنَانِ دُونَ وَاحِدِ اللَّهُمَّ

صفائی کا اور منع کرنے والے ہیں اس سے کہ سرگوشی کریں دو آدمی بغیر ایک کے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ وَالتَّاهِي عَنِ رَفْعِ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں انگلیوں میں خلل کا اور منع کرنے والے ہیں آواز کو

الصَّوْتِ فِي الْجَوَامِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِإِنْجَازِ

بلند کرنے سے جامع مساجد میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں وعدوں کے

المواعيد والتأهي عن تشييك الأصابع في المسجد

پورا کرنے کا اور منع فرمانے والے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ایک دوسری میں داخل کرنے سے مسجد میں۔ لے اللہ

صلى على سيدنا محمد في الأمر بغسل الأعتاب والتأهي

صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں ایڑیوں کے دھونے کا اور منع کرنے والے ہیں

الوضوء بسور الكلاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأمر

کتوں کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو کرنے سے۔ لے اللہ صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے

يا حنباس الخيل والتأهي عن ترك قيام الليل اللهم صل

گھوڑے باندھنے کا (جہاد کے لیے) اور منع فرمانے والے ہیں قیام ییل کے ترک سے۔ لے اللہ صلوة

على سيدنا محمد في الأمر للمؤكدة والزوائد والتأهي

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں سنت مؤکدہ اور سنن زوائد پر عمل کرنے کا اور منع کرنے والے ہیں

عن ترك المؤكدة اللهم صل على سيدنا محمد في الأمر بصلوة وتر

سنن مؤکدہ کے چھوڑنے سے۔ لے اللہ صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں صلوة وتر

واحدة والتأهي عن بيوع الفاسدة اللهم صل على سيدنا محمد

ایکلی کا اور منع کرنے والے ہیں فاسد خرید و فروخت سے۔ لے اللہ صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر

الأمر بذكر الله في كل حركة وسكون والتأهي عن إمامة

جو حکم دینے والے ہیں اللہ کے ذکر کا ہر حرکت اور سکون میں اور منع کرنے والے ہیں اس شخص کو امامت سے

الرجل والقوم له كارهون اللهم صل على سيدنا محمد في الأمر

جس کو قدم ناپسند کرنے والی ہو۔ لے اللہ صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے

بالتكبير في أيام التشريق والتأهي عن الجلوس على قارعة

والے ہیں تکبیر کہنے کا تشریق کے دنوں میں (نوسے تیرہ ذوالحجہ تک) اور منع کرنے والے ہیں عام گزر گاہ پر

الطريق اللهم صل على سيدنا محمد في الأمر بإسباغ الوضوء

بیٹھنے سے۔ لے اللہ صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں وضو کی تکمیل کا

وَالنَّاهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالشُّوْءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور روکنے والے ہیں برائیوں اور بدکاریوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

اَلْاَمْرِ بِتَحْلِيْلِ الشَّعْرِ وَالنَّاهِي عَنِ بَيْعِ الْغَدْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

جو حکم دینے والے ہیں بالوں کے خلال کا اور منع کرنے والے دھوکے والی بیع سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِالصَّلٰوةِ عَلٰى الْجَنَائِزِ وَالنَّاهِي اَنْ يِّنَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَطْحٍ

محمد پر جو حکم دینے والے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کا اور منع کرنے والے ہیں چھت پر سونے سے بغیر کسی

بَغَيْرِ حَاجِزٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِتَشْيِيْعِ الْمِيْتِ

پر وہ و فسیل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں میت کے ساتھ وداع کے

وَحُضُوْرٍ اَدْفِنِهٖ وَالنَّاهِي عَنِ دُخُوْلِ الرَّجُلِ بَيْتِ الرَّجُلِ بَغَيْرِ اِذْنِهٖ

لیے جانے اور اس کے دفن تک حاضر رہنے کا اور منع فرمانے والے ہیں مرد کو دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِغُسْلِ الْمِيْتِ وَكَتْمِ مَا يُّظْهَرُ

اے اللہ صلوٰۃ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں میت کے غسل کا اور غاسل پر ظاہر ہونے والے عیوب کو

عَلَيْهِ وَالنَّاهِي عَنِ اَنْ يُّحْتَقِرَ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

چھپانے کا اور جو منع کرنے والے ہیں اس سے کہ حقیر سمجھے آدمی اسے جو اس کو پیش کیا جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِاجَابَةِ الْمُؤَدِّنِ وَمَحَاكَاتِهِ وَالنَّاهِي عَنِ مَعْرِفَةِ

سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مؤذن کے جواب کا اور اس کے کلمات دہرانے کا اور منع فرمانے والے ہیں اس

مَنْ لَا يَخْشَى اللّٰهَ وَمَعَادَاتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شخص کی دوستی سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور اس کی عداوت سے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

اَلْاَمْرِ بِاَدَاءِ النَّفْلِ وَالسُّنَّةِ وَالْفَرِيْضِ وَالنَّاهِي عَنِ غَضَبِ

جو حکم دینے والے ہیں نفل و سنت اور فرائض کی ادائیگی کا اور منع کرنے والے ہیں زمین کے غضب

اَلْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْاَمْرِ بِكُنْسِ الْمَسْجِدِ وَالتَّقَاطِ

کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دینے والے ہیں مسجد میں جھاڑو دینے اور چھیننے

الْحَزَقِ وَالْقَذَا وَالنَّاهِي عَنِ الْفُحْشِ وَالْبِدَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور حس و خاشاک چھنے کا اور منع کرنے والے ہیں فحش اور بیہودہ گوئی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّاهِي عَنِ الْإِسَاءَةِ بِالْفِعْلِ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں پیشاب سے طہارت حاصل کرنے کا اور منع فرماتے ہیں عملی اور

وَالْقَوْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِاعْزَازِ الدِّينِ وَ

قولی برائی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں دین کے اعزاز اور علبہ کا

النَّاهِي عَنِ مَسِّ الذِّكْرِ بِالْيَبِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

اور منع فرماتے ہیں شرمگاہ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ چھونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے

بِالْإِسْتِجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّاهِي عَنِ طَلَبِ الْأَبَارِ وَالْإِمَارَةِ اللَّهُمَّ

ہیں ڈھیلوں کے ساتھ استنجاء کرنے کا اور منع فرماتے ہیں ذخیرہ کرنے اور امارت کی طلب سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ ادْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں دونوں ہاتھ دھونے کا برتن میں داخل کرنے سے قبل

وَالنَّاهِي عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ سِوَاءَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع فرماتے ہیں سونے کو چاندی کے بدلے بیچنے سے برابری کے طور پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِإِدَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الْمَغَانِمِ وَالنَّاهِي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ

محمد پر جو اموال غنیمت سے پانچویں حصہ کی ادائیگی کا حکم فرماتے ہیں اور منع فرماتے ہیں کھڑے پانی میں پیشاب

الدَّائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالطُّهُورِ وَالسَّوَاكِ وَالنَّاهِي

کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں طہارت اور مسواک کا اور منع فرماتے ہیں

عَنِ الْكُفْرِ وَالْإِشْرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالرُّخْصَةِ

کفر اور شرک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں مساجد میں نماز سے رخصت کا

لَيْلَةَ الْمَطَرِ وَالنَّاهِي عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بارش کی رات اور منع فرماتے ہیں سفر میں روزہ سے (مشقت کی صورت میں) اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

فَحَدِّ الْأَمْرِ بِإِذْعَتِكَافِ وَالصِّيَامِ وَالتَّاهِي عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي

محمد پر جو حکم دیتے ہیں اعتکاف اور روزوں کا اور منع فرماتے ہیں عورتوں کو حمام میں داخل

الْحَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبَيْضِ وَ

ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں ایام بیض (تیرہ۔ چودہ۔ پندرہ چاند کے

التَّاهِي عَنْ وَطِي النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روزوں کا۔ اور منع فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ جماع سے حالت حیض میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِصِيَامِ سِتِّ مِّنَ الشُّوَالِ وَالتَّاهِي عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ

جو حکم دیتے ہیں شوال کے چھ روزوں کا اور منع فرماتے ہیں صوم وصال سے یعنی بلا افطاری و سحری تسلسل سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيَةِ بِكُلِّ لُقْمَةٍ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا ساتھ کھانے کے

عَلَى الطَّعَامِ وَالتَّاهِي عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامِ

ہر لقمہ کے اور منع فرماتے ہیں جمعہ کے دن کو خاص کر لینے سے ساتھ روزے کے

بَيْنَ الْأَيَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيَةِ

نسبت دیگر ایام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا

عِنْدَ الْوُقَاةِ وَالتَّاهِي عَنِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجَمَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جماع کے وقت اور منع فرماتے ہیں کلام سے جماع کے دوران۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِتَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَالتَّاهِي عَنِ الْبِدَاوَةِ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں جلد افطار کرنے کا وقت افطار کے حتمی طور پر داخل ہونے کے بعد اور منع فرماتے ہیں

عَلَى الذُّنُوبِ وَالْإِصْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِتَاخِيرِ

گناہوں پر مداومت اور اصرار سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں سحری میں

السُّحُورِ وَالتَّاهِي عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

تاخیر کا اور منع فرماتے ہیں ہر شکاری پرندے کے کھانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں سوموار اور خمیس کا روزہ رکھنے کا اور منع فرماتے ہیں

عَنْ طَاعَةِ اللَّعِينِ اِبْلِيسَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصِيَامِ

ابلیس لعین کی اطاعت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں ہر مہینہ کے

الشَّهْرِ وَالنَّاهِي عَنْ سَبِّ الدَّاهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

آخری ایام کے روزوں کا اور منع فرماتے ہیں زمانہ کو گالی دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَالتَّوَسُّعَةِ فِيهِ عَلَى الْعِيَالِ وَالنَّاهِي عَنِ

عاشوراء کے روزہ کا اور عیال پر وسعت رزق کا اس میں اور منع فرماتے ہیں

الْقَيْلِ وَالْقَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْوُقُوفِ

قیل و قال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں عرفات

بِعَرَفَةَ وَالنَّاهِي عَنْ تَرْكِ الْوُقُوفِ بِمَزْدَلَفَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

میں ٹھہرنے کا اور منع فرماتے ہیں مزدلفہ میں وقوف کے ترک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِحُضُورِ الْجَالِسِ الذَّاكِرِ وَالْعِلْمِ وَالنَّاهِي عَنِ الْبُحْرِ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں ذکر اور علم کی محافل میں حاضر ہونے کا اور منع فرماتے ہیں ظلم اور

وَالظُّلْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالنَّاهِي عَنِ

جور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوف کا اور اس سے امیدواری کا اور

التَّحْرِيشِ وَالْهَبَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِحُسْنِ الْمَعَامَلَةِ

منع فرماتے ہیں جانوروں کے لڑانے سے اور سب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں حسن معاملت کا

وَالنَّاهِي عَنِ الْبِيَاهَلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْفَرَحِ

اور منع فرماتے ہیں مباہلہ اور ایک دوسرے پر بددعا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں عبادت کی حالت

لِلْعِبَادَةِ وَالنَّاهِي عَنْ تَرْكِ السُّؤَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں فارغ القلب ہونے کا اور منع فرماتے ہیں شہادت کا سوال ترک کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں شہادت کا سوال ترک کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَالتَّاهِي عَنْ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں رات کو نماز پڑھنے کا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور منع کرتے ہیں اس سے کہ لوگ ان کے

النَّاسُ قِيَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى

یہ حالت قیام میں رہیں از روئے تعظیم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اپنے آل و اصحاب

الصَّحْبِ وَالْأَلِّ وَالتَّاهِي عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشَّمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر صلوٰۃ بیچنے کا اور منع فرماتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے اور پینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِبَعْقِ الْأَصَابِعِ لِاحْرَازِ الْبَرَكَاتِ وَالتَّاهِي عَنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا حکم دیتے ہیں برکت جمع کرنے کیلئے اور منع فرماتے ہیں

الْقَاءِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ إِلَى التَّهْلُكَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

آدمی کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں

بِإِظْهَارِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَالتَّاهِي أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ وَفِي يَدَيْهِ رِيحٌ

اسلامی احکام کے اظہار کا اور منع فرماتے ہیں اس سے کہ آدمی سو جائے "در آغنا بیکہ اس کے ہاتھ میں کھانے کے

الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالزِّيَارَةِ غَبَاً وَالتَّاهِي

اثرات ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں کبھی کبھی زیارت کرنے کا اور منع فرماتے ہیں

عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ غَبَاً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ

ایک دن چھوڑ کر پانی پینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں صبر کا

عِنْدَ اللَّقَاوِ وَالتَّاهِي عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دشمن سے ڈر بھڑکے وقت اور منع فرماتے ہیں مشکیزہ کو منہ لگا کر پینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي وَالتَّاهِي عَنْ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں دو دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کا اور منع فرماتے ہیں

التَّفَخْرِ فِي الْإِنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِتَحْسِيرِ

مشروب والے برتن میں سانس نکالتے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں مشکیزوں کے چرٹے

الْأَسْقِيَةَ وَالنَّاهِي عَنْ تَعْرِيبِ الْأَوْعِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سے بال وغیرہ صاف کرنے کا اور منع فرماتے ہیں برتنوں کو نلکے مندر کھتے سے اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِاطْفَاءِ السِّرَاجِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالنَّاهِي عَنِ الْأَسْقِيَةِ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں نیند کے وقت چراغ بجھانے کا اور منع فرماتے ہیں کسی شخص کے ساتھ

بِالرَّجْلِ لِيَضْحَكَ الْقَوْمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ

سخری کرنے سے قوم کو ہنسانے کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِغَلْقِ الْأَبْوَابِ وَطَيِّبِ الثِّيَابِ وَالنَّاهِي عَنِ الْغُلُوِّ فِي الْمَدْحِ وَالْإِطْنَابِ

دروازے بند رکھنے کا اور کپڑے پیٹنے کا اور منع فرماتے ہیں مدح وثناء میں حد سے تجاوز اور طوالت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِطَيْبِ الْكَلَامِ وَالنَّاهِي عَنِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کلام کی پاکیزگی کا اور منع فرماتے ہیں

الْإِشَارَةِ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِتَأْدِيبِ

سلام اشارہ کیساتھ کرنے سے (مانند اہل کتاب کے)۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں وعیب ال کو

الْأَهْلِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاهِي عَنِ الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ادب سکھلانے کا اور منع فرماتے ہیں تکبر اور حسد۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّاهِي عَنِ الْأَدْوَانِ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کتاب و سنت کی اتباع کا اور منع فرماتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینے

وَالْمِنَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ

اور احسان جتانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں نیک عمل کا

عِنْدَ فُسَادِ الزَّمَانِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمَثَلَةِ بِالْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ

اہل زمانہ کے فساد و خرابی کے وقت بھی اور منع فرماتے ہیں انسانوں اور حیوانوں کے ناک کان وغیرہ کاٹنے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْبَيْتِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کا

وَالْتَّاهَىٰ عَنِ الْوَسْمِ فِي وَجُوهِ الدَّوَابِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع فرماتے ہیں جانوروں کے چہروں پر داغ دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَالنَّاهَىٰ عَنِ مَنَعِ الْمَدْحِ وَالنَّارِ

محمد پر جو حکم دیتے ہیں پرسکون اور باوقار انداز اپنانے کا اور منع فرماتے ہیں نمک اور آگ لینے سے منع کرنے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِحُبِّ الْأَنْصَارِ وَالنَّاهَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں انصار کی محبت کا اور منع فرماتے ہیں

عَنْ إِذَاءِ الْجَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ

پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں شرمگاہ کو ڈھانپنے کا

وَالنَّاهَىٰ عَنِ إِيْتَابِ النَّظْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور منع فرماتے ہیں ایک مرتبہ اچانک (محرم پر) نظر پڑنے کے بعد دوسری دفعہ دیکھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِتَبْلِيغِ الْحَدِيثِ وَتَسْبِيحِهِ وَالنَّاهَىٰ عَنِ ظَلَمِ

محمد پر جو حکم دیتے ہیں اپنی حدیث کی تبلیغ اور سنانے کا اور منع فرماتے ہیں مسلم پر ظلم

الْمُسْلِمِ وَتَرْوِيعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ

کرنے اور اسے خوفزدہ کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِالسَّلَامِ عَلَى الْقَوْمِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَالنَّاهَىٰ عَنِ تَرْكِ السَّلَامِ

قوم کو سلام دینے کا ان پر آمد کے وقت اور منع فرماتے ہیں سلام ترک کرنے سے اس

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ

کو جو مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں (مجبوری نہ

بِتَرْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالنَّاهَىٰ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكِبَائِرِ اللَّهُمَّ

ہونے پر) آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کا اور منع فرماتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرَ بِسَقْيِ الثَّمَامِ وَغَرْسِهَا وَالنَّاهَىٰ عَنِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں گھاس اور سبزہ کو سیراب کرنے اور اسے کاشت کرنے کا اور منع فرماتے ہیں

عَقْدِ الْمَرْءَةِ النِّكَاحِ بِنَفْسِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عورت کے اپنا نکاح بذات خود کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں

بِالْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ وَالتَّاهِي عَنِ النِّكَاحِ الشُّغَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آتش دوزخ سے پناہ مانگنے کا اور منع فرماتے ہیں نکاح شغار سے یعنی حق مہر کے عوض رشتہ دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسُّتْرِ وَالتَّجْمِيلِ وَالتَّاهِي عَنِ الْعَزْلِ وَالتَّعْطَلِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں پردہ کا اور ہیئت جمال اختیار کرنے کا اور منع فرماتے ہیں مادہ منویہ رحم سے باہر پلٹنے سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ الْوَلُودِ وَالتَّاهِي عَنِ الْخَلْفِ

بیکاری سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں محنت والی اور اولاد کو حتم دینے والی کے ساتھ نکاح کا اور

بِالْأَبَاءِ وَالْجَدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ الْأَبْكَارِ

منع فرماتے ہیں آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ قسم کھانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کنواریوں کے ساتھ نکاح کا

وَالتَّاهِي عَنِ سَمَاءِ الدَّفِّ وَالْبِزْمَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور منع فرماتے ہیں دف اور مزامیر سننے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِسِسِّ الطَّيِّبِ لِلْجُمُعَةِ وَالتَّاهِي عَنِ زَكَاةِ الْمَتْعَةِ اللَّهُمَّ

جو حکم فرماتے ہیں جمعہ کے دن خوشبو لگانے کا اور منع فرماتے ہیں متعہ سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الرُّجَاتِ وَالتَّاهِي عَنِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں بیویوں میں عدل و مساوات کا اور منع فرماتے ہیں اس سے

أَنْ يَّرْكَبَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ فِي الْفَلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ آدمی اکیلا جنگل میں سفر کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِقَبُولِ الْعُذْرِ وَالتَّاهِي عَنِ خُرُوجِ الْمَرْءَةِ مِنْ

جو حکم فرماتے ہیں معذرت کرنے والے کی معذرت کے قبول کرنے کا اور منع فرماتے ہیں عورت کے گھر سے

بَيْتِهَا مَعْطَرَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِكَيْفِ

خوشبو لگانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں خاوند و بیوی کے درمیان

بِمَا كَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالنَّاهِي مِنْ صِيَامِ الْعِيدَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نازوں کو چھپانے کا اور منع فرماتے ہیں عید فطر اور عید اضحیٰ کے روزوں سے۔ اے اللہ درود

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ لِكُلِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ بِحِفْظِ الْفُرُوجِ وَالنَّاهِي عَنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں ہر مرد اور عورت کو شرمگاہوں کی حفاظت کا اور منع فرماتے ہیں

رُكُوبِ النِّسَاءِ عَلَى السُّرُوحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْهُدَاوَةِ

عورتوں کو گھوڑوں پر سواری سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اعمال صالحہ

عَلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالنَّاهِي عَنْ تَشْبِيهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر ہمیشگی کا اور منع فرماتے ہیں عورتوں کے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ لِمَنْ أَسَاءَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں برائی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اور جو برا کرے گا تو اس کا ضرر اسی پر ہوگا

النَّاهِي عَنْ تَشْبِيهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور منع فرماتے ہیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَمْرِ بِالْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْفِتَنِ وَشَرِّهَا وَالنَّاهِي عَنْ إِيْتِيَانِ الْمَرْءَةِ

جو حکم دیتے ہیں فتنوں اور ان کے شر سے پناہ مانگنے کا اور منع فرماتے ہیں عورت کے ساتھ

فِي دُبُرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأُمَّلَةِ وَ

لواطت سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں کما کر کھلانے کا بیوگان اور

الْمَسَاكِينِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمَرْوَرِ بِقُبُورِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مساکین کو اور منع فرماتے ہیں ظالموں کی قبروں پر گزرنے سے بھی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْءَةِ وَالنَّاهِي عَنْ سُوءِ الْعَشْرَةِ وَ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں عورت کی شرمگاہ سے لگنے والی رطوبت کے دھونے کا اور منع فرماتے ہیں بدسلوکی اور

الْجُرْءَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سِرًّا

بیباکی سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خفیہ

وَجَهْرًا وَالتَّاهِي عَنْ أَنْ يُحَدَّ الْمَرَاةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَعْلَى

اور علانیہ طور پر اور منع فرماتے ہیں عورتوں کو میت پر تین دن سے زائد سوگ کرنے پر مگر خاوند پر چار ماہ

أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ وَعَشْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْعَتِقِ وَالْوَلَا

اور دس دن۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے غلام آزاد کرنے اور باہمی

والتَّاهِي عَنْ الْكَلَامِ فِي الْخَلَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِتَوْقِيرِ

دوستی کا اور منع فرماتے ہیں قضاء حاجت کے دوران گفتگو سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم دیتے ہیں بڑوں کی

الْكِبِيرِ وَالتَّاهِي عَنْ الشُّرْبِ فِي الْمُرْتَبِ وَالنَّقِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تعظیم کا اور منع فرماتے ہیں تارکول لگے ہوئے برتن اور کھوٹے ہوئے تنوں سے نبیذ کے استعمال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِتَرْكِ قِتَالِ الْمُسْلِمِ وَالتَّاهِي عَنْ الشُّرْبِ فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ

محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اہل اسلام کے ساتھ لڑائی نہ کرنے کا اور منع فرماتے ہیں کدو اور روغنی والے برتن کے نبیذ پینے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْعَزَلَةِ عَنِ النَّاسِ وَالتَّاهِي عَنْ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں لوگوں سے الگ تھلگ رہنے اور منع فرماتے ہیں

التَّرَفُّعِ فِي اللَّبَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِبِعَةِ اللَّهِ وَالتَّاهِي

لباس میں بڑتری اور بڑائی ظاہر کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی میت کا اور منع

عَنْ مَّاسُوِي اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالْأَمْرِ بِالْجَنَّةِ تَحْتِ قَدَمِي

فرماتے ہیں ماسوی اللہ کی عبادت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو فرماتے ہیں کہ جنت والدین کے قدموں

الْأَبْوَيْنِ لِطَاعَتِهِمَا وَالتَّاهِي الْجَهَنَّمَ تَحْتِ قَدَمِي الْأَبْوَيْنِ لِمَعْصِيَتِهِمَا

کے نیچے بسبب ان کی فرمانبرداری کے اور جو فرماتے ہیں کہ جہنم والدین کے قدموں کے نیچے ہے ان کی فرمانی والوں کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ يَا

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے

بْنَ آدَمَ كَمْ مِّنْ سِرَاجٍ أَطْفَأَهُ الرِّيحُ وَكَمْ مِّنْ عَابِدٍ أَفْسَدَا الْعُجْبُ

ابن آدم کتنے چراغ ہیں جنہیں آندھیوں نے بجھا دیا اور کتنے عابد ہیں جنہیں تکبر نے تباہ کر دیا کتنے

وَكَمْ مِّنْ فَقِيرٍ أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ وَكَمْ مِّنْ غَنِيٍّ أَفْسَدَهُ الْغِنَى وَكَمْ مِّنْ

فقیر ہیں جنہیں فقر نے تباہ کیا اور کتنے غنی ہیں جنہیں غنا نے برباد کیا اور کتنے

صَحِيحٍ أَفْسَدَهُ الْعَافِيَةُ وَكَمْ مِّنْ عَالِمٍ أَفْسَدَهُ الْعِلْمُ يَا بَنِي آدَمَ زَارِعُونِي

تندرست ہیں جنہیں تندرستی نے بگاڑ دیا اور کتنے عالم ہیں جنہیں علم نے برباد کیا۔ اے اولاد آدم میرے مزارع بنو

وَرَايَحُونِي وَأَسْقُونِي وَعَامِلُونِي إِنَّ رَبَّكُمْ عِنْدِي مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ

میرے ساتھ بیج مراثت کرو اور میرے ساتھ مساقات اور معاملات کرو کیونکہ تمہارے منافع میرے پاس ایسے ہیں جنہیں

وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَلَا يَنْفَعُ خَزَائِنِي وَلَا يَنْقُصُ

کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور کسی بشر کے دل میں ان کا تصور آیا اور میرے خزانے ختم نہیں ہوتے اور میرا ملک

مُلْكِي أَنَا الْوَهَّابُ وَقَالَ اللَّهُ يَا بَنِي آدَمَ دِينُكَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ فَإِنْ صَلَّيْ

کم نہیں ہوتا میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اے ابن آدم تیرا دین ہی تیرا گوشت اور خون ہے پس اگر درست

دِينُكَ صَلَّيْ الْكُلُّ فَلَا تَكُنْ كَالْبُصْبَاءِ يُضِيئُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ وَ

رہا دین تیرا تو سبھی درست رہیں گے پس تیرے کی مانند نہ ہو کہ لوگوں کو روشنی مہیا کرتی ہے اور اپنے آپ کو جلاتی ہے اور

أَخْرَجُ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ فَإِنِّي لَا أَجْمَعُ صَبْرًا وَحُبَّ الدُّنْيَا فِي

نکال دے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے کیونکہ میں صبر اور دینیوی محبت کو جمع نہیں کرتا ایک دل میں

قَلْبٍ وَاحِدٍ أَبَدًا كَمَا لَا يَجْمَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ رَفِقَ بِنَفْسِكَ

کبھی بھی جیسے کہ جمع نہیں ہو سکتے پانی اور آگ ایک برتن میں کبھی اور اپنے ساتھ نرمی اختیار کر رزق

فِي جَمْعِ الرِّزْقِ فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَالْحَرِيصُ مُحْرَمٌ وَالْبَخِيلُ مَذْمُومٌ

کے جمع کرنے میں کیونکہ رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے اور حریص قابل حرمان ہے اور بخیل قابل مذمت ہے

وَالنَّعْمَةُ لَا تَدْوَمُ وَالْأَجَلُ مَعْلُومٌ وَخَيْرُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْغِنَى

اور نعمت دینا دائمی نہیں اور وقت موت معین و مقرر ہے اور بہترین حکمت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور بہترین غنا

الْقَنَاعَةُ وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى وَشَرُّ الصِّحَاحِ

قناعت ہے اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اور بدترین اصلاح و درستی جھوٹ ہے اور بدترین نصیحت چغلی خوری

النَّيْمَةُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہے اور تیرا رب بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اے ایمان والو تم وہ

لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلَمْ تَنْتَهُونَ عَمَّا لَا تَنْتَهُونَ وَلَمْ تَأْمُرُوا

کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اور کیوں منع کرتے ہو ان امور سے جن سے خود باز نہیں رہتے اور کیوں حکم دیتے ہو

بِمَا لَا تَعْمَلُونَ وَلَمْ تَجْعَلُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ وَفِي التَّوْبَةِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ

اس کا جس پر عمل نہیں کرتے اور کیوں جمع کرتے ہو جو نہیں کھاتے اور توبہ کے بارے میں روز بروز

تَأَخَّرُونَ وَعَامًا بَعْدَ عَامٍ تَنْظُرُونَ الْكُفْرَ مِنَ الْمَوْتِ أَمَّا بِأَيْدِيكُمْ

تاخیر کرتے ہو اور سال بسال انتظار کرتے ہو کیا تمہیں موت سے امان میسر ہے یا تمہارے ہاتھوں میں

بِرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ أَمْ تَحَقَّقْتُمُ الْجَنَانَ أَمْ أَنْظَرَكُمْ النِّعْمَةَ وَغَرَّكُمْ مِنَ

آتش دوزخ سے بچاؤ (کی سند) ہے یا تمہیں جنتوں (میں داخل ہونے) کا یقین ہو گیا ہے یا تمہیں نعمتوں نے مہلت دے

اللَّهُ طُولُ الْأَمْالِ وَلَا يَغُرُّكُمْ الْفِصْحَةُ وَالسَّلَامَةُ فَإِنِ آيَاكُمْ مَعْلُومَةٌ وَ

رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دھوکہ میں رکھا ہوا لمبی آرزوں نے تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے صحت و سلامتی کیونکہ تمہارے دن گنے ہوئے ہیں اور

أَنْفُسَكُمْ مَعْدُودَةٌ وَسَرَائِرُكُمْ مَكْشُوفَةٌ وَأَسْتَارُكُمْ مَهْتُوكَةٌ فَانْقَرُوا

تمہارے سانس شمار کئے ہوئے ہیں اور تمہارے سربستہ راز کھلے ہوئے ہیں اور ستر پر پڑے پھاڑے جانے والے ہیں لہذا اللہ

اللَّهُ يَا وُلِيَّ الْأَلْبَابِ وَقَدْ مَوَّأَمَا فِي أَيْدِيكُمْ يَا ابْنَ آدَمَ مُقَدِّمٌ فِي عِلْمِكَ

سے ڈرو اے عقل والو اور آگے بھیجو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اے ابن آدم تیرے علم میں آچکا ہے تیری

عَلَى هَدْمِ عَمْرِكَ مِنْ يَوْمٍ خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أُمَّكَ وَتَدْنُوا كُلُّ يَوْمٍ مِنْ

عمر ختم ہونے سے پہلے اس دن سے جبکہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا اور ہر دن تو قریب ہو رہا ہے

قَبْرِكَ فَلَا تَكُنْ كَالْحَطْبِ الَّذِي يَحْرِقُ نَفْسَهُ بِالنَّارِ بِخَيْرِ لَدَالِكُمُ الْآلِهَةِ

اپنی قبر سے لہذا نہ ہو تو مانند لکڑی کے جو اپنے آپ کو جلاتی ہے ساتھ آگ کے واسطے غیر۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر

اللَّهُ حَقًّا مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

اللہ برحق محمد میرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فُلْكَ الْحَقَّائِقِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو کشتی ہیں اللہ تعالیٰ کے

الصِّفَاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

صفاقی حقائق کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِهَاءِ عِزَّةٍ كُنْتَهُ الْوَهِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر بطغییل اپنی الوہیت کی کنہ و حقیقت کی عزت و غلبہ کی ہاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظُهُورِ أَنْوَارِ السُّبْحَاتِ الْوُجْهِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو سراپا ظہور ہیں وجہ الہی کے جلا دلنے والے تجلیات کے

الْمُحْرِقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِتَابِ

النور کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مجسم کتاب ہیں

الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ وَمَنْبَعِ عَيْنِ رُوحِ الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ

حقائق الہیہ ذاتیہ کی اور منبع ہیں حقائق الہیہ کی روح کے سرچشمہ کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَوْلَتِ عَظَمَتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سراپا صولت و غلبہ ہیں عظمت

الْخِطَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خطاب کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو امام (خلائق) ہیں بارگاہ الہی (تک رسائی) کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَوْثَرِ الْأَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الْاَكْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جو بہت بڑی کونثر ہیں انوار النب سبانیہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْهُ اِمْتَدَّتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ انہیں سے پھیلے تمام

جَدَاوِيلُ جَمِيعِ الْإِلَهِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ والوں کے لیے (فیوضات کی) نہریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَخْصُوصِ بِالْأَخْصَائِصِ الْكَمَالِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو محبوب مخصوص ہیں خصائص کمال کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَائِقِ الْكَمَالِ وَالْعُظْمَةِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سراپا حقائق کمال ہیں اور جسم

الْجَامِعَةِ لِلْجَلَالِ وَالْجَبَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عظمت میں جو جمع کرنے والی ہے جلال و جمال کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَأْسِ دِيْوَانِ حَضْرَةِ الْوَحْيِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل اطہار پر جو رئیس ہیں بارگاہ وحی کے دیوان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانِ الْحَقِّ الَّذِي لَا يَنْطِقُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو حق کی زبان ہیں جو نہیں بولتے

عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ بَابِ

خواہش نفس سے، نہیں ان کا کلام مگر وحی جس کو ان پر نازل کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا تجھ سے بطفیل

إِسْمِكَ الْبَعْنِيَّةِ الْمَوْصَلَةِ إِلَىٰ أَعْظَمِ مَقْصُودٍ وَإِيْجَادِ كُلِّ مَفْقُودٍ

تیرے اسم کی بار مقصودہ کے جو پہنچانے والی ہے عظیم تر مقصود کی طرف اور ہر مفقود و معدوم کی ایجاد کی طرف

بِالنَّقْطَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ مَعْنَى الْأَسْرَارِ السَّرْمَدِيَّةِ وَالذَّاتِ الْقَدِيمَةِ

بسیب اس نقطہ کے جو وال ہے اسرار سرمدیہ کے معنی و حقیقت اور ذات قدیمہ

الْفَرْدَانِيَّةِ وَبِجَدْبَتِهَا لِأَحْبَابِهَا وَتَصْرِيفِهَا الْجُزْئِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ

یگانہ پر اور بسیب اس کے کشش کرنے کے اپنے احباب کو اور اس کی جزوی اور کلوی

وَبِسَيِّئِهَا بِدِيْعَةِ التَّصْرِيفِ وَسِرِّ الرَّبُّوبِيَّةِ الْمُنْزَهَةِ عَنِ

تصریف اور گردانوں کے اور بطفیل اس اسم کی سین کے جو انوکھی تصریف اور صیغہ والی ہے اور سر ربوبیت ہے

الْمَكَانِيَّةَ وَالزَّمَانِيَّةَ الْمُتَفَرِّدَةَ بِتَفْرِيجِ الْكُرُوبِ وَالْخُطُوبِ

جو منزہ ہے مکانی اور زمانی ہونے سے مفرد و مستقل ہے غم و اندوہ اور عظیم دنیوی اور

الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ وَبِيْسِيهَا بِنَصَارِيفِهَا أَحْيَاءَ وَإِمَاتَةَ سَائِرِ

اخروی مشکلات کے حل کرنے میں اور بطفیل اس کے میم کے جس کے تصرفات سے ساری مخلوق کا زندہ کیا جاتا

الْبَرِيَّةِ فَلَيْسَ لَهَا قَبْلِيَّةٌ وَلَا بَعْدِيَّةٌ مُتَنَزِّهَةٌ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ بِتَصَارِيفِهَا

اور مارا جاتا و بسنتہ ہے پس نہیں ہے اس کی ابتداء اور نہ انتہاء، منزہ ہے کیفیت سے بسبب اپنی تصرفات اور

وَمَعَانِيهَا الْبَحْثِيَّةِ وَبِالْفِ الْوَصْلِ الَّذِي أَقَمَتْ بِهِ الْكَائِنَاتِ فَهُوَ

محمدی معانی کے۔ اور بطفیل الف وصلیہ کے جس کے طفیل تو نے کائنات کو برپا فرمایا پس وہ

حَرْفٌ مَبْنِيٌّ مُتَصَرِّفٌ عَلَى سَائِرِ الْحُرُوفِ النَّارِيَّةِ وَالْتُّرَابِيَّةِ وَ

مبنی حرف ہے جو متصرف ہے تمام حروف ناریہ (آتش) اور ترابیہ (خاکی) اور

الْهُوَائِيَّةِ وَالْمَائِيَّةِ مُضْمَرٌ تَعْرِيفُهُ كَالشَّمْسِ الْبِهِيَّةِ نَفْدٌ

ہوائیہ اور مائییہ پر مضمر و مقدر ہے تعریف اس کی مانند روشن آفتاب کے۔ ناقذ و

تَصْرِيفُكَ فِي كُلِّ مَعْدُومٍ فَأَوْجَدْتَهُ وَفِي كُلِّ مَوْجُودٍ فَأَقْهَرْتَهُ

مؤثر ہوئی تیری تصرف اور تاثیر ہر معدوم میں پس موجود کیا تو نے اسے اور ہر موجود میں پس مغلوب کیا اسے

وَبِحَقِّ صِفَاتِكَ الْقَهْرِيَّةِ أَقْهَرْنَا وَأَعْدَانُكَ وَبِلَا مِ اللَّهِ

اور بطفیل اپنے صفات قہریہ کے ہمارے اعداء کو مغلوب فرما اور اپنے اعداء کو اور بطفیل اسم اللہ کے لام کے

وَالْمُنْزَهَةَ عَنِ الشَّرِيكِ وَالصِّدِّ الْمَعْبُودَةِ بِحَقِّ الْقَائِمَةِ عَلَى كُلِّ

جو منزہ ہے شریک سے اور مد مقابل سے معبود برحق ہے، نگران ہے ہر نفس پر

نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ الْعَالَمَةَ بِمَا فِي السَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ هَبْ لَنَا هِبَةً

اس کے کسب و عمل میں۔ عالم ہے ہر اس راز اور بھید کا جو خلائق کے اندرون اور دلوں میں ہے ہمیں عطا فرما عظیم اپنے

مَنْ هِبَاتِهَا وَافْتَحْ لَنَا بَعْلِهَا وَحَقَّقْنَا هَا بِسِرِّ سَرَائِرِهَا التَّافِذَةَ

خاص عطیات میں سے اور کھول ہمارے لیے اس کے علم (کا دروازہ) اور ہمیں قائم و پائیدار بنا اس کے مؤثر سر باطنی کے ساتھ

وَصَرَفْنَا فِي سِرِّهَا كَمَا تَجِبُ وَتَرْضَى وَبِهَا هُوَ يَتَّكِلُ الْمَلِكُ

اور تاثیر و تصرف فرما ہمارے اندر اس کے سر و باطن کے مطابق جیسے کہ تو پسند فرمائے اور راضی ہو اور بطفیل لفظ اللہ کی یاد

بذاتِهَا الْمُسْتَحَقَّةُ بِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ أَقْسَمْتُ بِهَا فِي عِرْ

ہویت کے جو بذاتہا موجود و قائم ہے تمام محامد اور صفات کمال کی مستحق ہے۔ تو نے قسم اٹھائی ساتھ اس کے

تَوْجِيدِهَا وَأَنْزَلْتُ الْكُتُبَ الْقَدِيمَةَ شَاهِدًا وَشَهِدًا وَ

عزت و غلبہ توحید کے بارے میں اور نازل فرمایا کتب قدیمہ کو شاہد و گواہ کے طور پر اور شہادت دی اور

صَدَقَ أَهْلُ سَعَادَتِهَا وَاسْتَفْرَقَتْ بِسِرِّ سَرَائِرِ أَهْلِ

تصدیق کی اس کی اہل سعادت نے اور مستغرق کیا تو نے اس کے سرا سرائر میں اہل مشاہدہ

مُشَاهَدَتِهَا وَبِسِرِّ الرَّحْمَنِ مُعْطَى جَلَائِلِ النِّعَمِ وَرَاحِمِ

کو اور بطفیل سر رحمن کے جو بزرگتر نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے

الشَّيْخِ الْهَرَمِ وَالطِّفْلِ الصَّغِيرِ وَالْجَنِينِ رَحْمَنِ الدُّنْيَا

لوڑھے کمزوروں پر اور چھوٹے بچوں اور پرودہ رحم میں موجود پر۔ غایت رحمت والا ہے و نیا

وَالْآخِرَةِ مُعْطَى الْقُلُوبِ فِزِيَادَةَ بِنَائِهِ دَلَّتْ عَلَى شَرِّهَا

و آخرت میں دلوں میں مہربانی اور شفقت پیدا کرنے والا ہے، اس کے حروف ترکیبہ کی زیادت و کثرت دلالت کرتی ہے

وَأَنْفِرَادِهِ وَبِسِرِّ الرَّحِيمِ وَبِرَاقَةِ الرَّحْمَةِ مُعْطَى جَلَائِلِ النِّعَمِ

اس کے شرف و فضل پر اور انفرادیت پر اور بطفیل سر رحیم کے اور رحمت کی مہربانی کے جو عطا کرنے والا ہے بزرگتر نعمتیں

وَدَقَائِقِهَا وَمُشَوِّقِ الْقَلْبِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَجَارِهَا

اور چھوٹی نعمتیں۔ اور دلوں میں شوق پیدا کرنے والا ہے بعض کا بعض کی طرف اور انہیں کشش کرنے والا ہے انہیں

بِتَعْطِيفِ رُوحَانِيَّةِ اسْمِكَ الرَّحِيمِ فَهِيَ اسْمَانِ كَالْأَنْ

نیر سے اسم رحیم کی روحانیت کی مہربانی اور شفقت سے پس وہ دونوں بزرگتر

كِرِيمَانَ عَظِيمَانَ فِيهِمَا شِفَاءٌ وَبَرَكَاتٌ لِّكُلِّ مُؤْمِنٍ كَسَّالٍ

کرامت و عظمت والے نام ہیں ان میں سرا سر شفا اور برکت ہے ہر مومن کے لیے جو سوال کرے

بِهِمَا فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ مَّصَالِحِ الدُّنْيَا وَدَارِ التَّحْوِيلِ وَبِسْرِهَا

ان کے توسل سے دنیا اور دار انتقال کے منافع میں قلیل ہوں خواہ کثیر اور ان کے سر و باطن کے ساتھ

فِي الْقَدَمِ وَبِحَقِّ خُرُوجِ الْأَرْبَعَةِ الْأَنْهَارِ مِنْ حُرُوفِهَا الْأَرْبَعَةِ

قدم و ازل میں اور بطفیل نکلنے چار نسرور کے ان کے چار حروف سے

وَبِهَيْبَتِهَا وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِهَا عَلَى الْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَالسَّفَلِيِّ وَ

اور بطفیل ان کی ہیبت اور قوت غلبہ کے عالم علوی و سفلی پر اور

بِهَاءِ مَنْزِلَتِهَا وَلَوْجِهَا وَقَلْبِهَا وَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَبِأَمِينَتِهَا

اس کی رفعت و منزلت کی رونق اور اس کے لوح و قلم اور عرش و کرسی کے طفیل اور ان کے امین

جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِأَمِينَتِهَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے امین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے طفیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْأَمْوَاجِ بِالْخَطَابِ الْأَزَلِيِّ فِي حَضْرَةِ التَّكْلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جو بارگاہ ہمکلامی میں خطاب ازل کے سبب سراپا امواج ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْمَعِ الْعُظَمَاءِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محل اجتماع ہیں

الذَّاتِيَّاتِ الْإِلَهِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ذاتی الہی عظمتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْحَقِيقَةِ الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر جو عین حقیقت ذاتیہ الہیہ کے منظر کامل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِتَابِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو مجسم کتاب ہیں

حَضْرَاتِ الدِّيَّوَانِ الْإِلَهِيِّ وَيَتْبُوعِ عَيْنِ مَادَّةِ الْوُجُودِ الْإِلَهِيِّ

دیوان الہی کی حضور یوں کی اور بہتا چشمہ ہیں وجود الہی ازل

الْأَزَلِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مادہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ نَقْطَةً وَجْهَ جَمَالِ حُسْنِ الْحَقِّ الْمَشْهُودِ الْإِلَهِيِّ الْأَبَدِيِّ

پر جو نقطہ اور خال ہیں حق تعالیٰ کے حسن الہی ابدی کے چہرہ جمال کا جس کے جلوے پر جگہ مشاہدہ کئے جاتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحَرَمِ مَجِيْطِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی آل پر جو بحر محیط

الْمُحِبَّةِ الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں ذات الہی کی محبت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زُلَّالِ الْمُحِبَّةِ الْأَزَلِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صفات و شفاف ذات الہیہ ازلیہ مقدسہ کی

الْمُقَدَّسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

محبت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ طَوْقَانَ الْعُظْمَةِ الْحَبِيْبَةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو حسب الہی کی عظمت کی موسلا دھار بارشیں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اسماء و صفات الہیہ قدسیہ کے

الْقُدْسِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حقائق کے منظر کامل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ تَجَلَّى كَمَالِ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جو تجلی کمال ہیں ذات الہیہ مقدسہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلْعَةَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ذات الہیہ کے اسماء و صفات

الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی خلعت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَعْسُوبِ أَسْرَارِ الْوَاصِلِينَ الْإِلَهِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو امیر و رئیس ہیں واصلان بارگاہ الوصیت کے اسرار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الْإِلَهِيِّ الرَّافِعِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مجسم نور الہی ہیں جو دور کرنے والے ہیں

لِلظُّلُمَاتِ الْكُونِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کون و حدوث کی ظلمات کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنْزِ الْمَعَارِفِ الذَّاتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل اطہار پر جو ذات الہی کے معارف کا خزانہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَيْنِ الْحَقِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو (منظر) عین ہیں حق تعالیٰ کا جو

الْجَامِعَةِ لِكُلِّ عَيْنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جامع ہے واسطے ہر عین و حقیقت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مظهرِ الْعُظْمَةِ الذَّاتِيَّةِ وَجَمِيعِ عَيُونِ الْحَقَائِقِ

محمد پر جو اللہ کی عظمت ذاتیہ کے منظر ہیں اور رحمان حقائق کے سرچشموں کا

الرَّحْمَوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مجمع (الانصار) ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ سِرِّ مَلَكُوتِ الْأَسْمَاءِ وَالْمَعْبَرِ عَنْهُ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

پر جو راز سر بستہ ہیں اسماء باری تعالیٰ کے وسیع ملک کے اور ان کے تذکرے کئے گئے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سادہ

الذَّاتِ الْإِحَاطِيَّةِ الْوُجُودِ وَنُقْطَةِ دَائِرَةِ الْكَمَالِ الْإِلَهِيِّ فِي الْعَالَمِ

ذات والے ہیں جس کا وجود و محیط (کائنات) ہے اور کمال الہی کے دائرہ کے مرکزی نقطہ ہیں غیب

وَالشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و شہود میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

نَفْخِ رُوحِ الرَّحْمَانِ فِي كَلِيَّاتِ الْوُجُودِ الْعَيَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ

جو نفس رحمانی کی روح کا عین نفع اور حلول ہیں وجود عیانی کی کلیات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ التُّورِ الدَّائِي وَالْمَنْظَرِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراسر نور ذاتی اور منظر

الصِّفَاتِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صفاتی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مَجْلَى الْحَقَائِقِ الْقُرْآنِيَّةِ وَصُورَةَ مَادَّةِ التَّجَلِيَّاتِ الْفُرْقَانِيَّةِ اللَّهُمَّ

جو جلوہ گاہ ہیں حقائق قرآنیہ کی اور صورتہ مادہ ہیں تجلیات فرقانیہ کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرُّوحِ الْقُدُّوسِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو قدسی روح ہیں اور

السِّرِّ السُّبُوْحِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سبحی راز سر بستہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بِرِزْحِ الْعُظْمَةِ الدَّائِيَّةِ الْحَاجِزَيْنِ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو عظمت ذاتیہ کا برزخ ہیں جو حائل ہے تیری مخلوق کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَيُوضِ الْجَمَالَ وَالْجَلَالَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو مجسم فیوض ہیں جمال و جلال اور

الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کمال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر آل محمد پر

الذَّاتِ الْكُنْهٍ وَعَيْنِ حَقِيقَتِهِ فِي الْكُنْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو ذات حقیقیہ اور عین حقیقت ہیں حقیقت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَهُ وَجَوْهَ تَجَلِّيَاتِ الْكُنْهِ وَجَامِعِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو قبلہ ہیں تجلیات حقیقت کے چہروں کا اور تمام حقائق کو اپنے

الْحَقَائِقِ كَمَا لِكُنْهِ الْكُنْهِ وَالْقَائِمِ بِالْكُنْهِ فِي الْكُنْهِ وَأُمِّ الْكِتَابِ

اندر جمع کرنے والے، حقیقتِ اصلیہ کا کمال مجسم اور قائم و برپا رکھنے والے ہیں حقیقت کے حقیقت میں اور ام کتاب

لِكَمَا لَتِ كُنْهَ الذَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور لوح محفوظ ہیں حقیقت ذات کے کمالات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْوُجُودِ الْمُبْتَلِقِ الْجَامِعِ لِسَائِرِ التَّقْيِيدَاتِ

آل محمد پر جو وجود مطلق کا عین ہیں جو کہ تمام تقییدات و تشخصات کا محل جامع ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صُورَةَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو صورت ہیں

نَاسُوتِ الْخَلْقِ وَمَعَانِي لَاهُوتِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خلائق کے جسم مادی کی اور معانی ہیں حق تعالیٰ کے تجرود اور تقییدات سے تنزہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاطِرِ بِالْكُلِّ فِي الْكُلِّ مِنْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مشاہدہ فرمانے والے ہیں ساتھ کل کے کل میں کل

الْكُلِّ لِلْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سے واسطے کلیات و جزئیات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَوْنِ سَلْسَبِيلٍ وَمَنْهَلِ حَوْضِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو مانند کوثر و سلسبیل کے ہیں اور سرچشمہ ہیں واسطے

مَشَارِبِ جَمِيعِ التَّجَلِّيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام تجلیات کے گھاٹوں والے حوض کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَتَلِدِذِ بِصُورَةِ نَفْسِهِ فِي جَنَّةِ فِرْدَوْسٍ

آل محمد پر جو کھٹ اندوز ہونے والے ہیں اپنی حقیقی صورت کے ساتھ اپنی ذات کے جنت الفردوس

ذَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

بِحُرْقَامُوسِ الْجَمْعِ الْمَطْبُطِمْ وَطِرَازِ رِذَائِ الْكِبْرِيَاءِ الْمَطْلُومِ اللَّهُمَّ

جو گہرا تلامخیز سمندر ہیں جمع یعنی خلق و خالق کے تعلق کا اور طلسماتی نقش ہیں کبریائی چادر کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرَأَيْ الْوَرَاءِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو بلند تر ہیں تمام مخلوق سے

بِلَا وَرَاءِ دُونَ الدُّوْنِ بِلَادُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

بغیر انتہاء کے اور قریب تر ہیں ہر قریب کی نسبت بغیر کسی فصل و فرق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا أَحَدٌ يُسَاوِيهِ وَلَا فِيهِ يُدَانِيهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ کوئی شخص ان کے ساتھ درجات و مراتب میں انہ برابر ہے اور نہ ہی قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُرْسِيِّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو کرسی محیط ہیں

الْصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْأَلْفِ إِذَا تَقَدَّمْتُ وَ

تمام صفات و کمال اور اسماء (جمال) کے لیے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطریق الف کے جب مقدم ہو اور

بِالْهَاءِ إِذَا تَأَخَّرْتُ وَبِالْهَاءِ مِثِّي إِذَا انْقَلَبْتُ لِأَمَّا أَنْ تُفِينَنِي

ساتھ ہاء کے جب مؤخر ہو اور ساتھ میری ہاء کے جب لام بن جائے کہ فنا کر دے مجھے

بِكَ عَنِّي حَتَّى تَلْتَحِقَ بِالصِّفَةِ بِالصِّفَةِ وَتَقَعَ الرَّابِطَةُ بِاللَّامِ

مجھ سے اپنی ذات کے ساتھ حتی کہ لاحق ہو جائے صفت ساتھ صفت کے اور قائم ہو جائے ربط و تعلق تیری ذات سے بھی

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي

نہیں معبود برحق مگر تو اے دائم الحیات، اے قائم بذات خود اور دوسروں کو قائم کرنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ بِالْأَلْفِ الْقَائِمِ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ سَابِقٌ وَبِاللَّامِينَ

تجھ سے سوال کرتا ہوں ساتھ قائم و ثابت الف کے جس سے متقدم کوئی شئی نہیں اور ساتھ دو لاموں کے جن

الَّتَيْنِ طَمَسَتْ بِهِمَا الْأَسْرَارُ وَجَعَلَتْهُمَا بَيْنَ الْعَقْلِ وَ

کے ذریعے مٹ گئے اسرار اور بنا دیا تو نے ان دونوں کو عقل اور روح کے

الرُّوحِ وَأَخَذَتْ عَلَيْهِمَا الْعَهْدَ الْوَاتِقَ وَبِالْهَاءِ الْمُحِيطَةِ

درمیان اور لیا تو نے ان سے پختہ عہد اور ساتھ ہاء کے جو محیط ہے علوم

بِالْعُلُومِ الْجَوَامِدِ وَالْمُتَحَرِّكِ وَالصَّوَامِتِ وَالنَّوَاطِقِ هُوَ

کے ساتھ ٹھوس اشیاء اور متحرک کو اور خاموش اشیاء اور بولنے والی کو، وہی

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الرَّحِيمُ الْفَعَالُ اللَّطِيفُ الْوَلِيُّ

اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر وہی دائمی علم اور رحم والا، بہت افعال والا، حواس خلاق سے بالاتر، متولی امور

الْحَمِيدُ الصَّبُورُ الرَّشِيدُ الرَّحْمَنُ رَبِّ أَدَقْنِي مِنْ بَرْدِ حَلْبِكَ

خلاق دائمی مستحق حمد، بہت صبر و تحمل والا، سیدھی راہ والا، غایت رحمت والا۔ اے اللہ مجھے چکھانجھ پر اپنی بردباری کی

عَلَى مَا ابْتِهَجُ بِهِ فِي عَوَالِي فَلَا أَشْهَدُ فِي الْكُونِ إِلَّا مَا يَقْتَضِي

ٹھنڈک جس کے ساتھ خوشی و مسرت کا اظہار کروں میں اپنے جہانوں میں پس نہ دیکھوں میں مخلوقات میں مگر اسی کو جو چاہے

سَكُونِي وَرَضَائِي بِرِضَائِكَ فَإِنَّكَ الْحَقُّ وَأَمْرُكَ الْحَقُّ وَ

میرے سکون و رضا کو ساتھ تیری رضا کے کیونکہ تو ہی حق اور دائم الوجود ہے اور امر تیرا حق ہے اور

أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّحِيمُ رَبِّ أَشْهَدُنِي مُطْلَقَ فَأَعْلِيَّتِكَ فِي كُلِّ

تو ہی حلیم و رحیم ہے۔ اے میرے رب مجھے مشاہدہ کرا اپنی تاثیر مطلق کا ہر مخلوق

مَفْعُولٍ حَتَّى لَا أَرَى فَاِعْلَا غَيْرِكَ لِأَكُونَ مُطِئًا تَحْتَ جُرْيَانِ

میں حتی کہ میں نہ سمجھوں تیرے علاوہ کسی کو فاعل و مؤثر تاکہ میں مطئن ہو جاؤں تیری تقدیروں کے

میں حتی کہ میں نہ سمجھوں تیرے علاوہ کسی کو فاعل و مؤثر تاکہ میں مطئن ہو جاؤں تیری تقدیروں کے

اَقْدَارِكَ مُنْقَادًا الْكُلِّ حُكْمٍ وَجُودِي عَيْبِي وَبِرِّ زَيْحِي يَا نَارَ

جاری ہونے کے مطابق در آنجا لیکہ میں تابعداری کروں تیرے ہر حکم کی موجود خارجی ہو یا برزخی اور تخی۔ اے اپنے امرو

أَمْرِهِ فِي كُلِّ عَيْنٍ اجْعَلْنِي مُنْفَعًا فِي كُلِّ حَالٍ لِمَا يُحَوِّلُنِي عَنْ

تفصا کی روح کو ہر عین میں پھونکنے والے بناوے مجھے متاثر ہر حال میں ہر اس امر سے جو مجھے پھیر دے

ظُلُمَاتٍ تَكْوِينَاتِي وَالْحَقُّ فِعْلِي وَفِعْلُ الْفَاعِلِينَ فِي أَحَدِيَّةِ

میری تکوینی اور تخلیقی ظلمتوں سے اور لائق فرما میرے فعل کو اور دیگر فاعلوں کے افعال کو اپنے فعل

فِعْلِكَ وَتَوَلَّيْتَنِي بِجَمِيلٍ حَمِيدٍ اخْتِيَارِكَ لِي فِي جَمِيعِ تَوَجُّهَاتِي

احدیت کے ساتھ اور متولی ہو میرا اپنے جمیل اور قابل ستائش اختیار کے ساتھ میری تمام توجہات و رغبات میں

وَأَفِنْ عَنِّي إِرَادَتِي وَصَبِّرْنِي وَسِدِّدْنِي وَأَرْحَمْنِي وَأَصْحَبْنِي

اور قنا فرما مجھ سے میرے ارادہ کو اور مجھے صبر اور ثابت قدمی عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ اور مجھے مصاحب بنا

بِاللُّطْفِ وَالْعِنَايَةِ بِبِعِيَّةٍ خَاصَّةٍ مِّنْكَ وَحَقِّقْنِي بِقُرْبِكَ الَّذِي

لطف و عنایت کا اپنی معیت خاصہ کے ساتھ اور مجھے ثبوت و دوام بخش اپنے اس قرب کے ساتھ جس کے ساتھ

لَا وَحْشَةَ مَعَهُ يَا رَحْمَنُ يَا سَلَامُ يَا اللَّهُ يَا نُورَ يَا حَقُّ يَا مَبِينُ يَا كَسِينُ

وحشت نہیں۔ اے رحمن۔ اے سلام۔ اے اللہ۔ اے نور۔ اے حق۔ اے ہدایت خود ظاہر اور دوسروں کو

مِنْ نُورِكَ وَعَلَّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ وَفَهَّمْنِي عَنْكَ وَأَسْمِعْنِي مِنْكَ وَ

نور سے اور سکھلا مجھے اپنے علم خاص سے اور فہم عطا کر اپنی طرف سے اور سننے کی توفیق دے اور

أَبْصِرْنِي بِكَ وَأَسْمِعْ دُعَائِي بِخَصَائِصِ لُطْفِكَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ

بصر و بصیرت عطا فرما ساتھ اپنے اور میری دعا قبول فرما اپنے مخصوص الطاف کے ساتھ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ

تَسْجِرْ لِي جَمِيعَ خَلْقِكَ بِالْحَبَّةِ وَالْمَوْدَّةِ وَأَنْ تَرْزُقَنِي رِزْقًا حَلَالًا

مسخ فرمائے میرے لیے اپنی تمام مخلوق کو محبت و مودت کے ساتھ اور عطا فرمائے حلال

كَيْبًا مُّبَارَكًا وَأَنْ تُسَهِّلَ عَلَيَّ كُلَّ عَسِيرٍ وَأَنْ تَجْعَلَ الْعَسِيرَ يَسِيرًا

و پاکیزہ اور بابرکت رزق اور آسان فرمائے مجھ پر مشکل کو اور بنا دے ہر مشکل کو آسان اے

عَظِيمَ السُّلْطَانِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ يَا دَائِمَ النِّعَمِ يَا بَاسِطَ الرِّزْقِ يَا

عظیم سلطنت والے، اے قدیم احسان والے، اے قدیم احسان والے، اے دائمی نعمتوں والے۔ اے رزق کو عام

وَاسِعَ الْعَطَايَا يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ يَا حَاضِرًا لَيْسَ بِغَائِبٍ يَا مُوجُودًا

کرنے والے، اے وسیع عطاؤں والے، اے بلیات کو دور کرنے والے، اے کہ جو ایسا حاضر ہے کہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ اے کہ جو موجود ہوتا

عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا مُجَمَّلَ السَّرِّ يَا حَفِيَّ اللَّطْفِ يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ يَا

ہے شدتوں اور سختیوں کے وقت۔ اے باطن خلق کو حسین بنانے والے۔ اے مخفی لطف والے۔ اے پاکیزہ صنعت والے۔

حَلِيمٌ لَا يُعَجِّلُ يَا جَوَادٌ لَا يُبْخَلُّ اقْضِ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

دائمی علم والے جو (عقوبت میں) جلدی نہیں کرتا۔ اے صاحبِ جود جو بخل نہیں کرتا، میری حاجت پوری فرما اپنی رحمت کیساتھ۔ اے

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ جَبَلِ طُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْمُسْتَوِيِّ بِرُوحِ ذَاتِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو کہ طور ہیں تجلیات الہیہ کے لیے جو موسوم ہیں ہر موجود کی روح کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمْعَ حَقَائِقِ اللَّاهُوتِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مجمع اور محل اجتماع ہیں جہان الوہیت کے حقائق

الْمَشْهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مشہود کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

كُنْزِ الْمَعَارِفِ الدَّائِيَةِ وَقُرْآنِ الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جو معارف ذات الہیہ کے کنز و خزانہ ہیں اور حقائق الہیہ کا مصحف قرآن ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِنَايَةَ الْحَسْبَةِ وَرَحْمَةً

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو کنایہ اور عبارت ہیں جسی اللہ سے اور سراپا

الْبَسْمَلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَيْنِ الْعَيْنِ الْحَافِظِ الْقَائِمِ بِصُورَتِهِ كُلِّ أَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو اصل ہیں ہر موجود کا۔ حفاظت فرمانے والے ہیں اور قائم ہے آپ کی صورت کے طفیل ہر مکان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَرْفِ الْمَعِينِ وَالْعَيْنِ الْمُبِينِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو معین حرفت ہیں اور عین مبین ہیں

وَنُقْطَةَ الْحَقِّ الْمُبِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور نقطہ ہیں حق مبین و معنی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يُتَلَىٰ قُرْآنُهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الْحَقُّ يَعْجَبُهُ

آل محمد پر کہ نہیں تلاوت کی جا سکتی ان کے مصحف حسن و جمال کی مگر جانب حق جل و علی سے بسبب عاجز و گنگ ہونے

لُغَاتِ الْخَلْقِ عَنْ أَحَدِيَّةِ ذَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مخلوق کی لغات اور زبانوں کے ان کی ذات یکتا کی توصیف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعُظْمَةِ وَهَاءِ الْهُوِيَّةِ وَنُورِ

محمد پر اور آل محمد پر جو عظمت کی عین اور ہویت و ذات حق کی ہا اور عالم ناسوت

النَّاسُوتِ وَوَلَامِ اللَّاهُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و جسمانیت کا نون اور لاہوت و تجرد کی لام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبْدِئِ الْكُلِّ وَمَرْجِعِ الْكُلِّ وَالْكُلِّ فِي

اور آل محمد پر جو ہر ایک کا مبدئ و منشاء اور ہر ایک کا مرجع و عباد ہیں اور ہر کل کا

كُلِّ بِلَا بَعْضٍ وَلَا كُلٌّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کل اور حقیقت ہیں بغیر کسی تقسیم و تبعض کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكُلِّ الْكُلِّ فِي سِرِّ الْكُلِّ الْكُلِّ حَيْثُ الْكُلُّ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر جو ہر کل کا کل اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ الْكُلِّ وَكُلِّ الْكُلِّيَّاتِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کل کا کل اور تمام کلیات کی کلی ہیں

وَأَسْتَاذُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ اللَّهُ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ رَحْمَنٍ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ رَحِيمٍ

اور استاد الكل ہیں كل عالم میں۔ اللہ سب كل کا كل ہے۔ رحمن ہر كل کا كل ہے۔ رحیم ہیں

كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ إِلَيْهِ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ بِهِ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ هُوَ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ فِي

ہر كل کا كل ہے، اسی کی طرف ہر كل کی بازگشت ہے، بطریق اس کے ہی ہر كل كل ہے، وہی ہر كل کا كل ہے

كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ لِكُلِّ الْكُلِّ كُلُّ بِكُلِّ الْكُلِّ كُلُّ مِنْ كُلِّ الْكُلِّ كُلُّ عَلَى كُلِّ

ہر كل میں كل ہے، واسطے ہر كل کے كل ہے، ساتھ ہر كل کے كل ہے، ہر كل سے كل ہے، كل ہے اوپر ہر

كُلُّ كُلُّ حَقٌّ كُلُّ الْكُلِّ كُلُّ وَكُلُّ الْكُلِّ كُلُّ عَلَى الْكُلِّ أَسْأَلُكَ

كل کے، حق تعالیٰ ہر كل کا كل ہے اور ہر كل کا كل ہے۔ كل ہے اوپر ہر كل کے۔ میں سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ بِتَقْدِيمِ كُلِّ مُقَدَّمٍ وَتَأْخِيرِ كُلِّ مُؤَخَّرٍ التَّقَدُّمُ فِي الْكُلِّ

تجھ سے اے اللہ ہر مقدم کی تقدیم کے طفیل اور ہر مؤخر کی تاخیر کے طفیل سب میں تقدم کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عین

الْحَقِّ الْمُبِينِ وَقَلْبِ الْحَقَائِقِ يَسِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حق مبین ہیں اور حقائق یسینہ کا قلب و باطن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسِيرِ صِفَاتِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے بیان صفات سے زبانیں گنگ ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ حیران و

تَحَيَّرَتْ الْعُقُولُ وَتَاهَتْ فِي مَهَامِهِ وَحَقَائِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سرگردان ہیں عقول و افہام ان کے حقائق ذات کے وسیع میدانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الْأَفْقِ وَالْأَفُقِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آفتق الوہیت کے روشن آفتاب ہیں اور

الْأُلُوهِيَّةَ وَمَعْدِنِ كُنُوزِ أَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اسرار ربوبیت کے خزانوں کی کان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اسْتِوَاءِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَنْظَرِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو راز سر بستہ ہیں رحمان تبارک و تعالیٰ کے استواء اور غلبہ کا اور اسماء اللہیہ

وَجُودِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے وجود کا منظر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ سَبْعِيَّةِ الْأَسْمَاءِ النَّفْسِيَّةِ بِطَائِفِ

اور آل محمد پر جو منظر ہیں سات اسماء ذاتیہ کا ساتھ انسانی صدی اور

الْإِنْسَانِيَّةِ الصَّدْرِيَّةِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ يَا نُزَالَ الْجُنُودِ وَالشُّهُودِ

باطنی لطائف کے اور دگوبانہات نمود ارض و اسماء ہیں بسبب نازل کرنے لشکروں کے اور حاضر ہونے کے

وَتَتَّقِ الْجَبَلِ لِأَهْلِ الْجُحُودِ وَأَخِذِ الْبِيثَاقِ وَأَمْرٍ بِالرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ

اور اکھپڑنے پہاڑ کے واسطے منکرین کے اور ان سے عمل کا عہد و اقرار کرانے کے اور رکوع و سجود امر

وَنَادَىٰ فِي أَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ عِنْدَ الْوَالِدِ وَالْأُمِّ وَالْخُلُودِ وَتَجَلَّى

اور منادی کرانے کے اس کے ہاں روزی دیئے جانے والوں کے ہمیشہ ہمیشہ زندہ کرنے کے اور جلوہ گر ہونے کے

لِلذَّاكِرِينَ بِذِكْرِهِ حَتَّىٰ أَقْشَعَتْ مِنْهُ الْجُلُودُ وَلَا نَتْ قُلُوبٌ

واسطے اپنے اہل ذکر کے یہاں تک رونگٹے کھڑے ہو گئے اس سے جلدوں اور بدنوں پر اور نرم و ملائم ہو گئے دل

الْجُنُودِ مِنَ الْمُرْفِينِ بِالْعَهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان جنود و عساکر کے جو عہد خداوندی کو پورا کرنے والے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَوَرَاتِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو منظر ہیں جلال و جمال کا اور آئینہ ہیں

الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَمَخْزَنِ الْمَشَاهِدَةِ وَمُوصِلِ الْعَمَلِ

ذات و صفات حق تعالیٰ کا اور مخزن ہیں مشاہدہ کے اور پہنچانے والے ہیں بندوں کو

بِرَبِّ الْعِبَادِ بَعْدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

اپنے رب تعالیٰ تک مطابق اپنے معلومات کی تعداد کے اور برکات و سلامتی اور رحمت کاملہ نازل فرمان پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا وَأَنْثَىٰ بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا

اے اللہ بنا دے اپنی صلوات میں سے افضل ترین از روئے اعداد کے اور اپنی برکات میں سے بہت بڑھی ہوئی

وَأَزْكَىٰ تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا عَلَىٰ أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ

وہی برکات اور پاکیزہ ترین تحفے از روئے فضل اور مدد کے تمام خلائق انسانیہ اور جنیہ میں سے

وَالْجَانِّيَّةِ وَمَعْدِنِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ

بزرگترین ہستی پر اور حقائق ایمانیہ کے معدن و کان پر اور تجلیات احسانہ کے طور پر

وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَوِاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِيِّينَ وَمُقَدِّمَةِ

اسرار رحمانیہ کے محل نزول پر، انبیاء کرام کی لڑی کے درمیانی گوہر والا پر، مسلمانوں کے شکر کے

جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ لُؤَاءِ الْعِزِّ

پیش رو پر اور تمام مخلوقات سے افضل ترین شخصیت پر۔ بلند تر عزت کا پرچم بلند کرنے والے

الْأَعْلَىٰ وَمَالِكِ أَرْمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَىٰ شَاهِدِ اسْرَارِ الْأَنْزَلِ وَ

پر۔ روشن شرف و فضل کی لگاموں کے مالک پر۔ اسرار ازل کے مشاہد و گواہ پر اور

مُشَاهِدِ أَنْوَارِ السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَامِ وَمَنْبَعِ

انوار سابقہ ازلیہ کے مشاہدہ کرنے والے پر، زبان قدم و ازل کے ترجمان اور علم و علم اور

الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجَزِيِّ وَالْكَلْبِيِّ وَالْإِنْسَانِ

حکمتوں کے سرچشمہ پر، جزئی و کلی جود کے مظہر اسرار پر اور موجودات

عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ وَالسِّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونِيِّ وَعَيْنِ حَيَاةِ

علوی اور سفلی کی آنکھ کی پٹی پر، جسد کونین کی روح اور دارین کے چشمہ

الدَّارَيْنِ الْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَىٰ رُتْبَةِ الْعِبُودِيَّةِ الْمُتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ

آبجیات پر جو عبودیت کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ متخلق ہیں اور اسرار ربوبیت کے ساتھ موجود و متحقق ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جامع ہیں تمام تر

الْأَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ بِالْأَعْلَى

ادصاف کمال کے، خلیل اعظم اور حبیب اکرم ہیں جو مختص ہیں اعلیٰ مراتب

الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمَوْئِدِ بِأَوْضِحِ الْبِرَاهِينِ وَالذَّلَالِ

مقامات کے ساتھ اور تائید و تقویت یافتہ ہیں واضح ترین براہین و دلائل کے ساتھ

الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ وَالْمَعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْإِبْدِيِّ وَ

جو منصور و غالب ہیں خدا داد رعب و دبدبہ اور معجزات خاص کے ساتھ اور جو ابدی شرافت قاب جوہر ہیں

النُّورِ الْقَدِيمِ السَّرْمَدِيِّ مُحَمَّدِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ فِي

اور سرمدی محمدی قابل ستائش نور قدیم ہیں یعنی سیدنا محمد جو محمود ہیں وقت

الْإِيْجَادِ وَالْوُجُودِ الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةِ الشَّاهِدَةِ

ایجاد و تخلیق سے اور مجسم وجود ہیں جہاں سے آغاز ہوا ہر مشاہد و مشہود کا اور دیوان و بارگاہ مشاہدہ

وَالشَّهُودِ وَنُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاةٍ وَسِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَسَنَاءِ الَّذِي شَقَّقَتْ

مشہود ہیں اور ہر شئی کے لیے نور و ہدایت ہیں اور ہر راز سربستہ کا راز حقیقت اور نور و بہار

مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَانْقَلَبَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں سے اسرار کے چشنے پھوٹے اور انہیں سے انوار پھیلے اور منتشر ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُوْرِكَ الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ

محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے مجسم نور قدیم اور صراط مستقیم ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے عبد خاص

وَرَسُولِكَ وَصَفِيكَ وَخَلِيْلِكَ وَحَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمِيْنِكَ

رسول برحق اور صفی و منتخب اور خلیل و حبیب اور نبی و امین اور

ذَلِيلِكَ وَنَجِيكَ وَذَخِيرَتِكَ وَخَيْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تیری دلیل و برہان اور تیرے ہمکلام تیرے ذخیرہ فیوض و برکات اور تیرا انتخاب ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْرَكَ الْحَقَائِقَ بِجَمِيَّتِهَا

فرمایا سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے پایا تمام تر حقائق کو اور خود

وَفَازَ وَأَفَازَ الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِهَا وَجَعَلَتْهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَةً قَرِيبًا وَ

کامیاب ہوئے اور تمام خلایق کو کامیابی سے ہمکنار کیا، تو نے انہیں حبیب بنایا اور قریب کر کے ہمکلام کیا اور

أَدْنَيْتَهُ رَقِيبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَالذَّلَالَهَ وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ

انہیں قریب کیا (ہر شئی سے) بطور نگہبان کے اور ختم کیا ان کے ساتھ سلسلہ رسالت و رہبری اور بشارت و انداز

وَالنُّبُوَّةَ وَنَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَلْتَهُ بِالسُّحْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور نبوت کا اور امداد و نصرت دی انہیں رعب و دیدہ کے ساتھ اور ان پر سایہ کیا بادلوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ

نازل فرمایا سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے مخصوص ٹھہرایا عظیم تر

الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ الْقَضَاءِ الْكَبِيرِ فِي الْمَحْشَرِ وَ

وسیلہ اور سب سے بزرگتر شفاعت کے ساتھ بہت بڑی گھبراہٹ اور خوف والے دن میدان محشر میں اور

جَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَجَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ

جمع کئے تو نے ان میں جوامع الکلم اور جواہر حکمت اور بنایا ان کی امت کو بہترین

الْأُمَّمِ وَغَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي

امت اور بخشا تو نے ان کی خاطر جو گزرا ان کی امت کے گناہ سے اور جو باقی ہے جنہوں نے

بَلَغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ

رسالت کا حق تبلیغ اور امانت کا حق ادا کیا اور امت کی عنخواری فرمائی اور غم و اندوہ کو

الْغُبَّةَ وَجَلَّى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدَ رَبَّهُ

دور کیا اور ظلمت و تاریکی کو روشنی میں بدلا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے رب کی عبادت کی

حَتَّىٰ آتَاكَ الْيَقِينَ ۗ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ حَاءِ حَلَا

تادم واپس اور آخری لمحہ تک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری حمد کے (سرچشمہ) حیات کی

حَمْدِكَ أَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ حَاءِ أَحَدِيَّتِكَ وَوَأَحَدِيَّتِكَ

حاء کے طفیل کہ نکالے مجھے اپنی احدیت، واحدیت اور وحدانیت کی

وَحَدَانِيَّتِكَ حُرَّتًا مَمْنِيْعًا وَحَمِيَّ عَزِيْزًا وَحَصْنًا حَصِيْنًا تَحْتِ

حاء کی طرف در آنحالیکہ وہ بلند پناہ گاہ اور غلبہ والی محفوظ جگہ اور مضبوط قلعہ ہے محفوظ فرمائے

بِهَادِيَّتِي وَرَايِمَانِي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَإِخْوَانِي وَأَوْلَادِي

بسبب اس کے میرا دین و ایمان اور جان اور اولاد اور مال اور برادران اور اولاد

وَجَمِيْعٍ نَعْمِكَ عِنْدِي وَمَا لَا بُدَّ لِي مِنْهُ فِي طَاعَتِكَ وَقُرْبَتِكَ

اور اپنی تمام نعمتوں کو جو میرے پاس ہیں اور جن امور سے چارہ نہیں مجھے تیری اطاعت اور قربت و عبادت

وَمَجَالِسَتِكَ اللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَفِيْتُ وَأَسْتَجِيْعُ وَبِحَمْدِكَ عِبْدِكَ

میں اور تیری ہم نشینی میں۔ اے اللہ تیرے ساتھ ہی فتح و کامرانی طلب کرتا ہوں اور تیرے عید خاص

وَرَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ اتَّوَجَّهُ اللَّهُمَّ سَهْلًا

اور رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ آسان فرما

حَزُونَةً أَمْرِي وَذَلِّ مَعُوبَتَهُ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ أَكْثَرُ مِمَّا

میرے امر کی شدت کو اور مغلوب و فرمانبردار بنا اس کی صعوبت و سرکشی کو اور عطا فرما مجھے ہر طرح کی خیر سے میری امید

أَرْجُو وَأَصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ كُلَّهُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

سے زائد اور پھیر دے مجھ سے ہر قسم کے شر کو جس سے میں خوفزدہ اور اندیشہ ناک ہوں اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۗ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ

اللہ کی توفیق سے جو بزرگتر اور دائمی عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا اور حمد و ثنا ہے

بِاللَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ۗ وَاشْهَدُ أَنَّكَ وَاحِدٌ

اللہ کے لیے بیش از بیش اور پاکیزگی ہے اللہ کے لیے صبح و شام اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد

أَحَدًا صَدًّا وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ كَمَا شَرِهَدَتْ حَمَلَةٌ عَرَشِيكَ

یکتا و بے نیاز ہے تو واحد لا شریک لہ ہے جیسے کہ گواہی دی تیرے عرش عظیم کے

الْعَظِيمَةِ وَنَبِيِّكَ الْكَرِيمِ الْكَبِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَأَمِنْهُ وَ

عالمین کے اور تیرے کریم اور بزرگ ترین نبی نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اور عطا و

أَفْلَحُ وَأَنْجِحْ وَأَتِمِّمْ وَأَصْلِحْ وَتَرَكَ وَأَرْبِحْ وَأَوْفِ وَأَرْجِحْ

فلاح اور کامیابی عطا فرما اور تکمیل و اصلاح فرما اور پاکیزگی و منفعت عطا فرما اور کامل اور وزنی بنا

أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَأَجْزَلَ الْيَمِينِ وَالتَّحِيَّاتِ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ

افضل ترین صلوٰۃ اور عظیم تر احسان و انعام اور تحفے اپنے عبد خاص اور نبی

وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي

و رسول برحق سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کہ

هُوَ فَلَاقُ صُبْحِ أَنْوَارِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَطَلَعَتْ شَمْسُ أَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ

وحدانیت کے انوار کی صبح درخششاں ہیں اور اسرار ربانیہ کے آفتاب کی طلعت ہیں

وَبِهَجَّةٍ قَبْرِ الْحَقَائِقِ الصَّمَدِ انِّيَّةِ وَعَرْشِ حَضْرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ

اور حمدانی حقائق کے ماہتاب کی رونق و سہار ہیں اور تجلیات رحمانیہ کا عرش اعظم ہیں

وَنُورِ كُلِّ رَسُولٍ وَسَنَاءِ لَيْسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لِمَنْ

اور ہر رسول کا نور اور اس کی ضیاء ہیں۔ اے سید خلائق قسم ہے قرآن حکیم کی۔ بیشک تم البتہ

الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَسِرِّ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاةً ذَلِكَ

مرسلین میں سے ہو، راہ راست پر ثابت قدم ہو۔ اور ہر شے کا سر باطن اور اس کی ہدایت مجسم

تَقْدِيرِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَجَوْهَرِ كُلِّ وَلِيٍّ وَضِيَاءِ سَلَامٍ

یہ تقدیر و تعیین ہے غالب حکمت والے کی اور ہر ولی و محبوب خدا کا جوہر حقیقت اور اس کی ضیاء ہیں یہ سلام

قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَبِّ حَيْمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیا ہو ارب رحیم کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَعَيْنُ الْعِنَايَةِ وَنَزَائِنُ الْقِيَامَةِ

اور آل محمد پر جو مجسم عنایت الہیہ اور قیامت کی زینت ہدایت کا

الْهِدَايَةِ وَآمِينَ الْمَمْلَكَةِ وَطِرَازُ الْحُلَّةِ وَكَزْزَالُ الْحَقَائِقِ

دائر خزانہ، ملائکہ کے امین اور خلعت (رسالت) کے نقش و نگار اور حقیقت کے خزانے

وَشَمْسُ الشَّرِيعَةِ وَكَاشِفُ الْغُبَّةِ وَدِيَارُ الْجَلْمَةِ وَنَاصِرُ

شریعت کے سرور خشاں اور خفا و پردے اور شدید تاریکیاں دور کرنے والے اور ملت کے ناصر

الْمِلَّةِ وَشَفِيعُ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَخْشَعُ الْأَصْوَاتُ وَ

مددگار امت کے شفیع ہیں روز جزاء میں جس دن آوازیں پست ہو جائیں گی اور

تَشْخُصُ الْأَبْصَارُ اللَّهُمَّ إِنِّ حَسَنَاتِي مِنْ عَطَائِكَ وَسَيِّئَاتِي

نظریں اکٹھی رہیں گی۔ اے اللہ میری نیکیاں تیری عطا سے ہیں اور میری برائیاں

مِنْ قَضَائِكَ اللَّهُمَّ جُذْمًا مَا أَعْطَيْتَ عَلَيَّ مَا قَضَيْتَ حَتَّىٰ

تیری قضاء قدر سے ہیں۔ اے اللہ جو دو سخا فرما اپنی عطا سے اپنی قضا پر حتیٰ کہ

تَمْحُودَ لِكَ بِذَلِكَ اللَّهُمَّ لَوْلَا عَطَائِكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ

محو فرما دے اپنی قضا کو ساتھ اپنی عطا کے۔ اے اللہ اگر تیری یہ عطا نہ ہوتی تو میں ہلاک شدگان سے ہو جاتا

وَلَوْلَا قَضَائِكَ لَكُنْتُ مِنَ الْفَائِزِينَ اللَّهُمَّ فَالْمَعْدَرَةُ إِلَيْكَ

اور اگر تیری یہ قضا نہ ہوتی تو میں کامیاب لوگوں سے ہوتا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں مغفرت کرتا ہوں اپنے

فِيهَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُكَ وَجَرَىٰ بِهِ قَلْبُكَ وَأَنْتَ أَعَزُّ وَأَكْرَمُ وَ

ان افعال میں کہ تیرے سابق علم میں ہیں اور جاری ہوا تیرا قلم ان کے ساتھ۔ اور تو بہت عزت والا اور بزرگتر اور

أَجَلٌ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَمِنْ أَنْ تُعْطَىٰ إِلَّا

جلیل و عظیم تر ہے اس سے کہ تیری اطاعت کی جائے مگر تیرے اذن کے ساتھ اور تیری نافرمان برداری کی جائے بغیر

بِعِلْمِكَ أَطَعْتُكَ بِإِذْنِكَ فَالْبُيْئَةُ لَكَ وَعَصَيْتُكَ بِعِلْمِكَ وَالْحَمْدُ

تیرے علم کے میں نے تیری اطاعت کی تیرے اذن سے پس یہ تیرا ہی احسان ہے اور میں نے گناہ کئے تیرے علم کے باوجود تو اس میں

لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجُودِ حُجَّتِكَ وَإِنْ قَطَاعِ حُجَّتِي

تیرے لیے حجت و دلیل ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری حجت کے ثبوت و تحقق اور اپنے عذر و بہانہ کے انقطاع کے طفیل

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ

کہ صلوٰۃ بھیجے سیدنا محمد و آل محمد پر اور مغفرت فرمائے میرے لیے اپنے پاس

عِنْدَكَ تُقَرِّبُهَا عَيْنِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا فَاْمَحْنِي

سے ایسی مغفرت کہ ٹھنڈی ہو جائیں ساتھ اس کے میری آنکھیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے بد بخت لکھا ہے تو میری شقاوت کو مٹا دے

وَإِذَا كَتَبْتَنِي سَعِيدًا فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ

اور مجھے سعید لکھ دے کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول برحق ہے۔ اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے

وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَ

اور ثابت رکھتا ہے (جو چاہتا ہے) اور اسی کے پاس ام الكتاب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا اور

بَيْنَنَا مُحَمَّدٍ النَّوْرَ الْأَبْلَجِ وَالْبَهَاءِ الْأَبْهَرِ وَنَا مُوسَىٰ

نبی محمد پر جو روشن نور اور پُر بہار ضیاء ہیں اور تورات موسیٰ علیہ السلام کے

تَوْرَةَ مُوسَىٰ وَقَامُوسَ إِنْجِيلِ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ

ناموس اور ماہر انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے سمندر۔ اللہ تعالیٰ کے درود

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَطِلْسِمِ الْفَلَكَ الْأَطْلَسِ فِي

اور سلام ہوں ان تمام پر اور فلک اطلس (نارویں آسمان) طلسم اور راز

بُطُونِ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ وَطَاءُوسِ

مخفی ہیں اس فرمان کے بطن اور پردہ کا کہ "میں مخفی خزانہ تھا" پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں اور منقش طاؤس ہیں

الْمَلِكِ الْمَقْدَّسِ فِي ظُهُورِ فَخَلَقْتَ خَلْقًا فَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِمْ

ملک مقدس کا اس ظہور میں "پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو انہیں پہچان کرانے۔

فَبِي عَرَفُونِي وَقُرَّةِ عَيْنِ الْيَقِينِ وَمِرَاةِ أُولَى الْعِزْمِ مِنْ

پس میرے ساتھ ہی مخلوق نے مجھے پہچانا" اور (درود بھیجے) یقین کی آنکھ کی ٹھنڈک پر اور الو العزم رسولوں

الْمُرْسَلِينَ إِلَى شُهُودِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ وَنُورِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ

کے آئینہ شہود پر واسطے شہنشاہ برحق اور واضح و نورانی کے۔ اور انبیاء مکرّمین کی بصیرتوں

بَصَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُكْرَمِينَ وَمَحَلِّ نَظَرِكَ وَسِعَةِ رَحْمَتِكَ

کی آنکھوں کے نور انوار پر اور اپنے کرم کی نگاہ اور وسیع رحمت کے محل و مرکز پر منجملہ

الْعَوَالِمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِخْوَانِهِ

تمام اولین و آخرین جہانوں کے۔ صلوٰۃ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے برادر

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ

انبیاء و مرسلین پر اور آپ کی آل اور اصحابِ طیبین و

الظَّاهِرِينَ وَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ

ظاہرین پر اور اولیاء و صالحین اور شہداء و صدیقین

وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ رَبِّي مُحَمَّدٍ

اور ملائکہ مقربین پر اور سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد

سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ عَارِفٍ وَاصِلٍ قُطْبِ رَبَّانِيٍّ إِمَامٍ

سید عبد القادر جیلانی پر جو عارف واصل اور قطب ربانی بلند ہمت

هَمَامٍ صَبَّامٍ بَحْرِ الْعَطَايَا فَيْضُ اللَّهِ سَيِّدًا مُؤَيَّدًا فَرِيدًا

امام اور پختہ عزم، عطاؤں کے سمندر۔ اللہ تعالیٰ کا فیض مجسم، صاحب توفیق و تائید آقا

وَحِيدًا زَاهِدًا سَاجِدًا وَاجِدًا سَيْفُ اللَّهِ حِزْبُ اللَّهِ عَرَفَ

یکتا و یگانہ، زاہد و ساجد اور صاحب وسعت، اللہ کی تلوار، اللہ کی جماعت و شکر اللہ تعالیٰ

اللَّهُ حَبِيبُ اللَّهِ لَيْبُ اللَّهِ فَائِقُ جُنُودِ اللَّهِ لَا يَنْفِي عَنْهُ

کی عزت مجسم، اللہ کے حبیب، اللہ کے بخشے ہوئے فائق و خالص عقل والے۔ اللہ کے عمدہ شکر صالح

مُحَصِّلٌ مَنْفَعٍ مَشْفَعٌ كَرَامَةُ اللَّهِ رَأْسُ الْأُمَّةِ

دفانی فی اللہ، (علوم کے) حاصل کرنے والے منفعت یافتہ۔ شفاعت بخشے ہوئے، اللہ کی کرامت مجسم، راست رو اور راہ نما پر میر گار

نَقِيٌّ وَفِي زَكِيٍّ وَوَلِيٌّ بِيَهِيٍّ سَخِيٍّ رَضِيٍّ حَيْبٍ نَسِيْبٍ حُجَّةٌ اللهُ

پاکیزہ۔ صاحب وفا۔ مطہر و پاکیزہ۔ ولی تورانی، پسندیدہ سخی۔ عمدہ نسب والے محبوب۔ اللہ کی دلیل مجسم

سَابِقٌ مُسَبِّقٌ مُوَقِّنٌ عِنَايَتُ اللهُ مُصْلِحٌ مُفْلِحٌ مُرْتَضَى

اہل سبقت اور سبقت بخشنے والے، صاحب یقین، اللہ کی عنایت مجسم، مصلح، صاحب فلاح، چنے ہوئے

مُجْتَبَى مُخْتَارٌ حَقٌّ مُبِينٌ مَّتَبِينٌ مَلَاذٌ مَّعَاذُ عَصَبَتُ اللهُ

منتخب۔ اختیار کئے ہوئے حق مبین۔ مضبوط و مستحکم۔ پناہ اور تحفظ کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کی عصمت مجسم

رَعُوفٌ رَحِيمٌ كَرِيمٌ عَلِيمٌ حَلِيمٌ سَلِيمٌ قَسِيمٌ جَسِيمٌ نَسِيمٌ

مہربان۔ رحیم۔ کریم۔ علیم۔ حلیم۔ سلامتی والے۔ (نعمتوں کے) بانٹنے والے۔ عظیم المرتبت۔ بادشاہی

عَظِيمٌ رَحْمَةٌ اللهُ مَحْمُودٌ مَّقْصُودٌ مَحْسُوبٌ مَعْشُوقٌ مُهْتَدٍ

صاحب عظمت، اللہ کی رحمت مجسم، محمود و مقصود، اہمیت و اہتمام والے۔ معشوق، مہذب۔

بَرَكَهٌ اللهُ وَدُودٌ مُرَادٌ مَجِيدٌ وَاصِفٌ حَامِدٌ حَافِظٌ مَحْفُوظٌ

اللہ کی مجسم برکت، بہت مودت و محبت والے۔ مراد۔ بزرگ، توصیف کرنے والے، حامد، حافظ، محفوظ

هُدَايَةٌ اللهُ شَافِعٌ خَلِيلٌ دَلِيلٌ ذَاكِرٌ لَطِيفٌ اللهُ عَزِيزٌ أَمِينٌ

اللہ کی ہدایت مجسم، شافع، خلیل، دلیل (راہ خداوند تعالیٰ) صاحب ذکر، اللہ کے منظر لطف، عزیز۔ امین

فَصِيحٌ سَالِكٌ نَاسِكٌ زَائِقٌ صَادِقٌ فَضْلٌ اللهُ مُسْكِينٌ

فصیح سان۔ راہ رو راہ خدا۔ عبادت گزار۔ خوش منظر۔ سراپا صداقت۔ اللہ کے فضل مجسم۔ مسکین

غَرِيبٌ مَّخْدُومٌ مَرْغِيْبٌ غَوْتُ فَقِيْرٌ هَادِيٌّ وَقَايَةٌ اللهُ شَرِيفٌ

و غریب، مخدوم، باران رحمت، مددگار، فقیر اور رہنما، اللہ تعالیٰ کی حفاظت مجسم، سراپا شرافت

ظَرِيفٌ مُؤْمِنٌ مُوَقِّنٌ مُنْعَمٌ مُكْرَمٌ طَبِيبٌ مُطِيبٌ جَوَادٌ مُنْقَادٌ قَامٌ

تیز عقل والے مومن کامل، صاحب یقین، صاحب انعام، مکرم، طبیب (روحانی) بذات خود پاکیزہ اور پاک کئے ہوئے۔ صاحب جود، تابعدار

صَائِمٌ عَابِدٌ حَبِيْبٌ كَامِلٌ بَاذِلٌ مَا ضَّ صَفِيٌّ رَشِيْدٌ نَاصٍ

قائم (لیل) صائم (النہار) عبادت گزار، جیلانی۔ خلیل۔ کامل۔ صاحب قوت چنے ہوئے۔ سیدھی راہ والے۔ جائے پناہ و خلاص

جَلِيلٌ جَمِيلٌ سَعِيدٌ شَجَاعٌ نَقِيبٌ نَجِيبٌ خَاصَةٌ نَاقِبٌ كَامِلٌ

بزرگ، صاحب جمال، سعادت مند، شجاع، نگران، عمدہ، خضوع والے، روشن، مصاحب

وَارِثٌ حَارِثٌ وَارِعٌ يَارِعٌ رَاسِخٌ شَامِخٌ حَفِيٌّ ظَاهِرٌ ظَاهِرٌ مُطِيعٌ

وارث، کھیتی والے، محتاط، صاحب رفعت، علم کامل والے، بلند مقام، شفیق، ظاہر، ظاہر، فرمانبردار

مَنِيعٌ شَاهِدٌ زَاهِدٌ قَائِدٌ بَصِيرٌ مَنِيرٌ سِرَاجٌ تَاجٌ قَارِعٌ قَارِعٌ عَالِمٌ

بلند مرتبت، گواہ، تارک دنیا، رہبر، صاحب بصیرت، روشن کرنے والے، چراغ، تاج، ملک والے

حَارِقٌ سُلْطَانٌ بَرَهَانٌ حَاكِمٌ مُعِينٌ مُبِينٌ مَصْبَاحٌ مَفْتَاخٌ

ماہر، بادشاہ، برہان، حاکم، مددگار، روشن کرنے والے، نورانی، چراغ (ہر شکل کی) چابی

شَاكِرٌ وَاضِعٌ نَاصِحٌ صَافِيٌ نُورَانِيٌّ مَعَانِيٌّ قَنَدِيلٌ نَافِعٌ نَائِبٌ

شکر گزار، توابع والے، مخلص، صاحب وشفاف، نورانی، سراپا صفات کمال، چراغ، نفع دینے والے، نائب

وَصِفَةٌ وَرَقِيٌّ دَكِيلٌ قَرِيبٌ قَوْسٌ كَرَامَةٌ مَعَاذٌ مَحِيٌّ مُشَاهِدٌ

خداوند تعالیٰ صفت مجسم، بچانے والے، کارساز، قریب، قوس، سراپا کرامت، جائے پناہ، زندہ کرنے والے (دین کے) مشاہدہ

مَعَانِيٌّ مَقْرَبٌ حَاكِمٌ رَاحِمَانٌ حَارِثٌ حَسِيبٌ صَفِيٌّ

کرنے والے، سراپا قبولیت معذرت، مقرب، حاکم، آخرت کی کھیتی والے، صاحب حسب و شرف چنے ہوئے

عَارِفٌ نَزَاكِيٌّ حَسَنِيٌّ حَسِينِيٌّ يَاسِيدٌ مَحِيٌّ الدِّينِ اَمْرُ اللّٰهِ يَاشِيْعٌ

صاحب عرفان، پاکیزہ، حسنی و حسین، یاسید، محی الدین اللہ کے امر مجسم، اے شیخ

مَحِيٌّ الدِّينِ فَضْلُ اللّٰهِ يَا اَوْلِيَا مَحِيٌّ الدِّينِ اَمَانُ اللّٰهِ يَا مُسْكِنٌ

محی الدین اللہ کے فضل مجسم، اے محی الدین اولیاء اللہ کی امان مجسم، اے مسکین

مَحِيٌّ الدِّينِ نُورُ اللّٰهِ يَا غَوْثٌ مَحِيٌّ الدِّينِ قُطْبُ اللّٰهِ يَا سُلْطَانٌ

محی الدین اللہ کے نور مجسم، اے غوث محی الدین اللہ کے قطب، اے سلطان

مَحِيٌّ الدِّينِ سَيْفُ اللّٰهِ يَا خَوَاجَهُ مَحِيٌّ الدِّينِ فَرْمَانُ اللّٰهِ يَا مَعْدُومٌ

محی الدین اللہ کی تلوار، اے خواجہ محی الدین اللہ کے فرمان، اے معذور

مَحْيُ الدِّينِ بُرْهَانَ اللَّهِ يَأْدُرُ وَيُشِّمُ مَحْيُ الدِّينِ آيَاتُ اللَّهِ يَا بَادِشَاهُ

محي الدين اللہ کی برہان - اے درویش محی الدین اللہ کی آیات مجسم - اے بادشاہ

مَحْيُ الدِّينِ قُوَّةُ اللَّهِ يَا فَتِيرَ مَحْيُ الدِّينِ مُشَاهِدُ اللَّهِ يَا هَيْكَلُ

محي الدين اللہ کی قوت مجسم - اے فقیر محی الدین اللہ کا مشاہدہ کرنے والے - اے صمدانی

الصَّمدَانِيُّ وَقَنْدِيلُ نُورَانِيٌّ وَصَاحِبُ الإِشَارَاتِ وَالْمَعَانِي يَا شَيْخَ

ہیکل اور مجسمے - نورانی شیخ اور صاحب اشارات و اسرار اور صاحب معانی و حقائق - اے جنوں

الثَّقَلَيْنِ يَا قُطْبَ رَبَّانِيُّ يَا غُوثَ الصَّمدَانِيُّ يَا مَحْبُوبَ السَّبْحَانِي

اور انسانوں کے شیخ - اے قطب ربانی - اے غوث صمدانی - اے محبوب سبحانی

مَحْيُ الدِّينِ أَبَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ أَعْيُنُونِي وَأَمْدُدْنِي

محي الدين ابو محمد سید عبد القادر جیلانی میری مدد فرماؤ اور امداد کرو

فِي قَضَائِ حَاجَتِي يَا رُوحَ الْقُدُسِ يَا جُنُودَ اللَّهِ يَا غُوثَ

میری حاجات کے پورا ہونے میں - اے روح مقدس - اے اللہ کے جنود و عساکر - اے اللہ کے عباد - اے غوث

الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ قُلْتَ إِسْمِي كَأَلِ اسْمِ الْأَعْظَمِ فَإِنِّي تَوَسَّلْتُ

الثقلین - تم نے فرمایا کہ میرا نام اسم اعظم کی مانند ہے تو میں نے وسیلہ پکڑا ہے

بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ فَنَجِّنِي وَأَقْضِ حَاجَتِي بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

آپ کے اسم اعظم کے ساتھ - پس مجھے نجات دیجئے اور میری حاجت روائی فرمائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے

أَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَأَتَّحِفُ وَأَنْعِمُ وَأَمِنْهُ وَ

ساتھ آمین - اے اللہ صلوات و سلام اور تحفہ و انعام اور عطیہ اور

أَكْرَمُ وَأَجْزَلُ وَأَعْظَمُ أَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ وَأَوْفَى سَلَامِكَ

عزت افزائی اور جلیل و عظیم صلوات نازل فرما جو تیری تمام صلوات سے افضل ترین اور سلاموں سے

صَلَاةٌ وَسَلَامًا يَنْزِلَانِ مِنْ أُنْفِقِ كُنْهٍ بَاطِنِ الدَّاتِ إِلَى

کامل ترین صلوات و سلام ہو جو نازل ہوں تیری ذات کی حقیقت باطنہ کے انفق سے

فَلِكِ سَمَاءٍ ظَاهِرِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَيُرْتَقِيَانِ عِنْدَ رَبِّكَ

آسمان اسماء و صفات کے منظر ظاہر کی طرف اور بلند ہونے والے ہوں عارفوں کے

مُنْتَهَى الْعَارِفِينَ إِلَى مَرْكَزِ حَلَالِ التُّورِ الْمُبِينِ عَلَى سَيِّدِنَا

سدرۃ المنتہی کے پاس نور مبین کے مرکز حلال کی طرف سیدنا و مولانا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ عَلِيمِ يَقِينِ الْعُلَمَاءِ

مستد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ علماء ربانیین کے علم یقین

الرَّبَّانِيِّينَ وَعَيْنِ يَقِينِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَحَقِّ يَقِينِ

ہیں اور خلفاء راشدین کا عین یقین اور انبیاء مکرمین کا

الْأَنْبِيَاءِ الْمُكْرَمِينَ الَّذِي تَاهَتْ فِي أَنْوَارِ جَلَالِهِ أُولُو الْعِزْمِ

حق یقین ہیں جن کے انوار جلال میں اولو العزم رسول سرگردان

مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرَاكِ حَقَائِقِهِ عِظَمَاءُ الْمَلَأَكَةِ

ہیں اور جن کے حقائق کے ادراک میں نگران و محافظ عظیم ترین ملائکہ حیران

الْمُهَيَّبِينَ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ

ہیں جن پر قرآن عظیم میں نازل کیا گیا عربی واضح زبان و

مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

بیان میں البتہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر جبکہ ان میں بھیجا عظیم رسول

أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

انہیں میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات اور انہیں پاک کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب

وَأَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حکمت کی اگرچہ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

صَلَاةً ذَاتِكَ عَلَى حَضْرَةِ صِفَاتِكَ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْكِبَالِ

اپنی ذات والا کی صلوات اپنے منظر صفات پر جو ہر کمال کے جامع ہیں

الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ مَنْ تَنَزَّاهُ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ

اور تمام صفات جلال و جمال کے ساتھ موصوف و متصف ہیں، جو کہ منزہ و پاکیزہ ہے مخلوقات کی

فِي الْمِثَالِ وَيَنْبُوعِ الْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ وَحَيْطَةِ الْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ

مماثلت سے۔ معارف ربانیہ کے سرچشمہ اور اسرار الہیہ کے محیط دائرہ

غَايَةِ مُنْتَهَى السَّائِلِينَ وَدَلِيلِ كُلِّ حَائِرٍ مِنَ السَّالِكِينَ مُحَمَّدٍ

سائلین کی غایت و منتہی اور ہر متحیر سالک کی دلیل محمد پر جو

الْمَحْمُودِ بِالْأَوْصَافِ وَالذَّاتِ وَأَحْمَدٍ مَنْ مَضَى وَمَنْ هُوَ

محمودہ ذات اور صفات والے ہیں اور بہت حمد و ثنا کئے ہوئے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کے اور

أَيْ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَ بَدَايَةِ الْأَزَلِ وَغَايَةِ الْأَبَدِ حَتَّى لَا يَحْصُرَهُ

آنے والوں کے اور سلام نازل فرما جو سلام محیط ہوازل کی ابد اور ابد کی انتہاء پر یہاں تک کہ نہ احاطہ کر سکے

عَدَدٌ وَلَا يَنْتَهِيهِ أَمَدٌ وَأَرْضٌ عَنْ تَوَابِعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ وَ

اس کا کوئی عدد اور نہ انتہاء بن سکے اس کی کوئی غایت اور راضی ہو ان کی اتباع کرنے والوں سے شریعت و

الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الطَّرِيقَةِ

طریقت اور حقیقت میں یعنی صحابہ کرام اور علماء اور اہل طریقت سے

وَاجْعَلْنَا يَا مَوْلَانَا مِنْهُمْ حَقِيقَةً آمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور بنا ہمیں اے ہمارے مولیٰ انہیں سے از روئے حقیقت کے آمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَتَحِ أَبْوَابَ حَضْرَتِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیری بارگاہ کے کھلے دروازے ہیں

وَعَيْنِ عِنَايَتِكَ بِخَلْقِكَ وَمَسْئُولِكَ إِلَى جَنَّتِكَ وَإِنْسِكَ وَ

اور مخلوق پر تیری عین عنایت اور جنوں اور انسانوں کی طرف تیرے رسول ہیں

وَحُدَايِي الذَّاتِ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ الْآيَاتُ الْوَاضِحَاتُ وَمُقِيلِ

جو ذات میں یکتا و یگانہ ہیں، جن پر واضح آیات نازل کی گئی ہیں اور لغزشوں سے درگزر

العَثْرَاتِ وَسَيِّدِ السَّادَاتِ مَا حَى الشَّرِكِ وَالضَّلَالِ

کرنے والے۔ سادات کے سردار اور آقا، شرک اور گمراہیوں کو مٹانے والے ہیں

بِالسُّيُوفِ الصَّارِمَاتِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ

تیز دھار تلواروں کے ساتھ۔ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے

الْمُنْكَرَاتِ وَالشَّامِلِ مِنْ شَرَابِ الْمَشَاهِدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

منع کرنے والے ہیں۔ مشاہدات نوات کے شراب سے مدہوش سیدنا محمد

خَيْرِ الْبَرِيَّاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مَنْ لَهُ الْأَخْلَاقُ الرَّضِيَّةُ وَالْأَوْصَافُ الْمَرْضِيَّةُ وَالْأَقْوَالُ

اس نوات پر جو محبوب اخلاق، پسندیدہ اوصاف، شرعی

الشَّرْعِيَّةُ وَالْأَحْوَالُ الْحَقِيقِيَّةُ وَالْعِنَايَاتُ الْأَزَلِيَّةُ وَالسَّعَادَاتُ

اقوال حقیقت والے احوال۔ ازلی عنایات اور ابدی سعادات

الْأَبْدِيَّةُ وَالْفَتْوحَاتُ الْمَكِّيَّةُ وَالظُّهُورَاتُ الْمَدَنِيَّةُ وَالْكَمَالَاتُ

مکی فتوحات۔ مدنی ظہورات و غلبات۔ کمالات اللہیہ

الْإِلَهِيَّةُ وَالْمَعَالِمُ الرَّبَّانِيَّةُ وَسِرُّ الْبَرِيَّةِ وَشَفِيعَنَا يَوْمَ بَعَثْنَا

والے ربانی معالم و امتیازات والے اور ساری مخلوق کے روح رواں اور ہمارے شفیع ہیں بعثت کے دن

الْمُسْتَغْفِرُ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا الدَّاعِي إِلَيْكَ وَالْمُقْتَدَى بِهَلْمِنُ أَرَادَ

استغفار فرمانے والے ہیں ہمارے لیے رب تعالیٰ کے ہاں تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور مقتدا ہیں ہر اس شخص کے جو ارادہ

الْوُصُولَ إِلَيْكَ الْأَيْدِيسُ بِكَ وَالْمُسْتَوْحِشُ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى

کرتے تیری طرف رسائی کا۔ افس حاصل کرنے والے ہیں تجھ سے اور غیر مانوس ہیں تیرے اغیار سے حتی کہ

تَمَّتْ مِنْ نُورِهَا ذَاتُكَ وَرَجَعُ بِكَ لَا بَعِيرِكَ وَشَرَهْدَا وَحُدَاكَ

نفع اندوز ہوئے تیرے نور ذات سے اور لوٹے ساتھ تیرے نہ کہ تیرے غیر کے ساتھ اور مشاہدہ کیا تیری وحدت کا

فِي كَثْرَتِكَ وَقُلْتَ لَهُ بِلِسَانِ حَالِكَ وَقَوَّيْتَهُ بِكَلَامِكَ وَ

کثرت میں اور فرمایا تو نے انہیں ساتھ اپنی زبان حال کے اور قوت بخشی انہیں ساتھ اپنے کلام اور

بِكَمَالِكَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ الذَّاكِرُ

کمال کے۔ پس پوری قوت صرف کرو اس میں جس کا حکم دیا گیا نہیں اور مشرکین سے منہ موڑ لو، جو تیرا ذکر

لَكَ فِي لَيْلِكَ وَالصَّاعَةِ لَكَ فِي نَهَارِكَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ

کرنے والے ہیں رات (کی تنہائیوں) میں اور روزہ رکھنے والے ہیں تیرے لیے دن میں۔ جو معروف ہیں ملائکہ کے

مَلَائِكَتِكَ أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہاں تیری مخلوق سے بہتر و برتر ہونے کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدًا جَمَالِ لُطْفِكَ وَحَنَانِ عَطْفِكَ وَجَلَالِ مُلْكِكَ

و نبینا محمد پر جو تیرے سراسر جمال لطف و کرم اور سراسر التفات عنایت اور جلال ملک

وَكَمَالِ قُدْسِكَ النُّورِ الْمُبْتَلِقِ بِسِرِّ الْمَعِيَةِ الَّتِي لَا يَتَّقِيْدُ

اور کمال مقدس ہیں، نور مطلق ہیں ساتھ اس معیت کے سر باطن کے جو مقید نہیں ہے

فِي الْبَاطِنِ مَعْنَى فِي غَيْبِكَ الظَّاهِرِ حَقَّافِي شَهَادَتِكَ وَشَمْسِ

باطن میں از روئے معنی کے تیرے غیب میں اور ظاہر میں از روئے حقیقت کے تیری شہادت میں اور آفتاب

الْأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَمَجْلَى حَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَنَازِلِ

ہیں اسرار ربانیہ کے اور تجلی گاہ ہیں تجلیات بارگاہ رحمانیہ کے اور محل نزول ہیں پائیدار

الْكِتَابِ الْقَيِّمَةِ وَنُورِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَةِ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ نُورِ ذَاتِكَ

سماوی کتابوں کے اور نور ہیں آیات بینہ کا جنہیں تو نے اپنے نور ذات سے پیدا کیا

وَحَقَّقْتَهُ بِأَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَخَلَقْتَ مِنْ نُورِهِ الْإِنْبِيَاءَ

اور موجود و متصف فرمایا اپنے اسماء و صفات کے ساتھ اور پیدا کیا ان کے نور سے انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ وَتَعَرَّفْتَ إِلَيْهِمْ بِأَخْذِ الْبَيْثَاقِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِكَ

و مرسلین کو اور پہچان کرائی تو نے انہیں آپ کی ان سے عہد و پیمان لے کر ساتھ اپنے اس برحق

الْحَقُّ الْبَيِّنُ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاهُمْ

واضح فرمان کے - اور یاد کر لے محبوب اس وقت کو جب عہد لیا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جب میں دوں تمہیں

كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِيُؤْمِنُوا

کتاب و حکمت پھر آئے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام امور کی جو تمہارے ساتھ ہیں تو ضرور ایمان لاؤ گے

بِهِ وَلِتَصْرَفَهُ ط قَالَ ءَاقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اٰمِرًا

ان کے ساتھ اور ضرور مدد کرو گے ان کی - فرمایا اللہ نے کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے بوجھ کو اٹھایا۔

قَالُوْا اٰقْرَرْنَا قَالٍ فَاَشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا - اللہ نے فرمایا پس تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى بَهْجَةِ الْكِمَالِ وَتَاجِ الْجَلَالِ وَبِهَاءِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کمال کی رونق و بہار - جلال کے تاج، جمال کے

الْجِبَالِ وَشَمْسِ الْوِصَالِ وَعَقَبَةِ الْوُجُوْدِ وَحَيَاتِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ

نور و ضیاء وصال خداوندی کے آفتاب - وجود کی بلند گھاٹی - ہر موجود کی حیات مجسم

وَعِزِّ جَلَالِ سُلْطَنَتِكَ وَجَلَالِ عِزِّ مَمْلَكَتِكَ وَمَلِيْكَ صُنْعِ قُدْرَتِكَ

اور تیرے جلال سلطنت کی عزت اور تیری مملکت کے جلال عزت اور تیری قدرت کی صنعت کے بادشاہ

وَطِرَائِزِ صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنْ اَهْلِ صَفْوَتِكَ وَخِلَاصَةِ الْخِلَاصَةِ

اور خاص ان خاص اہل اخلاص کی زینت و آلائش اور اہل قربت خواص کے

مِنْ اَهْلِ قُرْبِكَ وَسِرِّ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ وَحَيْبِ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ

خلاصہ - اللہ کے عظیم ترین راز - اللہ کے حیب اکرم اور

خَلِيْلِ اللّٰهِ الْمَعْظَمِ الْمُبَكَّرِمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

اللہ کے معظم و مکرّم خلیل و سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى الْجَامِعِ الْاَكْمَلِ وَالْقَاطِبِ

علیہ و سلم - اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما جامع اکمل اور قطب افضل

الرَّبَّانِي الْأَفْضَلِ طِرَازِ حُلَّةِ الْإِيمَانِ وَمَعْدِنِ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ

ربانی پر جو خلعت ایمانی کا نقش و نگار اور جود و احسان کی معدن و کان ہے

صَاحِبِ الْهَيْمِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آسمانی ہمتوں اور بلند عزائم کے مالک اور علوم لدنیہ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُودَ لِأَجْلِهِ وَرَخَّصْتَ الْأَشْيَاءَ بِسَبَبِهِ

سلام نازل فرما ان پر جن کے لیے تو نے وجود کو پیدا کیا اور مباح و منحصر فرمایا اشیاء کو ان کے سبب

مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ صَاحِبِ الْمَكَارِمِ وَالْجُودِ وَعَلَى آلِهِ وَ

یعنی محمد پر جو بزرگیوں اور جود و نوال کے مالک ہیں اور آپ کی آل اور

أَصْحَابِهِ الْأَقْطَابِ السَّابِقِينَ إِلَى جَنَابِ ذَلِكَ الْجَنَابِ

اصحاب پر جو اقطاب (زمان) ہیں اور اس بارگاہ والا کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّوْرِ الْبَهِيِّ وَالْبَيَانِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو روشن نور اور واضح و جلی بیان

الْجَلِيِّ وَاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَالِدَيْنِ الْحَنَفِيِّ رَحْمَةً لِلْعُلَمَاءِ

مجم اور سان عربی اور دین حنیف۔ سراپا رحمت عالمیان ہیں

الْمُؤَيَّدِ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ

جن کو تائید و تقویت دی گئی ہے روح امین اور کتاب مبین کے ساتھ اور آخر الزمان نبی

وَرَحْمَةً لِلْعُلَمَاءِ وَالْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور تمام خلائق اور تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ نُورِكَ وَجَعَلْتَ كَلَامَهُ مِنْ

سلام نازل فرما ان پر جنہیں تو نے اپنے مخصوص نور سے پیدا فرمایا اور ان کے کلام کو اپنے

كَلَامِكَ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ وَجَعَلْتَ

کلام سے بنایا اور انہیں اپنے تمام انبیاء اور اولیاء پر فضیلت دی اور کیا تو نے

السَّعَايَةِ مِنْكَ إِلَيْهِ وَمِنْهُ إِلَيْهِمْ وَكَمَالِ كُلِّ وَرِيٍّ لَكَ

اپنی طرف سے سعی اور عمل کو ان کے لیے اور ان سے خلائق کی طرف اور ان پر جو مجسم کمال ہیں تیرے ہر ولی کا اور

هَادِي كُلِّ مُضِلٍّ عَنْكَ وَهَادِي الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَتَبَارَكَ

ہادی ہیں تجھ سے پھٹکے ہوئے ہر شخص کے اور ہادی ہیں تمام مخلوق کے طرف تیری اور ترک کرنے والے

الْأَشْيَاءِ لِأَجْلِكَ وَمَعْدِنِ الْخَيْرَاتِ بِفَضْلِكَ وَخَاطِبُكَ

اشیاء کے تیری خاطر اور خیرات کے سرچشمہ ہیں تیرے فضل سے اور تو نے انہیں خطاب فرمایا

عَلَى بَسَاطِ قُرْبِكَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا أَتَقَابِعُ لَكَ

اپنے بساط قرب پر اور تھا اللہ کا فضل آپ پر احاطہ خلائق سے ماوراء، جو قیام کرنے والے ہیں تیرے لیے

فِي لَيْلِكَ وَالصَّائِعِ لَكَ فِي نَهَارِكَ وَالْهَامِّ بِكَ فِي جَلَالِكَ

راتوں میں اور روزے رکھنے والے ہیں دنوں میں اور عزم و ہمت رکھتے ہیں ساتھ تیرے، تیرے جلال میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ الْخَلِيفَةِ فِي خَلِيفَتِكَ الْمُسْتَعْلَمِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اپنے نبی مکرم پر جو تیرے نائب مطلق ہیں تیری تمام مخلوق میں، مشغول ہیں

بِذِكْرِكَ الْمُتَّفَكِّرِ فِي خَلْقِكَ وَالْأَمِينِ لِسِرِّكَ وَالْبُرْهَانَ

تیرے ذکر کے ساتھ تفکر کرنے والے ہیں تیری مخلوقات میں اور امین ہیں تیرے اسرار کے اور برہان و دلیل قطعی

لِرُسُلِكَ الْحَاضِرِ فِي سَرَائِرِ قُدْسِكَ وَالْمُشَاهِدِ لِجَمَالِكَ

ہیں تیرے رسولوں کے لیے، حاضر ہونے والے ہیں تیری بارگاہ قدس کے بواطن میں اور مشاہدہ کرنے والے ہیں

جَلَالِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمَفْسَّرِ لآيَاتِكَ وَالظَّاهِرِ

تیرے جلال کے جمال کا یعنی سیدنا و مولانا محمد پر جو تفسیر کرنے والے ہیں تیری آیات کی اور ظاہر و نمایاں

فِي مُلْكِكَ وَالْغَائِبِ فِي مَلَكُوتِكَ وَالْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ

ہیں تیرے ملک ظاہر میں اور غائب و مخفی ہیں تیرے ملک روحانی و نورانی میں اور منصف ہیں تیری صفات کے

وَالدَّاعِي إِلَى جَبْرُوتِ الْحَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالْبُرْدَةِ الْجَلَالِيَّةِ

ساتھ اور بلانے والے ہیں بارگاہ رحمانیہ کے جبروت و تنزیہ کی طرف اور جلالی چادر پر

وَالسَّرَائِلَ الْجَمَالِيَّةَ وَالْعَرْشَ السَّقِيَّ وَالْحَبِيبَ النَّبِيَّ وَالنُّورَ

اور جمالی کرنے پر اور فرمہ دار بارشس والے عرش پر اور حبیب نبی اور روشن نور

الْبَهِيَّ وَالذُّرَّ النَّقِيَّ وَالْمُصْبِحَ الْقَوِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

پاکیزہ موتی اور گوہر اور مضبوط چرخ نور پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر جیسے کہ رحمت نازل کی حضرت ابراہیم اور آل

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

ابراہیم پر بے شک تو لائق ستائش بزرگی والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ بِحِرَانُورِكَ وَمَعْدَنَ اسْرَارِكَ

ہمارے آقا اور نبی محمد پر جو تیرے انوار کے سمندر اور تیرے اسرار کی معدن و کن

وَرُوحَ اسْرَاحِ عِبَادِكَ وَالذُّرَّةَ الْفَاخِرَةَ وَالرَّحْمَةَ

تیرے بندوں کی روحوں کی روح رواں۔ قابل فخر موتی و جوہر اور رحمت

السَّابِقَةَ وَالْعَبَقَةَ النَّافِحَةَ وَبُؤْبُوءَ الْمَوْجُودَاتِ

رحمت خداوندی ممکنے والی خوشبو اور موجودات کے بطن اور حلقہ

وَحَاءَ الرَّحِمَاتِ وَجِيمِ الدَّرَجَاتِ وَسِينِ السَّعَادَاتِ

رحمتوں کی حواء اور درجات کی جیم، سعادت کی سین

وَنُورِ الْعِنَايَاتِ وَكِمَالِ الْكَلِيَّاتِ وَمَنْشَأِ الْأَزْلِيَّاتِ

اور عنایات کے نور، کلیات کے کمال اور ازلی امور کے منشاء و منب

وَحَتْمِ الْأَبْدِيَّاتِ الْمَشْغُولِ بِكَ عَنِ الدُّنْيَوِيَّاتِ الطَّاعِمِ

ابدی اشیاء کی انتہاء، مشغول و مستغرق ہونے والے تیری ذات میں دنیوی امور سے منہ موڑتے ہوئے، کھانے والے

ثَمَرَاتِ الْمَشَاهِدَاتِ الْمُسْقِيَّ مِنْ أَسْرَاتِ الْقُدْسِيَّاتِ

مشاہدات کے ثمرات کو اور سیراب کئے جانے والے ہیں مقدس خانوادوں کے شیر

العالم بالماضي والمستقبلات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

جاننے والے ہیں ماضی اور مستقبل کے امور کو یعنی سیدنا و مولانا محمد پر اور آپ کی اعلیٰ

الأخيار وأصحابه الأبرار اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد

کردار آل اور محسن و نیکوکار اصحاب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الذي أعطيتك وفضلته وكرمتك ونصرتك وأعدتة وقربتك

جنہیں تو نے عطا کیا (بے حساب) اور فضیلت و کرامت دی اور نصرت و اعانت فرمائی اور مقرب فرمایا

وأدنىته وسقيته ومكنته وملأته بعلمك الأنفس وبسطتك

اور نزدیک بنی بختی اور انہیں پلایا اپنے شربت دیدار سے، اور عزیز و تمکین بخشی اور اپنے نفیس ترین علم سے مہور فرمایا اور انہیں

بحبك الأطوس وترينته بقولك الإقبس فخر الأفلاك و

وسعت بخشی اپنی آراستہ محبت کے ساتھ اور مزین فرمایا اپنے نورانی قول کے ساتھ۔ جو فخر افلاک ہیں اور

عذاب خلق الأخلاق ونورك المبين وعبدك القديم و

شیریں خلق والے ہیں جملہ اخلاق سے اور تیرے نور مبین، اور عبد قدیم و اولین ہیں اور

حكلك المبتين وحصنك الحصين وجلالك الحكيم وجمالك

تیری ذات تک پہنچانے والا مضبوط وسیلہ اور تیرے (عطا کردہ) مضبوط قلعہ اور تیرے حکمت والے جلال اور

الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله

تیرے بزرگتر جمال ہیں۔ سیدنا و مولانا محمد صلوٰۃ ہو اللہ تعالیٰ کی ان پر اور سلام اور ان کی آل اور

أصحابه مصابيح الهدى وقناديل الوجود وأهل الشهود وكمال

اصحاب پر جو ہدایت کے روشن چراغ اور وجود کی قندیلیں اور شمعیں ہیں اور ارباب شہود اور کامل

السعود المطهرين من العيوب اللهم حققنا بسر آبرهم في

سعادتوں والے جو عیوب سے پاک اور منزہ ہیں۔ اے اللہ ہمیں موجود و محقق فرما بطفیل ان کے اسرار باطنہ

مدارج معارفهم بثوبه الذين سبقت لهم منكم

کے ان کے معارف کے مدارج میں بسبب ثواب و جزاء ان لوگوں کے جن کے لیے تیری طرف سے نیلی اور خوبتر جزاء

الْحُسْنَىٰ وَإِلَٰهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَوْزَ بِالسَّعَادَةِ

سبقت لے جا چکی اور آل محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور موجود فرما ہیں ساتھ سعادت کبریٰ کی

الْكُبْرَىٰ بِمَوَدَّتِهِ الْقُرْبَىٰ وَأَعْمَانَا فِي عِزَّةِ الْمَصْمُودِ فِي مَقَامِهِ

کامیابی کے بطفیل ان کے اقرباء کی مودت و محبت کے اور ہمیں پیراک بنا ان مرجع الخلائق عزت کے (سمندر میں) ان کے

الْمَحْمُودِ وَتَحْتَ لَوَائِهِ الْمَعْقُودِ وَأَسْقِنَا مِنْ حَوْضِ عِرْفَانَ

مقام محمود میں اور ان کے لہراتے پرچم حمد کے نیچے اور پلا ہمیں ان کے عرفان و معرفت کے

مَعْرِفَتِهِ الْمَوْرُودِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

حوض سے جس پر سب امت وارد ہونے والی ہے جس دن نہیں شرمندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ و

سَلَّمَ بِرُؤْيَا إِشَارَةٍ قُلْتُ سَمِعْتُ وَسَلُّوا تَعَطُّوا وَأَشْفَعُ تَشْفَعُ

سلم کو بسبب ظاہر ہونے تیرے اس فرمان کے۔ تم کہو سنا جائے گا قول تمہارا۔ مانگو دے جاؤ گے اور شفاعت کرو قبول کئے جاؤ گے

بِظُهُورِ بَشَارَةٍ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا

بسبب ظاہر ہونے اس بشارت کے اور ضرور دے گا تمہیں تمہارا رب پس تم راضی ہو جاؤ گے۔ بابرکت ہے تو لے ہمارے

وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نَسْأَلُكَ أَنْ تُلْحِقَنَا بِهِمْ وَ

رب اور بلند شان ہے تو لے جلال و اکرام والے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان سے لاحق فرما اور

تَمْنَحْنَا بِحَبِيبِهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

ہیں عطیہ دے ان کی محبت کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے بطفیل

تَدَارِبَهَا أَرْزَاقَنَا وَتُوسِّعُ بِهَا أَشْوَاقَنَا وَتُرْزُقُنِي بِهَا عِبَالَنَا وَ

تو جاری رکھے ہماری روزیوں کو اور وسیع فرمائے بطفیل اس کے ہمارے شوق کو اور پاکیزہ فرمائے ہمارے اعمال کو اور

تَغْفِرْ بِهَا ذُنُوبَنَا وَتُنِزِّهْ بِهَا خَوَاطِرَنَا وَأَفْكَارَنَا اللَّهُمَّ اعْطِنَا

بخش دے ہمارے گناہوں کو اور منزہ فرمائے ہمارے خیالات اور افکار کو۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما

وَهَبْ لَنَا مَعْرِفَةَ نَافِعَةٍ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور بخش نفع دینے والی معرفت۔ بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ صلوات

عَلَىٰ صَلَوَاتِكَ

عطا فرما

وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَامِعِ بِحَسَبِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اپنی حقیقت کے ساتھ جامع ہیں

لِجَمِيعِ الْحَقَائِقِ وَبِرُوحِهِ لِجَمِيعِ الْأَرْوَاحِ وَبِشَرِيعَتِهِ لِجَمِيعِ

تمام حقائق کے اور اپنے روح کے ذریعے تمام ارواح کے اور اپنی شریعت کے ساتھ تمام

الشَّرَائِعِ وَبِنُبُوَّتِهِ لِجَمِيعِ النَّبِيِّاتِ وَبِوَلَايَتِهِ لِجَمِيعِ الْوَلَايَاتِ

شریعتوں کے اور اپنی نبوت کے ساتھ تمام نبوتوں کے اور اپنی ولایت کے ساتھ تمام ولایات کے

وَبِقَلْبِهِ لِجَمِيعِ الْقُلُوبِ أَشْرَفَ الْخَلَائِقِ وَشَمْسَ الطَّرَائِقِ وَنُورَ

اور اپنے قلب اور کے ساتھ تمام قلوب کے، جو سب مخلوقات سے شریف ترین اور آفتاب ہیں تمام طریقوں کے اور ایسے نور

يَهْتَدَى بِهِ إِلَى الْحَقِّ وَظِلِّ لَدَا وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ النُّورِ

ہیں کہ ان کے ساتھ ہدایت حاصل کی جاتی ہے طرف حق کے اور ایسے سایہ ہیں کہ نہیں واسطہ درمیان ان کے اور نور

الْمُطْلَقِ أَصْلِ الْأَصُولِ الْمُنْزَهَةِ عَنِ الْإِتِّحَادِ وَالْحُلُولِ الظَّاهِرِ

مطلق کے، جو تمام اصولوں کی اصل ہیں اور منزہ ہیں (دوسروں کے ساتھ) اتحاد اور ان میں حلول سے ظاہر و نمایاں ہیں

بِنُورِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ط الْبَاطِنِ بِكُنْهِهِ عَنْ دُرَاكِ

اپنے نور کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ جو باطن و مخفی ہیں اپنی کنہ و حقیقت کی رو سے

الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ السَّيِّدِ الَّذِي بِحَقِيقَتِهِ وَاسِطَةُ الْوُجُودِ

اولین و آخرین کے ادراک سے۔ جو ایسے آقا و سرور ہیں کہ اپنی حقیقت کے ذریعے واسطہ ہیں وجود

وَالشُّهُودِ بَيْنَ الذَّاتِ وَسَائِرِ الْحَقَائِقِ وَبِصُورَتِهِ الْمَطْهَرَةِ

اور شہود میں ذات حق اور تمام حقائق کے درمیان اور اپنی صورت ظاہرہ کے ذریعے

غَايَةَ تَوَجُّهِ الْخَالِقِ وَعِنَايَتِهِ إِلَى الْخَلَائِقِ الْمَحْمُودِ فِي الْمَلَكُوتِ

خالق کی غایت توجہ اور عنایت ہیں مخلوقات کی طرف۔ جو حمد کئے ہوئے ہیں عالم روحانیت و غیب اور

وَالنَّاسُوتِ وَالْمَشْهُودِ فِي الْجَبَرُوتِ وَاللَّاهُوتِ الْمُبِينِ

عالم اجسام میں اور مشاہدہ کئے ہوئے ہیں صفات سلبیہ اور جلالیہ اور روحانیت و تجرود میں۔ ایسے ظاہر کہ

الَّذِي هُوَ بَدْرٌ لِيَالِي التَّعِينَاتِ وَشَمْسٌ كُرَاتِ التَّنْزِلَاتِ

جو چودھویں کے چاند ہیں تعینات و شخصیات کی تاریکیوں کے لیے اور تنزلات و تقیدات کے کرہ جات کے لیے

الْكَامِلِ الَّذِي كَمِلَتْ بِهِ الْإِنْسَانِيَّةُ وَالظَّاهِرِ الَّذِي ظَهَرَتْ

مہر نیروز ہیں ایسے کامل کہ ان سے انسانیت کمال پذیر ہے اور ایسے ظاہر کہ ان کے ذریعے صفت رحمانیت

بِهِ الرَّحْمَانِيَّةُ لَوْلَا نَزْوُلُهُ لَمَا تَعَدَّدَ الْوَاحِدُ وَلَوْلَا عُرُوجُهُ لَمَا

کا ظہور ہے، اگر ان کا نزول نہ ہوتا تو وحدت تعدد اور کثرت میں نہ ٹوھلتی اور اگر ان کا عروج نہ ہوتا تو کثرت

الْوَاحِدِ الْمُتَعَدَّدِ الْوَاحِدِ حَقِيقَتُهُ وَالْمُتَعَدَّدِ صَوْرَتُهُ أَدَمُ وَفِي بَعْدِهِ

وحدت میں نہ بدلتی۔ واحد و یکتا ہے حقیقت ان کی اور متعدد و کثیر ہیں صورتیں ان کی، حضرت آدم اور بعد والے انبیاء

نَوَائِبِهِ وَصُورِ جَلَالِهِ وَجِبْرِيلُ وَمَنْ تَحْتَهُ أَتْبَاعُهُ وَشُعَاعَاتُ

علیہم السلام ان کے نائب اور خلفاء ہیں اور ان کے جلال کی صورتیں اور جبریل اور ان کے ماتحت ان کے تابعدار ہیں اور

شَمْسٍ جَمَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَهُ وَخَلَقَهُ

ان کے آفتاب جمال کی شغائیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں بنایا اور پیدا کیا

عَلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْحَقَّانِيَّةِ وَصَوْرَةَ وَقَدَارَةَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ الْإِلَهِيَّةِ

اس حقانی حقیقت پر اور ان کی تصویر بنائی اور انہیں ڈھالا اس ربانی اور الٰہی ہیئت و

الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیفیت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

أَوَّلِ الْأَوَائِلِ وَآخِرِ الْأَوَاخِرِ وَبَاطِنِ الْبَوَاطِنِ وَظَاهِرِ الظُّوَاهِرِ

جو کہ اوائل سے بھی اول اور سب آخر اول سے بھی آخر ہیں اور سب باطن و مخفی اشیاء سے مخفی تر اور سب اہل ظہور و نمود ظاہر تر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آسمان

سَمَاءِ الْأَصْطِفَاءِ وَنُورِ سِرَاجِ الْإِجْتِبَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اصطفاء کے آفتاب جہانتاب اور اجتناب و آفتاب خداوندی کے چراغ کا نور و ضیاء۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ ظِلُّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اللہ کا سایہ

تَعَالَى وَالْأَنْبِيَاءُ ظِلَالُ نُبُوَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور پر تو کمال و جمال ہیں اور انبیاء ان کی نبوت کا عکس و پرتو ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ الْوَاحِبِ وَكُلِّ شَيْءٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب پہلا شاہکار قدرت اور واجب (بالغیر) ہیں ان کے علاوہ

سِوَاكَ ظِلُّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر شئی ان کا عکس اور پرتو ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَعْرِفَةُ رَأْسَ مَالِهِ وَالطَّاعَةُ غَايَةَ

پر جس محبوب کے لیے معرفت الہی ہی رأس مال اور اصل سرمایہ اور اس کی اطاعت ہی

أَمَالِهِ وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِهِ وَالتَّفَكُّرُ ضِيَاءَ يَقِينِهِ وَالْحَبْلُ

انتہائی آرزو و تمنا اور عقل اصل دین اور تفکر ضیاء یقین اور حب الہی

أَسَاسُهُ وَالتَّقْوَى لِبَاسُهُ وَالتَّشَوُّقُ مَرْكَبُهُ وَالتَّوَهُدُ مَكْسَبُهُ

ان کی اساس و بنیاد اور تقویٰ ان کا لباس اور شوق ان کی سواری اور زہد ان کی کمائی

وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أُنَيْسُهُ وَالْحُزْنُ جَلِيْسُهُ وَالصَّبْرُ رِجْلُهُ

اور ذکر الہی ان کا مونس اور حزن اور غم (مخلوق) ان کا ہم نشین اور صبر ان کی چادر

وَالتَّوَكُّلُ كِسَاءُهُ وَالرِّضَاءُ دُرَّةُ تَاجِهِ وَالْيَقِينُ نُورُ سِرِّهِ

اور توکل ان کا کبیل اور رضا ان کے تاج کا موتی اور گوہر اور یقین ان کے چراغ کا نور

وَالْخَشْيَةُ ثَمَرَةُ فُؤَادِهِ وَالتَّوَقُّرُ زَادُ مَعَادِهِ وَالْفَقْرُ

اور خوف الہی ان کے دل کا ثمر اور پھل اور صدق ان کا زادِ آخرت اور فقر ان کا سرمایہِ محشر

عَلَى أَقْرَانِهِ وَالْعِجْرُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى رَوْحُ

اپنے ہمزمانوں پر اور بارگاہ الہی کی طرف افتقار و احتیاج ان کے باغ کی رونق و بہار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدَارِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب

لَيَالِي التَّعِينَاتِ وَشَسِيسِ كُرَاتِ التَّنَزُّلَاتِ الْكَامِلِ الَّذِي

تعینات و تشخصات کی تاریک راتوں کیلئے ماہ تمام ہیں اور تنزلات و تقیدات کے کرہ جات کیلئے آفتاب جہاں تاب ہیں جو

كَمَلَتْ بِهِ الْإِنْسَانِيَّةُ وَظَهَرَتْ بِهِ الرَّحْمَانِيَّةُ أَشْرَفِ الْمَبْدَعَاتِ

ایسے کامل کر انسانیت ان سے کمال پذیر اور صفت رحمانیت ان کے ذریعے ظہور پذیر جو سب ایجادات سے اشرف

وَأَفْضَلِ الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سب مخلوقات سے افضل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْوَارِ الْمَجَالِي وَأَصْفَى الْمَظَاهِرِ النُّورِ

اور آل محمد پر جو تمام جلوہ گاہوں کے انوار اور صاف ترین مظہر نور ہیں

النُّورِ الْإِلَهِيِّ الْقُدُّوسِيِّ الْمَتَجَلِّي فِي الصُّورَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَالسِّرِّ

مقدس نور الہی ہیں جو جلوہ گر ہونے والے ہیں صورت بشریہ میں اور ذات باری

الْمُبْهَمِ الذَّاتِي الظَّاهِرِ فِي الْهَيْئَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ هُوَ رُوحٌ كُلِّيٌّ وَجَبِيْعٌ

کا راز مخفی ہیں جو ظہور پذیر ہوئے انسانی ہیئت میں، وہ کلی روح ہیں اور تمام روحیں ان

الْأَرْوَاحِ شُعَاعَاتُهُ وَعَقْلٌ كُلِّيٌّ وَسَائِرُ الْعُقُولِ أَجْزَاءُ

کی شعاعیں ہیں اور وہ عقل کلی ہیں اور تمام عقول ان کے اجزاء اور

جُزْئِيَّاتُهُ وَكُلُّ مَا ظَهَرَ فِي الْوُجُودِ فَهُوَ وَصْفٌ مِّنْ أَوْصَافِهِ

جزئیات ہیں اور جو کچھ ظاہر ہوا وجود میں پس وہ ان کے اوصاف میں سے ایک وصف (کا مظہر) ہے

وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْكُوْنِ فَهُوَ نَعْتٌ مِّنْ نَّعَوْتِهِ أَوْلِيَاءُ

اور جو بھی داخل ہوا کون و وجود میں تو وہ نعت ہے ان کی نعتوں سے تمام اولیاء

أَنْثَارُ وَوَلَايَتِهِ وَالْمَلَائِكَةُ أَمْوَاجٌ بِحَرْخُلُقِهِ الْعَظِيمِ وَهُوَ الْبَحْرُ

ان کی ولایت کے آثار ہیں اور تمام ملائکہ ان کے خلق عظیم کے سمندر کی امواج ہیں اور وہی سمندر

المَوَاجِرُ الدُّخَارُ وَهُوَ مَعْدَنُ الْجَوَاهِرِ الْمَوْجُودَاتِ الْهَبْلُ الْكَبِيرُ

موجزن بحر دُخار ہیں اور وہی معدن دکان ہیں ملکوتی و روحانی اور ناسوتی و جسمانی

وَالنَّاسُوتِيَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ مَحْبُوبِ الْمَقْدَسِ

موجودات کے جواہر۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما اپنے محبوب مقدس

وَالْحَبِيبِ الْفَرْدِ الدَّائِي وَالنَّعْتِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور یکتا حبیب پر جو محمد و خلق و خالق ہیں از روئے ذات اور صفات کے صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مُظَهَّرِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمِرَاةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَوَحِيدِ الْفَرِيدِ السُّفَرِيَّةِ

جو تیری صفت رحمانیت کے مظہر اور صفت ربوبیت کے آئینہ ہیں اور یکتا جوہر

فِي مَقَامِ الْفَرْدَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں جو مقام فردانیت میں منفرد و ممتاز ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْمَلِ الْوَسَائِلِ وَأَعِزِّ الدَّرَاجِعِ فِي

اور آپ کی آل اطہار پر جو کامل ترین و سید اور عزیز ترین ذریعہ ہیں میرے لیے تیری بارگاہ وال

حَضْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تک رسائی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدِ الَّذِي فَخْرُ آدَمَ وَمَنْ دُونَهُ وَبِحُرِّ الْوَلَايَةِ الَّذِي عَسَىٰ

آل پر جو کہ سرمایہ فخر ہیں حضرت آدم اور ان کے ماسوا کے لیے اور ولایت کے سمندر ہیں کہ عسیٰ علیہ السلام

مِنْ جَدِّ أَوْلِيهِ وَطُورِ النَّبِيِّ الَّذِي مُوسَىٰ مِنْ جَوَانِبِهِ اللَّهُمَّ

اس کی نہروں میں سے ایک نہر ہیں اور نبوت کے کوہ طور ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی جانبوں میں سے ایک جانب ہیں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو عین مقصود

وَالْحَامِدِ الْمَحْمُودِ وَشَاهِدِ الْمَشْهُودِ وَالْوَاحِدِ الْمَوْجُودِ وَنُقْطَةِ

اور حامد (مولیٰ) اور محمود (خلائق و خالق) اور گواہ (انبیاء و امام کے لیے) اور ان کی طرف سے گواہی دئے ہوئے ہیں۔ صاحب دست اور وجود

دَائِرَةِ الشُّهُودِ وَالْوُجُودِ وَقَبْلَهُ كُلُّ مَعْدُومٍ وَمُمْكِنٌ وَمَوْجُودٌ

ہیں اور مرکزی نقطہ ہیں شہود و وجود کے دائرہ کے اور قبیلہ ہیں ہر معدوم اور ممکن و موجود کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْحَقِيقَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْحَقَائِقِ وَالْأَعْيَانِ وَالنُّقْطَةِ

جو کہ مجسم حقیقت مقدسہ ہیں جو تمام حقائق اور موجودات خارجیہ کو محیط ہے اور بسیط

الْبَسِيطَةِ الْمُتَمِّمَةِ لِمَنَازِلِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَحُبِّهِ حَقِيقَةُ

نقطے ہیں جو تکمیل و تمہیم کرنے والے ہیں ایمان و احسان کے منازل کی، ان کی محبت ایمان کی روح و

الْإِيمَانِ وَحُضُورَهُ كَمَالُ الْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حقیقت ہے اور ان کا حضور و شہود کمال احسان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَنِيِّ عَنِ تَوْصِيْفِنَا وَالْمُسْتَعْنِي عَنِ

محمد و آل محمد پر جو مستغنی ہیں ہماری تعریف و توصیف سے اور بے نیاز ہیں ہماری

تَكْرِيمِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ وَيَا مُجْرِي الْفُلْكِ بِحَقِّكَ

تغظیم و تکریم سے۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اے مالک ملک اور جاری کرنے والے کشتیوں کے بطفیل

عَلَيْكَ وَبِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ لَدَيْكَ وَبِعَزِيْزِ جَنَابِكَ وَ

تیرے حق کے اور بطفیل حق حرمت تیرے انبیاء و اصفیاء اور اپنے مقربین کے اور تیری عزت والی بارگاہ اور

وَالْمُقَرَّبِينَ لَدَيْكَ وَرَفِيعِ جَبَابِكَ وَبِالْوَهِيَّتِكَ وَوَحْدَانِيَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَ

بلند تر حجاب کے اور بطفیل تیری الوہیت و وحدانیت اور شان قدیمی اور

قُدْرَتِكَ وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَبِنُورِكَ الْأَسْنَى وَبِذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ وَصِفَاتِكَ

قدرت کے اور بطفیل تیرے اسماء و حسنیٰ اور نور انور و روشن تر کے اور بطفیل تیری ذات عالیہ اور صفات

الْمَرْضِيَّةُ وَبِصَافِي وَدَادِكَ لِخُلُصِ عِبَادِكَ وَبِسِرِّكَ الْمَخْرُوجِ

مرضیہ و پسندیدہ کے اور بطفیل تیری خالص محبت و مودت کے ساتھ اپنے مخلص عباد کے اور بطفیل تیرے راز مخفی اور

بِعِلْمِكَ الْمَكْنُونِ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَبِكَلِمَاتِكَ الْبَطْلَسِمِ أَنْ تُحَقِّقَنِي

پوشیدہ علم کے اور بطفیل تیرے اسم اعظم اور احدیت والے طلسمی خزانہ کے کہ مجھے متحقق و پابند بنا دے

بِمُشَاهَدَةِ قُرْبِكَ وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ خُدَّامِ حَضْرَتِكَ وَمِنْ حِزْبِكَ وَأَنْ

اپنے مشاہدہ قرب کے ساتھ اور بنا دے مجھے اپنی بارگاہ کے خدام سے اور اپنی جماعت خاص سے اور مجھے

تَهَيِّمَنِي بِمَحَبَّتِكَ وَأَنْ تُكْرِمَنِي بِمَعْرِفَتِكَ وَأَنْ تُسَعِدَنِي بِمُشَاهَدَتِكَ

سیراب فرمائے اپنی محبت کے ساتھ اور عزت بخشے اپنی معرفت کے ساتھ اور نیک بخت فرمائے اپنے مشاہدہ کے ساتھ

وَأَنْ تُزَيِّنَنِي بِحُلِيَّةِ طَاعَتِكَ وَأَنْ تُبَاعِدَ بَيْنِي وَمَعْصِيَتِكَ وَأَنْ

اور مجھے مزین فرمائے اپنی اطاعت کے زیور سے اور دوری پیدا فرمائے میرے اور اپنی معصیت کے درمیان

تُحِبِّبَنِي عَنْهَا حَتَّى لَا تَجِدَ إِلَيَّ سَبِيلًا بِفَضْلِكَ وَمَعُونَتِكَ وَأَنْ تُقَابِلَ

اور مجھے اس سے باز رکھے اپنے فضل اور اعانت سے حتی کہ وہ میری طرف راہ بھی نہ پاسکے اور میری

هَفَوَاتِي بِمَغْفِرَتِكَ وَأَنْ تُسْقِيَنِي بِكَأْسِ مَوَدَّتِكَ وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي

لغزشوں کے مقابل مغفرت عطا کرے اور مجھے پلائے اپنی مودت کے جام سے اور مجھے داخل کرے اپنی

حِمَايَتِكَ وَعِزَّتِكَ وَأَنْ تُحِبِّبَنِي عَنِ الْأَعْدَاءِ بِرَهْبُوتِ سَطْوَتِكَ وَ

حمایت اور پناہ عزت میں اور مجھے محفوظ رکھے دشمنوں سے اپنی ہیبت ناک سطوت کے ساتھ اور

أَنْ تُكْشِفَ لِي عَنْ حَظَائِرِ النُّورِ وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ وَأَنْ

میرے لیے منکشف فرمائے نور کے محفوظ مقامات اور مجھے اہل حضور سے بنا دے اور

تُرْفَعُ عَنْ عَيْنِ بَصِيرَتِي الْبَرِاقَةِ وَالسُّورِ وَأَنْ تُسْتَعْرِقَنِي بِكَ عَنْ

اٹھاوے میری چشم قلب پر سے تمام حجابات اور پردے اور مجھے مستغرق فرماوے اپنی ذات میں دیگر

الْإِحْسَاسِ وَالشُّعُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

بر احساس اور شعور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَوْ شَانُهُ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِاسْمٍ وَلَا يُكْشَفُ عَنْهُ

کی آل پر جس محبوب کے علو شان کی طرف کسی اسم کے ساتھ اشارہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ کسی حد و تعریف سے اس کا

بِحَدٍّ وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يُدْرِكَ كُنْهَ وَصِفَهُ مُكْتَنِيَةً أَوْ يَكْتَنِيَهُ دَقِيقَةً نَعْتِهِ

انکشاف ہو سکتا ہے اور ممکن نہیں کہ ان کے کسی وصف کی حقیقت کو پاس کے حقائق کا اور اک کرنے والا بیان کی نعت کی باریکی کو سمجھ سکے

اللَّهُمَّ الْحَقُّ بِنَسَبِهِ وَحَقِّقَتِي بِحَسَبِهِ وَعَرَّفَنِي آيَاتَهُ مَعْرِفَةً أَسْلَمَ بِهَا

اے اللہ مجھے لائق فرما ان کے نسب کے ساتھ اور ثابت فرما ان کے حسب اور خاندانی شرف کے ساتھ اور مجھے ان کی ایسی پہچان کرا

مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ وَالْكَرْبِ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ وَاحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ إِلَى

وے کہ محفوظ رہوں اس کی بدولت جہالت میں پڑنے والے مقامات سے اور پیوں میں بسبب اس کے فضل و شرف کے گھاٹوں سے اور مجھے آمادہ فرما ان کی

خَضْرَتِكَ حَيْلًا مَحْفُوفًا بِنَصْرَتِكَ وَاقْذِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمِغُهُ

راہ پر چلتے ہوئے اپنی بارگاہ تک رسائی پر جس آمادگی کو تیری نصرت محیط ہو اور مجھے پھینک باطل پر پس میں اس کو فنا کروں

وَزُبْرِي فِي بَحَارِ الْأَحْدِيثِ وَأَنْشَلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ وَأَغْرِقْنِي

اور مجھے تیرا احدیت کے سمندروں میں اور مجھے اچک لے توحید کے سمیچڑوں سے اور غرق فرما مجھے

فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعُ وَلَا أَجِدُ وَلَا أَحْسُ إِلَّا بِهَا

وحدت محضہ کے سمندر میں یہاں تک کہ میں نہ دیکھوں اور نہ سنوں اور نہ پاؤں اور نہ لو پس کروں مگر ساتھ اسی کے

وَأَجْعَلِ الْحِجَابَ الْأَعْظَمَ حَيَاةَ رُوحِي وَرُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتَهُ

اور بناوے مجھ کو حجاب اعظم کو میری روح کی حیات اور اس کی روح کو میری حقیقت کا بطن اور اس کی حقیقت کو

جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ

میرے تمام جہانوں کا جامع و محیط بطفیل حق اول کے تحقق و ثبوت کے۔ اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے باطن

إِسْمَعُ نِدَائِي بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا وَانصُرْنِي بِكَ

سن میری فریاد کو بطفیل سننے اپنے عبد خاص حضرت زکریا کی نداء و فریاد کے اور میری مدد فرما بطفیل اپنی ذات کے واسطے اپنی ذات

لَكَ وَأَيِّدْنِي بِكَ لَكَ وَأَجْمِعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَا

کے اور میری تائید و تقویت فرما بطفیل اپنی ذات کے واسطے اپنی ذات اور اجتماع و جمعیت پیدا فرما میرے اور اپنے درمیان اور حائل ہو میرے و تیرے کے

اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَا سَأَلْتُكَ بِنُورِهَا وَجْهَكَ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ

اپنے درمیان یا اللہ یا اللہ یا اللہ - اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بطفیل تیری ذات عظیم کے نور کے جو

الْجَامِعَةَ مِنْ نُورِ كَمَالِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جامع و کامل نیکی اور احسان ہیں تیرے نور کمال سے یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُصْطَفَىٰ عِنَايَتِكَ أَنْ تَتَّخِذَ ذَاتِنَا بِذَاتِهِ الْمَقْدَّاسَةِ بِجَلَالَتِكَ وَتُحَقِّقَ

جو انتخاب ہیں تیری عنایت کا کہ متحد فرمائے ہماری ذات کو ان کی ذات مقدسہ سے بطفیل اپنی جلالت کے اور ثابت فرمائے

صِفَاتِنَا بِصِفَاتِهِ الْمَشْرُوقَةِ بِمَحَبَّتِكَ وَتَتَبَدَّلَ اخْلَاقَنَا بِاخْلَاقِهِ الْمَعْظَمَةِ

ہماری صفات ان کی نورانی روشن صفات کے ساتھ بطفیل اپنی محبت کے اور تبدیل فرمائے ہمارے اخلاق کو ان کے اخلاق معظّمہ کیساتھ

بِكِرَامَتِكَ فَيَكُونُ عَوْضًا لَنَا عَنْ فَتْحِ حَيَاتِنَا الطَّيِّبَةِ النَّقِيَّةِ وَنَمُوتَ

اپنی کرامت سے پس وہ ہو جائیں ہمارا عوض اور بدل ہماری جگہ پس ہم زندہ رہیں ان کی حیات طیبہ پاکیزہ کے ساتھ اور وفات پا میں

مَيْتَةَ السُّوِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ وَأَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْقَبْرِ لِنَاسِرٍ جَامِتِيرًا وَبَهْجَةً وَعِنْدَ

موزوں اور پسندیدہ حالت موت پر اور انہیں بنائے ہماری قبروں میں ہمارے لیے سراج منیر اور سراپا بہار اور اپنی ملاقات

الِلْقَاءِ عِدَّةً وَبِرْهَانًا وَأَنْ تَحْشُرَنَا مَعَهُ فِي زُمْرَتِهِ مَعَ إِلِهِ وَخَاصَّتِهِ

کے وقت سامان تسکین اور برہان اور ہمیں اٹھائے ان کی جماعت میں ان کی آل اور خواص کے ساتھ

مُزَيِّنِينَ بِزِينَةِ الْإِيْمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

در آنجا لیکہ مزین ہوں ایمانی زینت کے ساتھ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُتَّبِعِ الْبَرَكَاتِ وَإِسْمِهِ فَوْقَ الْمَسْبِيَّاتِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جو برکات کا سرچشمہ ہیں اور ان کا اسم گرامی تمام اہل اسماء پر فوقیت رکھتا ہے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي مَأْجِبُكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ میں محبت کی تو نے

أَحَدًا إِلَّا دَبَّتْ وَسُطُّ حُبِّكَ إِثْرًا فَاتَهُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ الْمَقْصُودُ مِنْ

سے مگر اس محبوب کے ساتھ اپنی محبت کے توسط سے کیونکہ وہی پسندیدہ محبوب ہیں جو تیرے مقصود ہیں تمام

الْمَحْبُوبِينَ وَالْمَطْلُوبُ الْأَصْلِيُّ مِنَ الْمَطْلُوبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محبوبوں سے اور مطلوب اصلی ہیں تمام مطلوبین سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَصِّ بِسِرِّ أَوْ أَدْنَى وَالنُّونِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب مختص ہیں ساتھ رازِ اَوْ اَدْنَى کے اور رازِ نون

وَالْقَلَمِ الْأَعْلَى وَالْمَخْصُوصِ بِالْوَحْدَةِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور قلم اعلیٰ کے اور مخصوص ہیں ساتھ وحدت کبریٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ وَاصِفٌ وَلَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کا احاطہ تناء نہیں کر سکتا کوئی واصف اور نہ

يَكْنُهَا نَاعَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے کوئی نعت گو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ فَيَاضًا وَجَبْرِيًّا بَيْنَ الْوَجُودِ وَالْعَدَمِ

آل اطہار پر جو فیض رسان تھے اس وقت میں جبکہ جبریل امین ابھی وجود و عدم کے درمیان تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

شِفَاءً صَدُورِنَا وَنُورًا لِقُلُوبِنَا وَرُوحًا أَرْوَاحِنَا وَحَيَاةً حَقَائِقِنَا

جو محبوب ہمارے سینوں کے لیے شفا اور قلوب کے لیے نور اور ارواح کی روح اور جان اور ہمارے حقائق کی حیات

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حُرُوفِ الْحَمْدِ أَنْ تَرْزُقَنِي عِلْمًا

ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفِ حروفِ حمد کے کہ مجھے عطا فرما قطعاً علم

ضُرُوبِيًّا بِالسُّكْلِمِ وَكَلَامِهِ وَبِرَادِيهِ مِنْ كَلَامِهِ فَأَرْزُقَنِي

متکلم اور اس کے کلام کا اور اس کے مقصدِ کلام کا اور مجھے رزق عطا فرما

مِنْكَ رِزْقًا لَا نَفَادَ فِيهِ وَعَلْفَةً مَّحْمُودَةً لَا خَيْبَةَ فِيهَا وَلَا حِجَابَ وَ

اپنی طرف سے کہ جو ختم نہ ہونے والا ہو اور قابلِ ستائش خوراک جس میں رسوائی نہ ہو اور نہ حجاب و

الْكَفَى فِي كُنْفِ كِفَايَتِكَ بِفُصُوحِ صُفُوفِ أَهْلِ صَفْوَتِكَ اللَّهُمَّ

مخروی اور مجھے جگہ عطا فرما اپنی کفایت کے پہلو میں بطفیل اپنے اہل اصطفاء کی صفوں والے نگینوں کے۔ اے اللہ

ارْزُقْنِي رِزْقًا وَاسِعًا عَلَى الدَّوَامِ وَإِصْلًا مِنْكَ إِلَى عَبْدِكَ عَلَى

مجھے رزق وسیع عطا فرما ہمیشہ کے لیے جو پہنچنے والا ہو تیسری طرف سے تیرے عبد تک

طَرِيقَةَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ عَارِيًا مِنْ الْكَلْفِ وَالْبُحْنِ خَالِيًا عَنْ

خاص و عام طریقہ پر در آنحالیکہ خالی ہو تکلیفوں اور محنتوں سے اور خالی ہو زمانے کی

بَوَائِقِ الدَّهْرِ وَشِدَائِدِ الْفِتَنِ نَافِعًا فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ يَا مَنْ

ہلاکتوں اور شدید فتنوں سے نفع دینے والا ہو دین میں اور بدن میں، اے کہ جس کا

فَضْلُهُ عَظِيمٌ وَلُطْفُهُ عَظِيمٌ وَإِحْسَانُهُ قَدِيمٌ وَنَفْسُهُ كَرِيمٌ وَرَسُولُهُ

فضل عظیم ہے اور اس کا لطف عام ہے اور احسان قدیم اور ذات کریم اور اس کا رسول

رَحِيمٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمْ وَرَبُّ حَلِيمٍ أَسْأَلُكَ فَتْحَ بَابِ الْمُنَاجَاتِ

رحیم ہے اور آپ قادر و عظیم ہے اور رب حلیم ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مناجات و دعا کے دروازوں

فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ وَفِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ

کو کھولنے کا تمام اوقات و ساعات میں اور تمام قسم کی عبادات اور

وَالطَّاعَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّنَا

طاہات میں بطفیل اپنی رحمت کے لیے ارحم الراحمین اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے

وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُنَا وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدَّارُ تَقْدِيرِ اللَّهِ

اور ہر شئی کا رب ہے ہمارا خالق ہے اور ہر شئی کا خالق ہے اور ہر شئی کو مخصوص انداز پر بنانے والا ہے۔ اے اللہ

أَرْحَمَنِي إِذَا انْقَضَى أَجَلِي وَأَنْقَطِعَ عَيْلِي وَكَيْفَ كَفَيْتُ وَقَارَقْتُ

مجھ پر رحم فرماتا جبکہ میری مدت عمر پوری ہو جائے اور عمل منقطع ہو جائے اور میں کفن پہن لوں اور قیام گاہ سے

سَكَّنِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جدا ہو جاؤں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الْوَسِيلَةَ فِي الْمَطَالِبِ الدِّينِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب مجسم و سید ہیں تمام دینی اور دنیوی مطالب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةَ الْوَاسِعَةَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سراپا رحمت ہیں جو محیط

الشَّامِلَةَ لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْعَالَمِينَ وَالتُّورِ الْمُنُورِ لِلأَوَّلِينَ

ہیں عالمین کے ہر فرد کو اور مجسم نور ہیں جو اولین و آخرین کو منور کرنے والے

وَالْآخِرِينَ وَالْمَحْمُودِينَ فِي الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں اور تمام جہانوں میں قابل ستائش ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ الْأَكْمَلِ وَجَبِيكَ الْأَجْمَلِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے کامل ترین رسول اور جمیل ترین محبوب اور

خَلِيكَ الْأَفْضَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

افضل ترین خلیل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ وَأَشْرَفِ بَرِيَّتِكَ وَأَفْضَلِ مَصْنُوعَاتِكَ

آل پر جو ساری مخلوق سے بہتر اور تمام مخلوق سے بلند مرتبت اور تیری مصنوعات سے افضل ترین

وَمَحَلِّ عِنَايَاتِكَ وَمَنْزِلِ شُعَاعَاتِكَ وَظُهُورِ أَيْتِكَ وَمَنْبَعِ

اور تیری عنایت کا محل اور تیری تجلیات اور ظہورات محل نزول اور تیری شیون اور کیفیات افعال

صُورِ الْعِلْمِيَّةِ لِشَيْوَنِكَ وَمَعْدِنِ أَنْوَارِكَ وَفَخْرِنِ اسْرَارِكَ

کی علمی صورتوں کے سرچشمہ اور تیرے انوار کی کان اور اسرار و اعتبارات

وَإِعْتِبَارَاتِكَ وَمُقَرَّبِكَ وَمُخْتَارِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَلَدُ الَّذِي

کا خزانہ اور تیرے مقرب اور مختار و منتخب ہیں۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَ

نہیں معبود برحق مگر تو، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے برائی کی ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور

اعترفُ بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا الله

اپنے گناہ کا اعتراف کیا لہذا میرے گناہ بخش کیونکہ نہیں گناہ بخشتا مگر صرف تو

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذاني وترجى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو تیری ذات محض کے عبد ہیں اور ترجی ہیں

حضرت ديوان الكبرياء الالهى الاقدس اللهم صل وسلم

دیوان کبریاء خداوند تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

على سيدنا محمد ماجلى ذات العظمة الالهى الازده اللهم صل

فرما سیدنا محمد پر جو جلوہ گاہ ہیں عظمت والی ذات الہیہ کے جو پاکیزہ تر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وسلم على سيدنا محمد سر الاقدس من لذات الالهى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو ذات الہیہ کے مقدس محفوظ راز

المصون اللهم انا نسئلك عزة الدارين يا عزيز اللهم اعزني

ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں داریں میں عزت کا اے عزیز۔ اے میرے رب مجھے

بعزتك يا عزيز اللهم اهديني واجعلني من عبادك الاعز

عزت عطا فرما اپنی عزت کے ساتھ اے عزیز۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے اپنے عزت والے بندوں سے بنا

يا عزيز اللهم احكم بالفضل يا حكيم تحكم بالعدل وتقصي

اے عزیز۔ اے اللہ فضل کے ساتھ فیصلہ فرما اے حکیم تو عدل کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ

بالحق وانت خير الفاصلين يا قهار يا قاهر قد قهرت

فرماتا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اے قاہر۔ اے قہار۔ اے نگران تو غالب ہے

عبادك بالفناء يا معيث يا حسيب يا خليل يا مقتدر يا قهار

اپنے بندوں پر فنا کرنے کے ساتھ۔ اے فریاد رس۔ اے حساب لینے والے۔ اے خلیل۔ اے صاحب اقتدار تو کرتا ہے جو

تريد يا محيط يا رقيب يا من احاط بكل شئ

ارادہ کرے۔ اے احاطہ کرنے والے۔ اے نگران اے کہ جس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا از روئے گنتی و شمار کے اور تدبیر فرماتی ہے

الْأُمُورَ كُلَّهَا بِحِكْمَتِكَ وَأَمْسَكْتَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِكَ

تمام امور کی اپنی حکمت سے روک رکھا ہے آسمان و زمین کو اپنی قدرت سے

يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ تَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ اے وارث جو مالک حقیقی ہے زمین اور اس پر کی اشیاء کا اور تو بہترین وارث ہے

وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ لِتَحَاسِبَهُمْ وَأَنْتَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

اور تو اٹھائے گا اہل قبور کو تا کہ ان سے حساب لے اور تو بہت جلد حساب لینے والا ہے

يَا وَاسِعَ الْمُلْكِ وَالْعِلْمِ وَالرَّحْمَةِ لَا يَخْرُجُ مِنْ سُلْطَانِكَ شَيْءٌ

اے وسیع ملک اور علم و رحمت والے تیری سلطنت سے کوئی شے باہر نہیں اور

وَلَا يُعْجِزُكَ شَيْءٌ وَرَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا مُحِيطُ يَا مُبِينُ

نہ کوئی شے تجھے عاجز کر لے والی ہے اور تیری رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ اے حق محض۔ اے واضح و روشن

أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْبَيِّنُ وَسُلْطَانُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَ

تو ہی برحق واضح شہنشاہ ہے اور تیرا غلبہ و سلطنت برحق تیرا قول برحق اور

وَعْدُكَ الصِّدْقُ وَلَا تُخْلِفُ مِيعَادَكَ وَلَا تَظْلِمُ عِبَادَكَ يَا

تیرا وعدہ برحق و صادق اور تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ اے

ذَا الْقُوَّةِ الْبَيِّنِ يَا غَالِبُ يَا مُغْنِي أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ وَ

پائیدار قوت والے، اے غالب، اے غنی کرنے والے، تو ہی غنی ہے اور ہم فقراء ہیں۔ اور

أَنْتَ الْقَوِيُّ وَنَحْنُ الضُّعْفَاءُ لَا قُوَّةَ إِلَّا مَنْ قُوَّتُهُ وَلَا غِنَى

تو ہی قوی ہے اور ہم ناتواں ہیں۔ نہیں کوئی قوت والا مگر جس کو تو قوت دے اور نہیں کوئی غنی

إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتَهُ يَا خَالِقُ يَا خَالِقُ أَنْتَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَأَنْتَ

مگر جس کو تو غنی کرے اے خالق۔ اے خلاق تو ہی بہترین خالق ہے اور

أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ لَا خَالِقَ لِلْخَلْقِ غَيْرِكَ وَلَا مُدَبِّرَ لِلْخَلْقِ سِوَاكَ

بہترین حاکم۔ نہیں ہے خالق مخلوق کا سوائے تیرے اور نہ مدبر و منتظم ان کا سوائے تیرے

وَأَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمُدَبِّرُ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ

اور تو برپا رکھنے والا ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کو اور تدبیر کرنے والا ہے تمام مخلوقات کی اور

مُنُورٌ أَبْصَارٍ بَصَائِرِ الْعَارِفِينَ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَجَادِبٌ

منور فرمانے والا ہے عارفوں کی چشمان بصیرت کو نور معرفت اور یقین کے ساتھ اور کشش کرنے

أَسْرَارِ الْأَيْمَةِ وَالْمُحَقِّقِينَ بِجَذَابِ الْقُرْبِ وَالتَّمَكِّينِ وَفَاتِحٌ

والا ہے ائمہ اور ارباب تحقیق کے اسرار کو مقام قرب اور تمکین والی کشش کے ساتھ اور کھولنے والا ہے

قُلُوبِ الْمُؤَحِّدِينَ بِمِفْتَاحِ حَمْدِ الشَّاكِرِينَ وَجَامِعٌ أَشْتَاتِ

موحدین کے قلوب کو شکر گزاروں کی حمد والی چابی کے ساتھ اور مجتمع فرمانے والا ہے

شَمْلِ الْمُحِبِّينَ فِي حَظَائِرِ قُدْسِهِ بِمَجْمَعِ الْحِفْظِ وَالْيَقِينِ

اہل محبت کی پراگندگیوں کو اپنے مقامات قدس میں ساتھ حفظ و یقین کے عمل جمعیت کے

أَحْمَدًا حَمْدًا يَفُوقُ وَيَعْلُو وَيَفْضُلُ حَمْدَ الْحَامِدِينَ حَمْدًا

میں اس کی حمد کرتا ہوں جو فائق اور عالی ہے اور فضیلت والی ہے اہل حمد کی حمدوں سے ایسی حمد کہ

يَكُونُ لِي فِيهِ رِضًا وَفِيضًا وَحِفْظًا وَذَخْرًا وَحِرْزًا عِنْدَ

میرے لیے ہو اس میں رضا اور فیض اور حفاظت اور نصیب اور ذخیرہ اور پناہ میرے

خَالِقِي وَخَالِقِ الْأَقَالِيمِ وَالْجِهَاتِ وَالْأَقْطَارِ وَالْأَعْصَارِ

خالق کے نزدیک اور تمام ولایات و جہات اور اقطار و جوانب اور امصار و بلاد اور اعصاب و ازمان

وَالْأَمْلاكِ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْأَفْلاكِ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ السَّمَوَاتِ

ملائکہ اور جنوں اور انسانوں اور آسمانوں کے خالق کے نزدیک جو تمام جہانوں کا رب - تمام آسمانوں

وَالْأَرْضَيْنِ وَرَبُّ الْأَقْرَبِينَ وَرَبُّ الْأَبْعَدِينَ وَرَبُّ الْأَوَّلِينَ وَرَبُّ

اور زمینوں کا رب اور قریب ترین اور بعید ترین کا رب ہے۔ اور اولین و آخرین کا

الْآخِرِينَ وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَرَبُّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

رب ہے اور ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کا رب ہے

نَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْدِّينِ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ لَا

ہم تجھ سے ترفیق طلب کرتے ہیں دنیاوی اور دینی امور پر۔ اے گراہوں کو ہدایت دینے والے ہمارے

هَادِيَ لَنَا غَيْرُكَ وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

سوا کوئی ہادی نہیں تو واحد ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو ہی شہنشاہِ برحق واضح و روشن ہے

يَا رَبَّ الْخَلَائِقِ اجْبَعِينَا^ط وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَهَادِيَنَا وَهُدِينَا

اے رب تمام مخلوق کے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد جو ہمارے نبی اور ہادی و

مُحَمَّدًا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ وَحَبِيبَكَ النَّبِيَّ صَادِقَ الْوَعْدِ وَرَحِيمَكَ

مہدی ہیں وہ تیرے عبد خاص۔ رسول برحق اور تیرے حبیب نبی سچے وعدہ والے اور رحیم و

الْأَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي خَصَّصْتَهُ بِحَبِيبَتِكَ الْخَاصَّةِ وَعِنَايَتِكَ التَّامَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہیں تو نے اپنی محبت خاصہ اور عنایت کاملہ کے ساتھ مخصوص ٹھہرایا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِكَ الْجَلِيلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو تیرے جمال مجسمِ جلیل

الْجَبِيلِ وَالْحَبِيبِ الْخَلِيلِ وَنُورِكَ الْمُتَحَلِّيِّ فِي كُلِّ ظِلٍّ وَأَصِيلِ

و جمیل اور حبیب و خلیل اور تیرے نور مجسم ہیں جو جلوہ نگن ہیں ہر عکس و پرتو اور اصل اصیل ہیں

وَالْمُتَجَلِّيِّ فِي كُلِّ مَدْلُولٍ وَدَلِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جلوہ گر ہیں ہر مدلول اور دلیل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا نِهَايَةَ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَ

محمد و آل محمد پر کہ جن کے حسن و جمال کی انتہاء نہیں اور

لَا غَايَةَ لِفَضْلِهِ وَكَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نہ ان کے فضل و کمال کی حد و غایت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاحِدِ الرَّوْحَانِيِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْرَهُكَ

آپ کی آل پر جو یگانہ اور یکتا اور سراپا روح ہیں۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور

أَشْرَهُكَ مَلِكِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَأَشْرَهُكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تیرے ملائکہ کو اور حاملین عرش کو اور گواہ بناتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق کو

أَنْتَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

بیشک تو ہی اللہ ہے نہیں معبود برحق مگر تو واحد لا شریک لہ۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَلِ الْوُجُودِ وَالصُّوَرِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو جمیل ترین وجود اور صورت و شکل والے

وَلَطِيفِ الظَّاهِرِ فِي الْأَحْسَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور لطیف ترین اور حسین ترین والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاصِلِ فِي كَمَالِ إِلَىٰ كَمَالِهِ وَالْبَالِغِ فِي كُلِّ

آل محمد پر جو ہر کمال میں انتہاء کو پہنچے ہوئے ہیں اور ہر

فَضْلٍ إِلَىٰ غَايَةِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فضیلت و شرف میں حسن و جمال کی غایت تک واصل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقُطْبِ السَّرْمَدِيِّ وَالنُّورِ السَّاطِعِ الْأَزَلِيِّ

و آل محمد پر جو دائمی قطب (اور مدار کائنات) اور ازلی وابدی غالب نور

الْأَيْدِيَّ وَحَبِيبِ الْمَطْلُوقِ الْأَنْزَلِيِّ وَالنَّبِيِّ الْأَكْمَلِ السَّرْمَدِيِّ اللَّهُمَّ

ہیں اور ازل سے حبیب مطلق اور ہمیشہ کے لیے نبی اکمل ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ كَلِمَاتِهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جن کا فضل

فَضْلُهُ وَعَطَائُهُ وَوَسِعَ الْبَرِّيَّةَ جُودُهُ وَنِعْمَائُهُ وَعَمَّ كَلِمَاتِهِ

و انعام عام ہے اور ان کا جو دو احسان مخلوق کو محیط ہے اور ان کا نور عام ہے

وَ اكْمَلْ ظُهُورَهُ وَ اجْعَلْ سِرَّةَ اللّٰهِمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کا ظہور کامل ترین اور سرو باطن جلیل و بزرگ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ الْاَشْيَاءِ وَ جُودًا وَ اٰخِرِ التَّجَلِّيَّاتِ

اور آپ کی آل سیدنا محمد پر جو تمام اشیاء مخلوقہ سے اول ہیں و جود میں اور آخری تجلی

وَ غَايَةَ الظُّهُورَاتِ فِيْ عَالَمِ الْاَجْسَامِ ظُهُورًا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور غایت و انتہاء ہیں تمام عالم اجسام کے ظہورات کی از روئے ظہور کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمُحْتَرَمِ وَ الرَّسُولِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محترم نبی اور صاحب حشمت

الْمُحْتَشَمِ وَ مَنْ اَقْتَدٰى بِهٖ الرَّسُلُ الْكِرَامُ وَ تَمَّتْ فِيْ اُمَّتِهٖ اُولُو

رسول ہیں اور جن کی رسل کرام نے اقتداء کی اور اولو العزم عظیم المرتبت رسل نے ان کی امت

الْعَزْمِ الْفِتْحَامُ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

سے ہونے کی از روئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ لَا يَأْسُ عَلٰى بَابِهٖ لَذَوِي الْحَاجَاتِ وَ لَا خِيْبَةٌ فِيْ حَضْرَتِهِ

پر کہ نہیں ہے شدت و سختی ان کے در اقدس پر حاجتمندوں کے لیے اور نہیں نامرادی ان کی بارگاہ میں

لَا هُلَّ الْمُرَادَاتِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اہل حاجات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ مُّزَكِّيْ النَّفُوْسِ مِنَ الْاَدْنٰسِ وَ مُطَهِّرِ الصُّدُوْرِ عَنِ الْاَرْجَاسِ ط

پر جو نفوس کو پاک کرنے والے ہیں میلوں کچیلوں سے اور سینوں کو پاک کرنے والے ہیں نجاستوں سے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّبَشِّرًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ بشارت دینے والے ہیں

بِسُطُوْعِ نُوْرِ رِسَالَتِكَ الْمَسِيْحِ وَ مُخْبِرًا بِطُلُوْعِ نَجْمِ جَلَالَتِكَ اللَّطِيْحِ

آپ کے نور رسالت کے غلبہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خیر دینے والے ہیں آپ کی بزرگی و لے ستارہ کے طلوع کی سطح

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو تیرے عزت والے

الْعَزِيزِ وَشُعَاعِكَ الْغَالِبِ وَرُوحِكَ السَّارِي السَّارِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نور اور غالب شعاع اور مخصوص روح ہیں جو ساری مخلوقات میں اسراریت کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلْبِ الْخَلَائِقِ وَوَاسِطِ الْبَرَكَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تمام خلایق کے لیے مانند قلب و روح ہیں اور تمام مخلوقات کے واسطہ و وسیلہ ہیں

فِي عَالَمِ الْبَثَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عالم مثال میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا تَوَسَّلَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا وَصَلَ إِلَى مَقْصُودِهِ وَمَا اسْتَشْفَى

پر کہ جس نے بھی ان کو وسیلہ بنایا تو اپنے مقصد تک پہنچا اور جس مریض نے ان

بِهِ مَرِيضٌ إِلَّا شَفِيَ مِنْ مَرَضِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے طفیل شفا طلب کی اس نے شفا پائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَقْصُودِ الْمَحْبُوبِ فِي الْكُلِّ وَ

محمد و آل محمد پر جو مقصود و محبوب ہیں تمام عالم میں اور

مِنَ الْكُلِّ فِي عَالَمِ الْإِنْسَانِ الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تمام عالم انسان کامل میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ وَالصَّفِيِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو حبیب و محبوب الہی ہیں اور محب بھی۔ اور اللہ کے منتخب

الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ اللَّهُمَّ أَحْيِ لَنَا الْإِسْمَ وَالْجِسْمَ وَالرُّسْمَ

اور اس کے طالب و مطلوب۔ اے اللہ زندہ فرما ہمارے نام اور جسم اور رسم و نشان کو پاکیزہ

حَيَوَةً طَيِّبَةً أَبَدًا دَائِمَةً مَسْتَوْرًا مَعْمُورًا مَسْرُورًا مَقُورًا

ابدی دائمی حیات کے ساتھ درآئنا لیکہ ہماری پردہ پوشی کی گئی ہو اور ہمیں آباد و سرور کیا گیا ہو اور وافرحصہ دیا گیا ہو

بَفِيضِ فَضْلِ الْفِيَاضِ مُسْتَفِيضِ الْقَلْبِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

فیاض اقدس کے فراوان فیض سے ہمارے دل فیضیاب ہوں۔ وہ ہی عظیم کامیابی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْحُبِّ الَّذِي الْمَحَبُّ مَعَ الْمَحْبُوبِ حَارِقٌ وَالطَّلِبِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس محبت کا کہ جس سے محب محبوب کے لیے جلنے والا ہوتا ہے اور ایسی

الَّذِي الطَّالِبُ مَعَ الْمَطْلُوبِ شَارِقٌ وَرَبِطِ الَّذِي الرَّابِطُ بِالْمَرْبُوطِ بَوَارِقٌ

طلب کا کہ جس سے طالب مطلوب کے لیے خون کے آنسو روتا ہے اور ایسے ربط و تعلق کا کہ ربط والا اپنے تعلق والے کے ساتھ

وَالْخِيَالِ الَّذِي الْمَخِيُولُ بِالْمَخَائِلِ حَوَارِقٌ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ

حیران و سرگردان ہوتا ہے اور ایسے خیال کا کہ خیال والے اپنے نقش خیالی کے ساتھ جلن پلتے ہیں ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے

دِينًا وَبِحَدِيدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ

دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ از روئے نبی و رسول ہونے کے اور قرآن کے ساتھ از روئے امام اور کعبہ کے

قِبْلَةً وَبِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ فَرِيضَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا وَ

قبلہ ہونے اور نماز و روزہ اور زکوٰۃ و حج کے فرض ہونے پر اور مؤمنین کے بھائی ہونے پر اور

بِالصَّدِيقِ وَبِالْفَارُوقِ وَبِذِي النُّورَيْنِ وَبِالْمُرْتَضَى أَيْمَةً رَضَوْنَا بِاللَّهِ

صدیق اکبر۔ فاروق اعظم۔ عثمان ذوالنورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم

تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَوَامِعِ أَسْمَائِكَ وَلَطَائِفِ

کے امام ہونے پر۔ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے اسماء کے جامع اسرار اور تیری صفات

مَظَاهِرِ صِفَاتِكَ وَقِدَامِ وَجُودِ ذَاتِكَ أَنْ تُنَوِّرَ قُلُوبَنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ وَأَنْ

کے لطیف مظاہر اور تیری ذات کے وجود قدیم کے طفیل کہ منور فرمائے ہمارے دلوں کو اپنے نور ہدایت کے ساتھ اور

تُلْهِمَنَا حُبَّ مَعْرِفَتِكَ وَأَنْ تُسْتُرَ عَلَيْنَا بِسُتْرِ حَبَايَتِكَ وَأَنْ تَجْعَلَ أُنْسَنَا

ہمیں اللہ فرمائے اپنی معرفت کی محبت کا اور ہم پر پردہ ڈالے اپنی حمایت کا اور ہمیں اپنے ساتھ

بِكَ وَشَوْقَنَا إِلَيْكَ وَخَوْفَنَا بِكَ حَتَّى لَا نَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ وَلَا نَخْشَى أَحَدًا

ماتوس فرمائے اور اپنی طرف شوق و رغبت اور اپنی ذات کا خوف بخشنے حتیٰ کہ ہم تیرے سوا کسی سے امید نہ رکھیں اور نہ تیرے سوا

سَوَاكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَحْسِنُ الْمُنْعِمُ الْفَضِيلُ الْمَسْجِدُ الْمُنَادِي الْقَابِلُ

سوا کسی سے ڈریں۔ لے اللہ بیشک تو ہی صاحب احسان، صاحب انعام، فضل و مجد عطا کرنے والا، صاحب قدرت،

الْعَظِيمُ الْمُقْتَدِرُ الْقُدُّوسُ الْمُقَدَّسُ فِي نُورِ الْقُدْسِ تَرَدَّدَتْ بِالْعَرْشِ الْمُنَادِي

عظیم، صاحب اقتدار۔ بذات خود مقدس، طہارت بخشنے والا ہے نور قدس میں تو نے عزت و بزرگی کی چادر اوڑھ رکھی ہے

وَتَأَزَّرْتَ بِالْعُظْمَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَتَعَشَّيْتَ بِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ وَتَجَلَّيْتَ بِالْبَهَائِ

اور عظمت و کبریائی کی تمہد باندھ رکھی ہے اور پوشیدہ ہو گیا ہے بسبب کثرت نور و ضیاء کے اور بزرگی کا ہر فرمائی مصیبت اور نور کے

وَالْبَهَاءِ لَكَ الْمَنْ الْقَدِيمُ وَالْفَضْلُ الْعَظِيمُ وَالسُّلْطَانُ الشَّامِلُ وَالْمَلِكُ الْبَارِعُ

ساتھ تیرا ہی ہے قدیم احسان اور عظیم فضل، بلند مرتبت سلطنت اور عظیم الشان ملک

وَالْجُودُ الْوَاسِعُ وَالْفَيْضُ الشَّامِلُ وَالْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ وَالْحِكْمَةُ الْعَالِيَةُ وَالْحُكْمُ

اور وسیع جود اور فیض عام، قدرت کاملہ اور حکمت عالیہ اور حجت

الْبَالِغَةُ وَالْعِزَّةُ الشَّامِلَةُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْإِعْتِمَادَ عَلَيْكَ وَالْإِقْتِيَادَ إِلَيْكَ

بالغہ کاملہ اور محیط عزت۔ لے اللہ ہمیں نصیب فرما اپنی ذات پر اعتماد اور اپنی تابعداری

الْحُبَّ فِيكَ وَالْقُرْبَ مِنْكَ وَالْأَدَبَ مَعَكَ وَأَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اپنی ذات کی خاطر حب اور اپنا قرب اور ادب اور تو ہی منور فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا عزت

جَارِكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَعَظُمَ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

والا ہے تیری پناہ لینے والا اور بزرگتر ہے تیری ثنا اور مقدس ہیں تیرے نام اور عظیم ہے تیری شان اور نہیں معبود برحق تیرے سوا ہیں سلامی

وَسَلِّمْ وَكَيْلُ إِيْمَانِنَا وَتَمِّمْ عِرْفَانِنَا وَوَجِّهْنَا بِكَلِمَتِنَا إِلَيْكَ وَلَا تَكُنْ كَالَّذِينَ

بخش اور ہمارے ایمان کو سالم و کامل بنا اور ہمارا عرفان مکمل فرما اور ہمیں مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ فرما اور نہ سونپ ہمیں

أَنْفُسَنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ وَشَوْقُنَا إِلَى لِقَائِكَ وَأَقْطَعْ عَنَّا دُونَ

اپنے نفسوں کی طرف پلک بھپکنے کی مقدار اور نہ اس سے کم اور اپنا شوق ملاقات بخش اور کاٹ دے ہم سے ہر وہ شئی

قَاطِعٍ يَقْطَعُ عَنْكَ وَقَرِّبْنَا إِذَا أَبْعَدْتَنَا وَأَقْرِبْ مَنَّا إِذَا أَبْعَدْتَنَا

جو ہمیں تجھ سے قطع کرے۔ اور قریب فرما نا ہمیں جب دور کر دے۔ اور قریب تو نا ہم سے جبکہ ہمیں اپنے قریب کرے اور ہمیں علم عطا فرما جبکہ

جَهَلْنَا وَفَهَّمْنَا إِذَا عَلَّمْتَنَا يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا قَادِرُ يَا غَافِرُ يَا عَلِيمُ يَا

ہم جاہل ہوں اور فہم دفراسست عطا فرمانا جبکہ علم عطا کرے، اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے قادر۔ اے غافر۔ اے علیم۔ اے

مَوْلَايَ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَايَ يَا غَافِرُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ وَأَعِذُ نَفْسِي وَدِينِي وَإِيمَانِي

میرے مولیٰ۔ اے قادر۔ اے میرے مولیٰ۔ اے بخشنے والے۔ اے لطیف۔ اے خبیر اور میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے نفس اور دین و ایمان

وَأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَالِي وَعِيَالِي وَإِخْوَانِي وَذَوِي عِنَايَتِي وَجَمِيعِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى

اور اہل و اولاد اور مال و عیال اور برادران اور اپنے اہل عنایت کو اور اپنے ہاں موجود اللہ تعالیٰ کی تمام

عِنْدِي بِشِدَّةِ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّةِ اللَّهِ وَبَطْشِ اللَّهِ وَجِدْوَتِ اللَّهِ وَفَوَاقِيقِ اللَّهِ

نعمتوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور سخت گرفت کے اور اللہ کے تسلط و غلبہ اور اس کے پختہ عمدوں

وَطَاعَتِهِ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ يَا دَائِمًا بِلَا فَنَاءٍ وَيَا قَائِمًا بِلَا زَوَالٍ

اور طاقت کے جن و انس پر اللہ کی عطا سے ایک جو دائم ہے بغیر فنا کے ایک جو موجود دائم ہے بغیر زوال کے

يَا مُدَبِّرًا بِلَا وَزِيرٍ سَهَّلْ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدَيْنَا كُلِّ عَسِيرٍ لَّا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ

اے کہ جو مدبر و منتظم ہے بغیر کسی وزیر کے آسان فرما ہم پر اور ہمارے والدین پر ہر مشکل امر کو۔ میں نہیں احاطہ کر سکتا تیری ثنا، کہ

أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَعَظُمَ

تو ہے (اس ثنا کا حقدار) جو اپنی آپ کی ہے عزت والا ہے تیرا پروردگار اور بزرگتر ہے ثنا تیری اور مقدس ہیں نام تیرے اور عظیم ہے

ثَنَائُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

ثنا تیری اور نہیں معبود برحق سوائے تیرے کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے ساتھ اپنی قدرت کے اور حکم فرماتا ہے جو ارادہ کرے ساتھ اپنی عزت کے تاکہ نہ ہو

تَصْدِيرَ الْأُمُورِ كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ

اللہ کی طرف ہی تمام امور لٹتے ہیں۔ ہر شئی ہلاک ہونی والی ہے مگر اس کی ذات کے۔ اس کیلئے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے پس کفایت کرے گا آپ کو اللہ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ الْمُنْتَهَى مِنْ

ان کی طرف سے اور وہی سننے جانتے والا ہے کفایت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور کافی ہے قبول فرماتا ہے اللہ اس کی جو دعا کرے نہیں اللہ کے علاوہ

أَعْتَصَمَ بِاللَّهِ نَجَى مَرْحَبًا بِالصَّبَاحِ الْجَدِيدِ وَبِالْيَوْمِ السَّعِيدِ وَبِالْمَلَائِكِينَ الْكَاتِبِينَ

کوئی جلتے رجوع جس نے اللہ کے ساتھ چنگل مارا نجات پائی خوش آمدید ہے نئی صبح اور سعادت مندوں کے لیے۔ اور دو لکھنے والے

الشَّاهِدِينَ الْعَادِلِينَ حَيَّاكُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي غُرَّةِ يَوْمِنَا هَذَا الْكُتُبُ فِي أَوَّلِ

گواہان عادل ملائکہ کے لیے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے ہمارے اس دن کی ابتداء میں لکھو ہمارے نامہ اعمال کے

صَحِيفَتِنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاشْهَدُ بِأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گواہ بنو کہ ہم خلوص دل سے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ

لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيٌ وَعَلَيْهَا

لا شریک لہ کی اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے عبد و رسول اور رسول برحق ہیں۔ اسی شہادت پر زندہ رہیں گے اور اسی پر

نَمُوتُ وَنَبْعَثُ إِنشَاءَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِسْرٍ وَحَدِيثِكَ الَّذِي

مریں گے اور اسی پر اٹھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل تیری وحدت کے سہرا کے جو کہ

هُوَ أَنْتَ وَعَدْتَسَ بِهِ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّكْرِ بِخَفِيِّ جَوْلَانِ مَعْرِفَتِكَ بِالْفِكْرِ الْخَفِيِّ

تیرا عین ہے، وعدہ دیا تو نے اس کے ساتھ اہل ذکر کے قلوب کو بسبب اپنی معرفت کی مخفی گردش کے ساتھ مخفی فکر کے

أَخْمَسْتَنِي يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فِي بَحْرِ أَنْوَارِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَأَمَلَا قَلْبِي مِنْ أَسْرَارِكَ

مجھے دلوں سے اے اللہ اے اللہ اپنی وحدانیت کے بحر انوار میں اور بھروسے میرے دل کو اپنے اسرار سے اور مجھے

وَفِي كَيْفِيَّتِكَ وَمِنْكَ وَأَسْأَلُكَ الْوُصُولَ بِالسِّرِّ الَّذِي تَدَاهَشُ مِنْهُ الْعُقُولُ فَهُوَ

جگہ اور پائیداری عطا فرما اپنی ذات میں اور اپنی ذات کی طرف اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے وصول کا بطفیل اس راؤ مخفی کے کہ دہشت زدہ ہوتے ہیں

مِنْ قُرْبِهِ ذَاهِلٌ أَيُّتَنُوخُ يَا مَلُوخُ بَايَ وَأَمِنْ أَيْ وَأَمِنْ مِهْبَاشِ الَّذِي

اس سے تمام عقول پس وہ اس کے قریب غافل ہو جاتے ہیں۔ اے تنوخ، اے ملوخ بای و آمن آئی و آمن مہباش جس کے

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا

یہ ہے ملک و سلطنت تمام آسمانوں اور زمین کی اور وہی عزیز حکیم ہے رب ہے مشرق و مغرب کا، نہیں

إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

معبود برحق مگر وہی پس اسی کو اپنا وکیل و کار ساز سمجھ۔ فرما دو وہی اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جناسی کو اور نہ

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

وہ جنا گیا اور نہیں ہے اس کا کوئی ٹیل اور مشابہ۔

